

فاؤلی حضرت

جلد سوم

مرتب

مولانا مفتی سعید احمد جلال پوری

رئیس دارالافتاء حسم نبوی کراچی

تحقيق و تحریج

مولانا قاضی احسان احمد • مولانا محمد ذوالقدر طارق • قاری حفیظ اللہ



قاوی حکم نبوت

جلد سوم

مرتب

مولانا فضیل عیاش احمد جلال پوری

رئیس دارالافتاء حکم نبوت کتابخانی

تحقيق و تحریج

مولانا قاضی احسان احمد مولانا محمد ذوالقدر طارق قاری حفیظ اللہ

عالیہ مجلسی تحقیق حکم نبوت

حضوری باغ روڈ • ملتان • فون: 514122



بسم الله الرحمن الرحيم!

انساب!

- یہ کتاب فروری ۲۰۰۶ء میں مکمل ہو رہی ہے۔ ۲ فروری ۲۰۰۶ء
 - بروز پیر شام کو دہلی میں امیر الہند حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنی امیر جعیت علمائے ہند و صال فرمائے گئے۔
 - حضرت مرحوم نے انڈیا میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا ہندکی داشتیل ڈالی۔ دارالعلوم دیوبند میں اس کا مرکزی دفتر قائم کیا۔
 - پورے ہندوستان کی دینی قیادت کو قادیانی فتنہ کے خلاف میدان عمل میں صف آراء کیا۔
 - یورپ، امریکا، عرب و ایشیاء میں قادیانی فتنہ کے خلاف آپ نے دن رات ایک کردار یئے۔
 - عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے آپ کی گرفناقد خدمات کے اعتراف میں اس کتاب کو آپ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت کی موسلا دھار بارش نازل فرمائیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین!
- مرتب!

حرف چند!

بسم الله الرحمن الرحيم .

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد!

”فتاویٰ ختم نبوت“ کی تیسرا (آخری) جلد پیش خدمت ہے۔ جلد اول میں ۲۹ کتب فتاویٰ جات سے روزقادیانیت کے فتویٰ جات کو بیجا تجویب کر کے شائع کیا تھا۔ دوسری جلد میں ان ۲۱ رسائل و کتب فتاویٰ جات کو بیجا کیا گیا و فتوے علیحدہ علیحدہ کتابی شکل میں شائع ہوئے تھے۔ پہلی جلد جون ۲۰۰۵ء دوسری جلد ستمبر ۲۰۰۵ء میں شائع ہوئی اور تیسرا جلد فروری ۲۰۰۶ء میں شائع ہو رہی ہے۔

..... فتویٰ ختم نبوت جلد اول کے صفحات ۵۲۲ فتویٰ ختم نبوت جلد دوم کے صفحات ۵۱۲

..... فتویٰ ختم نبوت جلد سوم کے صفحات ۲۲۲ میرزاں ۱۳۲۷

رب کریم کے کرم کو دیکھیں کہ قادیانی فتنہ کے خلاف پہلا فتویٰ سن ۱۳۰۱ھ میں شائع ہوا۔ سو سال بعد ان تمام فتویٰ جات کو جمع کیا گیا تو اس کے صفحات کی تعداد بھی حذف کر کے بعد سن ۱۳۰۰ھ قرار پائی۔

اس تیسرا جلد میں ۲۱ رسائل شامل ہیں۔ ان رسائل میں ”قادیانی ارتداڈ“ کی شرعی و قانونی حیثیت پر بحث کی

گئی ہے۔ ان رسائل کے نام یہ ہیں:

- | | |
|--------------------------------|--|
| جسٹس تمزیل الرحمن | مرتد کے احکام اسلامی قانون میں |
| مولانا علامہ خالد محمود | قادیانیوں کی شرعی و قانونی حیثیت |
| مولانا سید احمد سعید کاظمی | گتار رسول کی سزا قتل |
| مولانا مفتی محمد امین | سوش بائیکاٹ کی شرعی حیثیت |
| مولانا محمد سلم عثمانی دیوبندی | امل قبل کی تحقیق |
| صاحبزادہ مفتی عبد القادر | التحفة القادریہ عن استئلة المرزاقیہ |
| مولانا مفتی انعام الحنفی | اسلام میں شامِ رسول کی سزا |
| مولانا سیف اللہ حقانی | حرمت مذہبین المرتدین فی مقابل اسلمین |
| مولانا سید ابوالعلی مودودی | مرتد کی سزا اسلامی قانون میں |
| ابوالسعود محمد سعد اللہ المکی | اظہار حقانیت و ابطال قادیانیت |
| مولانا احمد رضا خان | الْوَعْدُ عَلَى أَكْلِ الْكَذَاب |
| مولانا نور محمد خان | دفع الالحاد عن حکم الارتداد |
| مفتی ولی حسن ٹوکی | لاہوری اور قادیانی مرزاں دنوں کافر ہیں |

حافظ ایمان از فتنہ قادریان

بایو پیر بخش خان لاہوری

☆..... فقیر نے تحریک ہائے ختم نبوت پر کام شروع کیا تو تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء، پڑھنیم کتاب شائع ہو گئی۔ تحریک ختم نبوت ۱۹۷۸ء کی روئیداد میں ضحیم جلدوں میں مکمل ہو گئی۔ البتہ تحریک ختم نبوت ۱۹۸۳ء پر لکھنا شروع کیا تو وہ کام نہ صرف ادھورا رہ گیا بلکہ اب تو اس کا مسودہ بھی نہیں مل رہا۔
 ☆..... ”قادیانی شہبات کے جوابات“ پر دو کتابیں مرتب ہو کر چھپ گئیں۔ لیکن ابھی تیسرا کتاب جو کذب قادریانی پر مشتمل ہو گی لکھنیں سکا۔

☆..... ”احساب قادیانیت“ کی چودہ جلدوں پر کام ہوا۔ لیکن ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔
 ☆..... البتہ فتاویٰ ختم نبوت پر اس تیسری جلد کے بعد کام مکمل ہو گیا۔ یہ جلد اس سلسلہ کی آخری جلد ہے۔ اس کام کی تکمیل پر جتنی خوشی ہوئی چاہئے اس کا جو قارئین اندازہ فرمائیں ان سے دعاویں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ یقین متذکر ہے بالا کام ہمیں مکمل کر دیں۔ و ماذاللک علی اللہ بع ذیز: حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں۔ جو کچھ ہوا کریم کے کرم سے ہوا جو ہو گا کریم کے کرم سے ہو گا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم قادیانی فتنے کے خلاف پوری امت کو جمع کرنے کا داعی ہے۔ گویا آگ اور پانی کو ایک ساتھ لے کر چلنا۔ فتاویٰ جاتیں کی تمام جلدوں میں بالعموم اس جلد میں بالخصوص متشاذبتوں میں پھیلنے والے آگ و پانی کے سیالابوں کے بھاؤ کو ایک پل کے نیچے سے گزارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے یہ قارئین کے فیصلہ پر مختصر ہے۔ ہماری مجبوری کو معاف کر دیں تو بھی جان بچی لاکھوں پائے۔ اللہ رب العزت جو دل کے بھیدوں کو جانے والی ذات ہے کو گواہ بنا کر عرض کرتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی چیزہ دستیوں اور سفا کا نہ وارد اتوں نے امت مسلمہ کو ارتاد کے وہ چر کے لگائے ہیں کہ جس سے امت محمدیہ مضمحل ہو گئی ہے۔ جس طرح بکریوں کے ریوڑے سے ایک ایک کر کے ارتاد دی بھیزی یعنی ہر روز اپنے لئے نیا تزویں تلاش کرتے چلے جا رہے ہیں جیسیں ارتاد دی بھیزی یعنی سے ریوڑ کے بچاؤ کا اہتمام کرتا ہے اور اس۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو قادیانی فتنے کی شکنی کا حساس عنایت فرمائے۔ مہراب و منبر، مسجد و مدرسہ مندار شاد و مندار غائب اپنی ذمہ داری کا خیال فرمائیں تو امت کے درد کا کچھ در ماں ہو جائے۔

اے امت محمدیہ! اس لیقین کو اپنے دل میں مخلکم کر، کہ قادریانی فتنہ دراصل آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس سے بغاوت کی تحریک ہے۔ اس سے بچتا اور پوری امت کو بچانا اپنے اپنے دارہ میں ہر مسلمان پر فرض میں ہے۔ اے مولاۓ پاک تو سب کو اس کا ادارا ک نصیب فرمادے تیرے لئے کیا مشکل ہے۔ آمین بحرمة النبی الکریم!
 اللہ رب العزت حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جلال پوری دامت برکاتہم کو جزاے خیر نصیب فرمائیں
 کہ ان کی توجہ و محنت سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ فلحمدللہ علی ذالک!

فقیر..... اللہ و سما

۱۲ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

۱۱ فروردی ۲۰۰۶ء

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست رسائل!

حرفے چند

فہرست

۱	جسٹس تنزیل الرحمن	مرتد کے احکام اسلامی قانون میں
۷	مولانا علام خالد محمود	قادیانیوں کی شرعی و قانونی حیثیت
۵۱	مولانا سید احمد سعید کاظمی	گشائخ رسول کی سر اقتل
۱۰۳	مولانا مفتی محمد امین	سوکھ بائیکاٹ کی شرعی حیثیت
۱۱۱	مولانا محمد مسلم عثمانی دیوبندی	آل قبلہ کی تحقیق
۱۲۵	صاحبزادہ مفتی عبد القادر	التخففۃ القادریہ عن استئلاۃ المرزاۃیہ
۱۳۳	مولانا مفتی انعام الحق	اسلام میں شامم رسول کی سزا
۱۵۳	مولانا سیف اللہ حقانی	حرمت تدقیقین المرتدین فی مقابر اسلمین
۱۵۹	مولانا سید ابوالعلی مودودی	مرتد کی سزا اسلامی قانون میں
۱۶۳	ابوالسعود محمد سعد الدین امکل	اعلمہ رحمانیت والطال قادیانیت
۱۹۷	مولانا احمد رضا خاں	السوّ العقاب علی المُسیح الکاذب
۲۰۳	مولانا نور محمد خاں	دفع الالحاد عن حکم الارتداد
۲۱۵	مفتی ولی حسن توکی	لاہوری اور قادیانی، مرزاۃی، دونوں کافر ہیں
۲۳۵	بابا یوسف بخش خاں لاہوری	حافظ ایمان از فتنہ قادیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرتد کے احکام اسلامی قانون میں

جسٹس تنزیل الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم

تعارف

ہمارے محترم جناب جمیل الرحمن نے ”مرتد کے احکام اسلامی قانون میں“ کے نام سے عظیم مقالہ پر فلم کیا۔ جو پاکستان کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم کراچی کے ترجمان ماہنامہ البلاغ میں صفر ۱۴۹۳ھ مطابق اپریل ۱۹۷۲ء سے محرم ۱۴۹۳ھ مطابق مارچ ۱۹۷۲ء کی اشاعت میں (دی اسپاٹ) شائع ہوا۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان، توفیق و عنایت سے پہلی بار کتابی حکمل میں شائع کرنے کی عالمی مجلس تحفظ ختم بیوت کو سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ فلحمد لله اولاً و آخرًا۔

ارتداد کے معنی و مفہوم اور اس کے شرعی اثرات و تائیج پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ تین کرنا ضروری ہے کہ مسلمان کے کہتے ہیں؟
مسلمان کے کہتے ہیں:

ابوالحیدی، ثانی امیر کاتب بن امیر عمر الحمید الفارابی الاقفانی نے شرح البر دوی (مخبوطہ) کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمان کی تین انواع ہیں۔ (۱)..... ظاہری مسلمان (۲)..... حکمی مسلمان (۳)..... حقیقی مسلمان..... انہوں نے لکھا ہے کہ:
۱..... وہ شخص ”ظاہری مسلمان“ ہے جس کی زبان پر کلمہ اسلام (اَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ) جاری ہے اور جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے اس امر سے قطع نظر کہ اس کے اعتقاد کی حقیقت سے واقفیت ہو۔

۲..... وہ شخص ”حکمی مسلمان“ ہے جو اپنے مسلمان والدین کی مجیت میں ہونے کے سبب مسلمان قرار پائے، بلاحال اس امر کے اس شخص کی زبان پر کلمہ اسلام (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) کا اقرار پایا جائے اور ۳..... وہ شخص ”حقیقی مسلمان“ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی تمام ترمذفات کے ساتھ جیسی ان کی حقیقت ہے، جان لیا ہو، اور رسول و انبیاء کو جیسی کہ ان کی حقیقت ہے، جان لیا ہو، اور ارکان اسلام کو جیسی ان کی حقیقت ہے جان لیا ہو، جن میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر و شر کا ہونا اور تمام ارکان اسلام کا اعتقاد و اقرار شامل ہے۔

مندرجہ بالا تعریفات سے آسانی یہ نتیجہ کلا لا جا سکتا ہے کہ..... ہر مسلمان، خواہ وہ ظاہری ہو یا حکمی اس

وقت تک مسلمان قرار پائے گا جب تک اس کا حقیقی مسلمان نہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔

حضور ﷺ کی حدیث مبارک سے ایمان و اسلام سے متعلق جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے پانچ عقائد کا..... ایمان باللہ تعالیٰ ۱..... ایمان بالرسل ۲..... ایمان بالملائکہ ۳..... ایمان بالكتب اور ۴..... ایمان بالآخرت۔ اور اسلام نام ہے پانچ اركان کا۔ ۱..... شہادتین ۲..... نماز ۳..... زکوٰۃ ۴..... روزہ رمضان اور ۵..... حج۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو ان عقائد و اركان کا معتقد اور اقراری ہو، وہ مسلمان کہلاتے گا لیکن ضروری ہے کہ وہ اعتقاد اور اقرار اس حقیقت کے مطابق ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ظاہر ہے۔

جشن سر امیر علی کی کتاب "جامع الاحکام فی فقه الاسلام" میں مسلمان کی تعریف بے اس الفاظ کی گئی ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کا اقرار کرتا ہو مسلمان ہے۔ یہ تعریف پاک و ہند کی اعلیٰ عدالتوں کے متعدد فیصلوں میں پسند کی گئی ہے۔ چنانچہ عدالت عالیہ سندھ و بلوچستان کے نج مرزا جشن امداد علی آغا نے ایک حالیہ مقدمہ مسز عائشہ قریشی بنام حشمت اللہ (مندرجہ پی ایل ڈی کراپی، شارہ دسمبر ۱۹۷۲ء ص ۶۵۷)

میں لکھا ہے کہ:

"مسلمان ہو جانے کے لیے اسلام کی تمام مستند کتابیں اس پر متفق ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے..... اور محمد ﷺ کو اس کا نبی ہونا مانتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔"

مسلمان کی یہی تعریف ۱۹۵۹ء میں نجع عدالت عالیہ مغربی پاکستان جناب جمشد محمود نے بمقدمہ عظیم وارث ہنام سلطان احمد (مندرجہ پی ایل۔ ڈی ۱۹۵۹ء لاہور ص ۲۰۵ بر ص ۲۰۹) کی تھی۔ اگرچہ یہ تعریف اصولی طور پر صحیح ہے۔ لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ان تمام مسلمہ اور بدیہی صدقتوں کا اعتراف و اقرار کیا جائے جو قرآن پاک اور سنت متواترہ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں اور جن پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

ہمارے فقہائے دین نے ان مسلمہ بدیہی صدقتوں کے لیے "ضروریاتِ دین" (Essentials of Islam) کی اصطلاح استعمال کی ہے جوں کا مصدق اسلام کے وہ تمام یقین اور بدیہی عقائد، عبادات اور احکام ہیں جن سے اسلام عبارت ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو "اکفار الصلح دین" حضرت العلامہ السيد اور شاہ لکھنواری تقریباً آٹھ سال قبل احرن نے اپنی کتاب "مجموعہ قوانین اسلام" جلد اول مطبوعہ ۱۹۶۵ء میں مسلمان کی حسب ذیل تعریف کی تھی:

"دفعہ ۳۔ جو شخص خدا کو ایک اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اس کا آخری نبی مانتا ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو، مسلمان ہے۔"

آنحضرت ﷺ کی رسالت کو ماننے کا حکم ہے "فَمَا جاء به فهو حق" (کہ جو کچھ آنحضرت ﷺ کے کر آئے وہ سب حق ہے) (فی زمانہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ امر حفظ ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے میں آپ ﷺ کے لائے ہوئے تمام دین مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ و حج کی فرضیت، خمر، قمار، زنا اور ربا کی حرمت، قیامت کا ظہور، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، جزا اور سزا، ملائکہ، انہیاء سا بقین اور کتب ساقہ وغیرہ پر ایمان شامل ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت پر میرے محترم دوست ماہر القادری صاحب نے مشورہ دیا کہ مسلمان کی تعریف میں "آخری نبی" کے بعد یہ بھی اضافہ کیا جائے کہ "حضور ﷺ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا بھی قائل نہ

ہو۔” یہ اضافہ جس پس مذکور کو لیے ہوئے ہے ہم سب اس سے واقف ہیں۔ تعریف کے ضمن میں اس امر کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ تعریف طردا و عکسا درست اور جامع و مانع ہو۔ جس شے کی تعریف کی جاری ہے اس شے کا کوئی جز اصلی تعریف سے باہر نہ رہ جائے اور کوئی غیر ضروری جز تعریف میں داخل نہ ہو جائے۔ مزید غور و فکر کے بعد میرے نزدیک مسلمان کی حسب ذیل تعریف کافی ہوگی:

”ہر وہ شخص مسلمان ہے جو خدا کو ایک اور حضرت محمد ﷺ کو آخری نبی مانتا ہو اور ضروریاتِ دین کو جو اجماعی امت سے ثابت ہیں، تسلیم کرتا ہو۔ اور ان کی پابندی کا زبان سے اقرار کرتا ہو۔“

باب ا..... ارتداد کے معنی و مفہوم

ارتداد کے لغوی معنی ارتداد یا رذت کے لغوی معنی کسی شے سے پلاٹ جانا یا لوٹ جانا ہیں۔

(جمهۃ المذاہذی ج ۱ ص ۲۷۲)

صاحب لسان العرب نے اس کے معنی جتوں کے لکھے ہیں جس کے معنی تغیر و تبدل اور رجوع کے آئے ہیں۔ (لسان العرب ج ۵ ص ۱۸۲ ردو) اسی قسم کے معنی تاج العروش میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔

(تاج العروش ج ۳ ص ۳۵۰ ردو)

اصطلاحاً اس کے معنی ”مسلمان کا اسلام سے پھر جانا“ ہیں۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۳)

ارتداد قرآن پاک میں (الف)..... قرآن پاک میں ارتداد کا ذکر لفظاً دو آیتوں میں آیا ہے۔ جو حسب ذیل ہیں:

۱..... وَمَنْ يُرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِيمَثُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ۔ (ابقرہ ۲۱۷)

”اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پلاٹ گیا اور وہ اسی کفر کی حالت میں مر گیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال (خیر) دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ بھی لوگ پیغمبر کے ساتھ دوزخی ہوں گے۔“

۲..... يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْ يُرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسُوقُ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقُومٍ يُجْبِهُمْ وَيُبَحِّبُونَ أَذْلَلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزَةً عَلَى الْكُفَّارِ إِنَّمَا يُجَاهِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ طَذِيلَكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ طَوَّالَ اللَّهُ وَاسِعَ عَلَيْهِمْ (ماکہ ۵۶) ”اے ایمان والوا جو شخص تم میں سے اپنے دین (اسلام) سے پلاٹ جائے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایک (دوسرا) قوم کو لے آئے گا جو اللہ کو محبوب رکھتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہوگا۔ مونوں کے حق میں خاکسار اور کافروں کے حق میں غالب رہنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے، کسی طالمت کنندہ کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ وسعت اور علم والا ہے۔“

مندرجہ بالا ہر دو آیات مرتد کے بارے میں صریح ہیں۔ پہلی بات جو آیتوں سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرتد کا ارتداد سے قل مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کا اسلام سے کفر کی طرف رجوع کرنا یا پلاٹ جانا، ارتداد ہے۔ چنانچہ جو مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا اور توبہ نہ کی حتیٰ کہ حالت ارتداد (کفر) ہی میں مر گیا اس کے وہ تمام دنیاوی اعمال (فوانید) جو اسلام کی بدولت اس کو دنیا میں حاصل ہوئے تھے، وہ ضائع اور رایگاں بلکہ کا لحمد ہو گئے اور آخرت میں اس کا نٹھکانا جہنم ہے۔ جس کی آگ میں وہ ہمیشہ جلا رہے گا۔ نیشاپوری نے اپنی تفسیر غرابی

القرآن میں لکھا ہے کہ مرتد ہو جانے کے نتیجے میں دنیا میں وہ مسلمانوں سے موالات کا مستحق نہ رہے گا۔ نہ اس کی مد کی جائے گی اور نہ کسی حسم کی تعریف، اس کی زوجہ اس سے باشندہ ہو جائے گی اور وہ میراث سے محروم ہو جائے گا اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرماتا ہی کافی ہے کہ یہ لوگ اصحاب نار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

(غراہب القرآن نیشاپوری حج ۲۲ ص ۳۱۸)

دنیاوی ثمرات و فوائد سے محروم ہو جانے کے بارے میں مزید ملاحظہ ہوں ”الکشاف“ رضاخی (حج، ص ۱۷۶) ”مجموع البیان“ طبری (حج، ص ۳۱۳)، ”حسان التاویل“، ”قاسی (حج، ص ۵۲۹)، ”روح العالیٰ“، ”آلوی (حج، ص ۲۷۴)، ”المابع الاصفیاء“، ”قرطبی (حج، ص ۳۶۷)، ”الحاکم للقرآن“، ”قرطبی (حج، ص ۳۶۷)

یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ارتداو سے عام طور پر یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ وہ شخص دین سابق پر ٹوٹ جائے، حالانکہ مذکورہ بالا آیات میں ارتداو اسلام سے کفر کی طرف انتقال ہے۔ یو تدن عن الاسلام الی الكفر میں جو عمومیت (تعییم) پائی جاتی ہے اس کے پیش نظر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرتد دین محسن کی طرف پلٹے یا کوئی دین ہی اختیار نہ کرے یا اسلام سے قبل جس دین پر قہا اس کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر لے۔ ان تمام صورتوں میں وہ مرتد کہلانے کا اور اس پر ارتداو کے احکام مرتب ہوں گے۔

(ب).....قرآن پاک میں معنی بھی کئی آجتوں میں روت (ارتداو) مراد ہے۔ مثلاً:

۱.....إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَرْدَأُوهُمْ كُفُرًا لَّنْ تَقْبَلَ قُوَّتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّاغُونَ (آل عمران ۹۰)
” بلاشبہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو (حقیقی معنی میں) گمراہ ہیں۔“

۲.....يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ حَلَّ فَلَمَّا أَلْدَى اللَّهُ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ فَقَدْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَلَدُؤُلُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (آل عمران ۱۰۶) ”یعنی جس دن بعض چہرے سفید (روشن) اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے (ان سے سوال ہوگا) کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا، تو اب اپنے کفر کرنے کے عوض عذاب (کا ذائقہ) چکھو۔“

۳.....إِنَّ الَّذِينَ أَمْتَوْا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَمْتَوْا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرْدَأُوهُمْ كُفُرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَعْفُرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا (التہار ۲۷) ”یعنی بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور نہ یہ کہ ان کو (اپنے) راستے کی ہدایت کرے۔“

۴.....مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْكَنٌ مِّنَ الْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَلَرَأْ فَلَعْنَاهُمْ غَضِبَ مِنَ اللَّهِ حَوْلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الخل ۱۰۱) ”یعنی جس شخص نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا الایہ کہ اس پر جری کیا گیا اور اس کا قلب ایمان پر مطہر (قام) رہا لیکن جس شخص کا کفر کے لیے سینہ کشادہ ہو گیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے غصب ہو گا اور عذاب عظیم۔“

۵.....وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ حَلَّ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نَّأْكُمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نَّأَقْلَبُ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ طَذِلَكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (الجبر ۱۰) ”یعنی اور لوگوں میں سے ایک فریق وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک پہلو سے کرتا ہے۔ اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ مطہر رہتا ہے اور اگر کوئی مسیبت پہنچتی ہے تو اپنے چہرے کے ساتھ پلٹ جاتا ہے (افسوں) کہ دنیا اور آخرت دونوں میں خاسر ہو گیا، سبکی

تو کھلانقصان (خسارہ) ہے۔“

۶..... کیف یہدی اللہ قوماً کَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ طَوَّالَهُ لَا يَهُدِي النَّقْوَمَ الظَّلِيمِينَ ۝ (آل عمران ۸۶) ”یعنی اللہ تعالیٰ اسی قوم کو کیسے ہدایت کرے گا جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہو اور یہ گواہی دی ہو کہ رسول حق پر ہے اور اس کے پاس واضح دلائل (ثبوت حق کے) آچکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرمایا کرتا۔“

۷..... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُؤْمِنُ بِهِمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُفْلِتَنَّ مِنْ أَخْدِيْهِمْ مِنْ لُؤْلُؤَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْافْلَدِيْهِ بِهِ طَأْوِيلَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصْرَفِينَ ۝ (آل عمران ۹۱) ”یعنی بلاشبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور (پھر اسی حالت میں) مر گئے پس ان میں سے کسی سے ہرگز زمین کو بھر دینے والا سوتا بھی فدیہ میں قبول نہ کیا جائے گا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہو گا اور ان کا کوئی مدد و رہنمہ ہو گا۔“

۸..... إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفُرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (آل عمران ۷۷) ”بلاشبہ جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خرید لیا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہ دے سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو گا۔“

۹..... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُوْغُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَهَاجَرُوا إِلَى الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاتَيْنَ لَهُمُ الْهُنْدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهُ شَيْئًا طَوَّالَهُ مَسْيَحِيْطُ أَعْمَالِهِمْ ۝ (محمد ۳۲) ”یعنی بلاشبہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے (لوگوں کو) روکا، اور ان کے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد انہوں نے رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور عنقریب ان کے اعمال مثالیے جائیں گے۔“

مندرجہ بالا آیات یہود و نصاریٰ کے علاوہ ان مسلمانوں پر بھی دلالت کرتی ہیں جو مرتد ہو گئے۔ چنانچہ ہمیں آیت میں ”كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ“ کے الفاظ اپنے عموم پر ان لوگوں پر دلالت کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا گویا مرتد ہو گئے۔

دوسری آیت بھی قاتدہ کے نزدیک مرتدین کے بارے میں ہے۔ باقی آیات میں مرتدین بھی شامل ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، الجامع للقرطبی (حج ۲ ص ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، حج ۵ ص ۳۵۱-۳۵۲، حج ۱ ص ۱۸۰-۱۸۱، حج ۳ ص ۱۲۱، ۱۲۰) البتہ آخری آیت اپنے اندر کفار اور منافقین دونوں کا احتمال رکھتی ہے۔ (فی غلال القرآن، سید قطب شہید، حج ۱۲، ص ۷۵)

ارتدا دست نبوی میں ارتدا (رقت) کا لفظ سنت نبوی ﷺ میں بکثرت آیا ہے۔ کہیں اصطلاحی معنی میں اور کہیں لغوی معنی میں۔ کہیں کفر کا لفظ آیا ہے جس سے ارتدا بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور کہیں تبدیلی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں تارک الدین یا مفارق الجماعت کہہ کر مرتد کی صفت کے ذریعہ ارتدا کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً:

۱..... عن ابن عباس قال: اسرى بالنبى ﷺ الى بيت المقدس ثم جاء من ليلة فحدthem بمسيره و بعلامة بيت المقدس وبغيرهم فقال ناس قال حسن. (اسم احد الروايين) نحن نصدق محمد ابما يقول. فارتدا واكفرا فضرب الله اعنالهم مع ابى جهل (مسند احمد ح ۱ ص ۳۷۲ ج ۵ ص ۷۷ حدیث ۴۵۶۲) ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی ﷺ کو شب میں سیر کرائی گئی بیت المقدس کی جانب۔ پھر آپ ﷺ اسی شب میں واپس آگئے اور آپ ﷺ نے اپنی سیر کی کیفیت کفار سے بیان فرمائی اور

بیت المقدس کی علامت اور ان کے قافلہ کی کیفیت، تو کچھ لوگوں نے راوی حديث حضرت حسن کہتے ہیں کہ کہا ہم محمد ﷺ کو سچا کہتے ہیں ان باتوں میں جو انہوں نے کہیں ہیں (لیکن) پلٹ پڑے کفر ہی کی طرف۔ پس اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بھراہی میں ان کی گرد نیں مار دیں۔“

اس حدیث میں ”فارتد و اکفاراً“ کہہ کر امرداد کے اصطلاحی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ پس وہ ”لوٹ مکنے کا فر ہو کر“ یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا۔

۲..... من حدیث فاطمة بنت قیس (..... قال ﷺ لیس لک علیه نفقہ ولا سکنی ولیست له فیک ردة و علیک العدة فانقلی الی ام شریک) (مندرجہ ۳۱۲ ص ۳۵۷ حديث ۳۱۸) ”پس حضور ﷺ نے فرمایا، نہ تو اس شوہر پر تیر نفقہ واجب ہے اور نہ حق سکونت اور نہ تو اس کی جانب لوٹ سکتی ہے اور تیرے ذمہ پر اس کی عدت لازم ہے، لہذا ام شریک کے بیہاں خلیل ہو جا۔“
اس حدیث میں امرداد کے لغوی معنی رجوع بیان کیے گئے ہیں۔

۳..... عن ابن عمر قال رسول اللہ ﷺ الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدهما۔ (مکوہہ ص ۳۱۱ باب حفظ المسان و الغيبة و الشتم)

”حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے (مسلم) بھائی کو کہتا ہے، اور کافر، تو یقیناً یہ کفر ان دونوں میں کسی ایک کی جانب رجوع کر جاتا ہے۔“

۴..... عن ایوب عن عکرمه قال قال ابن عباس: قال رسول اللہ ﷺ من بدل دینه فاقتلوه۔ (بخاری ح ۲۲ ص ۱۰۲۳ باب حکم المرتد والمرتدہ)

”حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔“ (نسائی ح ۲ ص ۱۵۰، ۱۳۹ باب الحکم فی المرتد) میں اس حدیث کو سات سنوں سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں تبدیلی دین سے تبدیلی دین اسلام مراد ہے جس پر قائم رہنا لازم ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی شرعاً معتبر ہے اور دوسرے یہ کہ اگر اس سے مراد غیر اسلام ہو تو بالفرض کوئی اپنا دین (غیر اسلام) تبدیل کر کے اسلام میں داخل ہوتا کیونکہ قتل کا سزاوار ہے؟ اس لیے ثابت ہوا کہ اس حدیث میں لفظ ”دین“ سے دین اسلام ہی مقصود ہے۔

۵..... حدثنا ابو داؤد قال: حدثنا شعبہ عن الاعمش قال: سمعت عبد اللہ بن مروہ یحدث عن مسروق عن عبد اللہ قال، قال رسول اللہ ﷺ ”لا یحل دم امریء مسلم الا باحدی ثلاث الشیب الزانی والنفس بالنفس والتارک للدینیہ المفارق للجماعۃ۔“ (ابوداؤد ح ۲ ص ۱۳۸ باب الحکم فیمن ارتد والفقطلہ بخاری ح ۲۲ ص ۱۰۲۳ باب قول اللہ ان انس باش)

”یعنی حضرت مسروق عن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون سوائے تین معاملات میں سے کسی ایک معاملے کے حلال نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ زانی، ایک (قتل) نفس کے عوض، قتل نفس، ایک جو اپنے دین کو چھوڑ کر (مسلمانوں کی) جماعت کو ترک کر دے۔“

اس حدیث میں ترک دین اور مفارقہ جماعت سے مراد مفارقہ جماعت اسلام ہے۔ یہ امر کفر کے سبب ہوتا ہے نہ کہ بغاوت یا بدعت کے سبب۔ کفر ہی کے ذریعہ ترک کلی ہو سکتا ہے نہ کہ بغاوت یا بدعت کے ذریعہ کیونکہ ان ہر دو صورتوں میں دین کے بہت سے خصائص میں سے صرف ایک خصلت کا ترک لازم آتا ہے،

اسی لیے باغی کا قتل دفع بغاوت کے لیے ہوتا ہے جبکہ کفر کے سبب اسلام کو کلی طور پر چھوڑ دینے کے سبب ارتاداد لازم آتا ہے اور ارتاداد مرتد کے قتل کا موجب ہے۔ خواہ کفر کسی نوعیت کا ہو۔ چنانچہ اس کے قتل کی غرض و غایت بھی قتل با غایی سے مخالف ہے۔ (اس موضوع پر تفصیلی بحث آگئے گی۔)

ارتاداد فقه میں مشہور ختنی امام سرقہ نے تخلیۃ الفتاہاء میں ارتاداد کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ارتاداد ایمان سے رجوع کا نام ہے۔ الردۃ عن الرجوع عن الایمان۔ (تخلیۃ الفتاہاء ج ۷ ص ۱۳۷)

امام کاسانی نے لکھا ہے کہ لغوی اعتبار سے رذت کے معنی ہیں لوٹ جانا، پلٹ جانا، پھر جانا اور شرح کی اصطلاح میں ایمان سے پلٹ جانے کو رذت (ارتاداد) کہتے ہیں۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۳ مصلی علی ان احکام المرتدین) ماکی فقہاء کے نزدیک رذت کے شرعی معنی ہیں کسی مسلم ہابط الاسلام کا صریح قول کفر یا ایسے لفظ سے جو کفر کا مقتضی ہو یا ایسے فعل سے جو کفر کا مستلزم ہو کفر اختیار کر لیتا۔ (جو اہر الکمل ج ۲ ص ۲۷)

ماکی فقہیہ خرشی نے رذۃ کو مسلمان کے کفر سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے "حقیقة الرذۃ عبارة عن قطع الاسلام من تکلف" یعنی رذۃ کے حقیقی معنی اسلام کو جعلکف قطع کر دیا ہے۔ (شرح الخرشی ج ۸ ص ۲۲)

قیوبی الشافعی نے لکھا ہے کہ ارتاداد اسلام کا قطع کرنا ہے ساتھ نیت کفر کے یا قول کفر کے یا فعل کفر کے۔ (الرذۃ میں قطع الاسلام بینہ کفر او فعل کفر) (قیوبی ج ۲ ص ۱۷۳)

مشنی الحجاج (فقہ شافعی) میں رذت کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ رذت میں رذت کے معنی ایک شے کا کسی دوسری شے کی جانب رجوع کر جانا ہے اور اس کے شرعی معنی اسلام کو قطع کر دینا ہیں خواہ نیت کے ذریعہ ہو یا کلام کفر یا فعل کفر کے ذریعہ ہو، خواہ استہراہ کے طور پر ہو، یا عناد کے سبب ہو یا عقیدہ کے باطحہ سے ہو۔ (الرذۃ میں لغہ الرجع عن الشیء الی غیرہ)..... "وشرعاً قطع الاسلام بینہ او قول کفر او فعل سواء قاله استہزاً او عناداً او اعتقاداً" (المختصر، ج ۲ ص ۳۲-۳۳)

ابن قدامة حنبل نے مرتد کو دین اسلام سے کفر کی طرف رجوع کرنے والا کہا ہے۔ "المرتد هو الراجع عن دین الاسلام الى الكفر" (المختصر، ابن قدامة ج ۸ ص ۵۰)

الاقاع (فقہ حنبلی) میں لکھا ہے کہ مرتد و شخص ہے جو اسلام کے بعد کفر اختیار کرے، اگر صاحب تمیز ہو اور بخوبی ایسا کیا ہو، خواہ مزاحاہی یا عمل صادر ہوا ہو۔ (الاقاع ج ۲ ص ۲۹)

امام ابو محمد ابن حزم ظاہری نے مرتد کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کا مسلمان ہوتا صحیح طور پر بایس صورت ہو چکا ہو کہ اس نے سوائے دین اسلام کے دیگر تمام ادیان سے بیزاری کا ثبوت دیا ہو، پھر وہ اسلام سے پھر جائے تو ایسا شخص مرتد کہلاتے گا۔ (الحکیم ج ۱۳ ص ۵۸ مسئلہ المرتدین ص ۲۱۹۹ طبع احیاء التراث بیروت) مشہور شیعہ فقہیہ علامہ الحسن الحنفی نے اپنی مشہور کتاب شرائع الاسلام میں لکھا ہے کہ مرتد وہ فرد ہے جو اسلام کے بعد کفر اختیار کرے۔ "المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام" (شرائع الاسلام مطبوعہ بیروت، ج ۱۰ قسم الرابع ص ۲۵۹)

طوسی امامی نے امام ابی جعفر صادق " سے مرتد کی تعریف نقل کی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ محمد بن مسلم سے مروی ہے اس نے کہا کہ میں نے ابی جعفر سے مرتد کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مرتد ہے جو اسلام سے پھر گیا۔ اور جو کچھ محمد بن علیؑ پر نازل ہوا اپنے اسلام کے بعد اس کا انکار کیا۔ ("من رغب عن الاسلام و کفر بما النزل على محمد بن علیؑ بعد اسلامه") (تهذیب الاحکام طوسی، ج ۱۰، ص ۱۳۶)

ابن تیمیہ نے مرتد کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ مرتد اپنے اسلام کے بعد کافر ہے۔ پس جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا�ا اس کی روبویت یا اس کی صفات میں سے کسی صفت یا اس کی بعض کتب یا اس کے بعض رسولوں کا انکار کیا۔ ”وَهُوَ الْكَافِرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَمَن يَشْرِكُ بِاللَّهِ أَوْ جَحَدَ رِبَوْبِيَّةَ، أَوْ صَفَاتَهُ، أَوْ بَعْضَ كِتَابَهُ أَوْ رِسْلَهُ أَوْ سَبَّ اللَّهَ فَقَدْ كَفَرَ“ (الاعتیارات الحلمیہ ابن تیمیہ ص ۲۰۳) یا اس نے اللہ کو سب و شتم کیا، حقیقت وہ کافر ہو گیا۔ ایک جدید مصنف عبداللہ مراغی نے لکھا ہے کہ رذبت اسلام سے رجوع کا نام ہے۔ اس کا رکن ایمان کے بعد زبان پر کلمہ کافر جاری کرنا ہے۔ ”الرَّدَّةُ الرُّجُوعُ عَنِ الدِّينِ إِلَّا سَمْعًا وَرَكْنُهَا إِجْرَاءُ كَلْمَةِ الْكَافِرِ وَالْعِيَادَةُ بِاللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ“ (التشریع الاسلامی، عبداللہ المراغی، ص ۳۸)

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ”نے ارتداو کے موضوع پر ایک مختصر رسالہ ”الشہاب لترجم الخطاطف المرتبا“ کے نام سے لکھا تھا۔ (جسے عالمی مجلس نے اختساب قادیانیت جلد چہارم ص ۱۹۱ تا ۲۲۲ پر شائع کیا ہے) اس میں ارتداو یعنی اسلام سے کفر کی طرف پھر جانے کی دو صورتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مسلمان صریحاً اسلام سے انکار کر دیتے اور دوسرا یہ کہ ایسا نہ ہو مگر بعض ضروریات دینیہ اور قطعیات شرعیہ سے انکار کرے۔ بہ الفاظ دیگر کسی ایسی صاف قطعی اور بدیہی امر دین کا انکار کرے جو انکار رسالت کو شکست زرم ہو۔ دونوں صورتوں میں ایسا شخص مرتد یعنی اسلام سے نکل کر کفر میں جانے والا کہلانے گا۔

مندرجہ بالا اقوال پر غور و فکر کے بعد ہم اس نتیجہ پر بخپت ہیں کہ ایک عاقل و باخ و معقار مسلمان کا اعتقاد ا تو لا یا نعلہ اسلام سے روکروانی اختیار کرنا، ارتداو کہلانے گا۔

باب ۲..... شرائط ارتداو

ارتداو کے لیے بلوغ، عقل اور اختیار تینوں شرائط کا پایا جانا لازمی ہے۔ بخلاف اسلام کے۔ اسلام لانے کے لیے عقل اور اختیار لازم ہیں۔ بلوغ شرط نہیں۔ نابالغ کے اسلام کے بارے میں حضرت علیؑ اور ابن الزبیرؓ کا اسلام لانا ناصا ثابت ہے۔ امام ابوحنیفہؓ اور صاحبین نیز اسحاق، ابن ابی شیبہ اور ابوالیوب بچہ کے اسلام کی صحت کے قائل ہیں۔ (حدایت ج ۲ ص ۲۷۵ باب احکام المرتدین بداع المصالح ج ۷ ص ۱۳۲ فصل احکام المرتدین) اس کے برخلاف امام شافعی اور امام زفر بچہ کے اسلام کی صحت کے قائل نہیں ہیں، جب تک کہ وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔

(رجوع الاست مص ۲۶۹)

امام کاسانی نے لکھا ہے کہ مرتد ہونے کی صورت کے لیے چند شرطیں ہیں۔

اول یہ کہ وہ عاقل ہو۔ چنانچہ دیوانے، ناکبحہ اور نابالغ کی روت قابل لحاظ نہ ہو گی۔ جو شخص بعض حالتوں میں دیوانہ ہو اور بعض حالات میں افاقتہ پا جاتا ہو، اگر وہ افاقت کی حالت میں رذبت کا ارتکاب کرے تو قابل اعتبار ہو گا، ورنہ نہیں۔

(بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۲)

امام سرخی نے اس مسئلہ پر اپنی شہرہ آفاق کتاب المسوط میں بڑی مدد اور شان دار بحث کی ہے اور تمام آراء اور اقوال کا مناقشہ کیا ہے۔ امام سرخی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متعدد احادیث سے استناد کرنے کے بعد آیت قرآنی ”وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا“ (مریم ۱۱) پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب بچہ رسالت کا اہل ہے تو اسلام کا بھی ہو گا۔ (مبسوط ج ۸ ص ۱۲۹ باب المرتدین) سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے۔ قال انی عبد اللہ الہیں کتب و جعلنی نبیا۔“ (مریم ۳) حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بخشی گئی تھی کتاب اور بھایا گیا نبی۔ یہ حضرت

عیسیٰ ﷺ سے کھلوا گیا جبکہ وہ ابھی بچتے تھے۔

راجح یہ ہے کہ بچہ کا اسلام معتبر ہوگا۔ خود حضور علیہ السلام نے کسی کا اسلام خواہ وہ چھوٹا یا بڑا۔ رونمیں فرمایا۔
یہاں متفق طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچہ کا اسلام معتبر ہونے کے ساتھ اس کی رذالت کا کیا حکم ہو گا؟
اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ و امام محمد اور امام ابویوسف کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام محمد نے فرمایا ہے کہ رذالت کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اگر نابالغ عاقل و سبحان دار ہو تو اس کا ارتدا قابلِ حافظ ہو گا اور امام ابویوسف کے نزدیک بالغ ہونا شرط ہے لہذا نابالغ کا ارتدا خواہ وہ عاقل و سبحان دار ہو، قابلِ حافظ نہ ہو گا۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۲)
شافعیہ چونکہ بچہ کے اسلام ہی کے قائل نہیں ہیں لہذا ان کے نزدیک بچہ کا مرتد ہونا بھی قابلِ اعتبار نہ ہو گا۔ لیکن امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور امام مالک کے ظاہر مذہب اور امام احمد بن حنبل کے مشہور مذہب کے بھوجب ایک ایسے بچہ کا ارتدا جو سن تیز کو بخیچ چکا ہو قابلِ اعتبار ہو گا۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۰) (المهود ط ج ۷ ص ۱۲۵)
امام احمد بن حنبل سے ایک روایت بچہ کے ارتدا کی عدم صحت کی بھی بیان کی جاتی ہے لیکن اس پر حکم شرعی کا مرتب ہونا اس کے بالغ ہونے تک موقوف رہے گا۔ بالغ ہونے پر اس کو تین روز کی مہلت دی جائے گی اگر وہ کفر پر اصرار کرے گا تو اس پر ارتدا کا حکم (یعنی قتل) جاری کر دیا جائے گا۔ ”ولا یقتل حتى يبلغ و يجاوز بعد بلوغه ثلاثه ایام فان ثبت على كفره قتل“ (المغی، ابن قدم ارجح ۸، ص ۵۵)

شافعیہ کے نزدیک ارتدا اس شخص کا معتبر ہو گا جو عاقل، بالغ اور صاحب اختیار ہو لہذا بچے، دیوانے، مجھور کا ارتدا قابلِ اعتبار نہ ہو گا۔ یعنی ان پر ارتدا کا حکم مرتب نہ ہو گا۔ (المغی ج ۲ ص ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، المهدب ج ۲ ص ۲۲۲، ۲۲۳)
علماء حدیثیہ کے نزدیک نادان بچے، دیوانے، پاگل یا جس کی حکمت کسی دورے یا نینہ (شراب) میں زائل ہو گئی ہو، اس کا ارتدا قابلِ اعتبار نہ ہو گا یعنی ان کی رذالت صحیح نہ ہو گی اور نہ ان کا اسلام قابلِ اعتبار ہو گا لیکن جو بچہ صاحب تیز ہو اسلام کے معنی (توحید و رسالت) سمجھتا ہو، اس کا اسلام لانا اور مرتد ہو جانا دونوں قابلِ اعتبار ہوں گے۔ (الاقاع، ج ۲ ص ۹-۲۰) (معنی، ج ۳ ص ۲۳-۵۱)

شیعہ جعفریہ مذہب کی رو سے ارتدا کے معتبر ہونے میں عاقل بالغ اور صاحب اختیار ہونا شرط ہو گا۔
(تراث الاسلام ج ۲ ص ۲۰-۲۱) (اقم الراحل ص ۲۵۹)

اکثر علماء زیدیہ بھی بچہ کے ارتدا کی عدم صحت کے قائل ہیں۔ (البحر الدغار ۶)

سطور ما قبل میں ہم نے صیٰ تیز (ایسا بچہ جو سن تیز کو بخیچ چکا ہو) کے اسلام کو صحیح قرار دیتے ہوئے یہ دلیل ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کسی کا اسلام روئیں فرمایا، کا سبب یہ ہے کہ اسلام انسان کے لیے ایک خیر و برکت اور سعادت ہے۔ اس لیے اس کو اس سعادت سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس کے برخلاف اس کا ارتدا اختیار کرنا اس کے حق میں ایک ”ضرر“ ہے اس لیے اس سے اس ضرر کو اس وقت تک دور کرنا جائے گا، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ بعدہ ارتدا پر قائم رہنے کی صورت میں اس ضرر کو اس کے ذمہ لازم کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بچہ پر حد جاری نہیں ہوتی، وہ اکثر احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اس پر حکم کا موقوف رکھنا حقیقی انسب ہے۔

۲..... بلوغ کے بعد ارتدا کی دوسری شرط عقل ہے۔ اصول فقہ کا یہ عام قاعدہ ہے کہ غیر عاقل احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک پاک شخص کا نہ اسلام معتبر ہو گا اور نہ ارتدا۔
(بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۲، امام شافعی ج ۲ ص ۲۲۲ با تفریج المرتد)

یہاں یہ سوال پیدا ہونا لازمی ہے کہ اگر کوئی شخص نشہ آور (حرام) شے استعمال کر کے نشہ کی حالت میں مرد ہو جائے تو کیا اس کا ارتاد دشرا عا معتبر ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ نشہ کے سب عقل کے معطل ہو جانے کی بنا پر اس کے قول کا اس وقت تک اعتبار نہ کیا جائے گا جب تک کہ اس کا نشہ اُنہیں نہ ہو جائے، اس کے بعد یا تو وہ اسلام کی طرف لوئے گا اور اسی کے مطابق حکم مرتب ہوگا۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک بحالت نشہ ارتاد معتبر نہیں۔ چنانچہ امام سرسخی نے (ابسوط ج ۱۰ ص ۱۳۳ باب المرتدین) میں لکھا ہے کہ ”جب کوئی شخص محور (بحالت نشہ) مرد ہو جائے تو قیاساً اس کی بیوی اس سے بائن (جدا) ہو جائے گی کیونکہ شخص محور اپنے اقوال و افعال کے معتبر ہونے میں ایک صحیح (غیر محور) شخص کی مانند ہے، یہاں تک اگر وہ شخص محور اپنی بیوی کو (بحالت نشہ) طلاق دے تو وہ اس سے جدا ہو جائے گی اور اگر خرید و فروخت کی یا کسی شے کا اقرار کیا تو وہ اس کی طرف سے صحیح قرار دیا جائے گا لیکن احسان کا مقتضی یہ ہے کہ عورت اس سے (بر بنا روت) جدا نہ ہو کیونکہ ارتاد اکی بنیاد اعتماد پر ہے۔ اور ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ شخص محور جو کہتا ہے اس پر اعتماد نہیں رکھتا۔ اسی سب سے اگر وہ حالت نشہ میں کفر بک جائے تو اس سے تعریض نہیں کیا جائے گا۔“

امام کاسانی نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص نشہ میں مدھوش ہو چکا ہو، اس کی روٹ قابل اعتبار نہ ہوگی۔ یہ حکم احسان پر مبنی ہے۔

امام شافعی کا اگرچہ خود اپنا قول حالت نشہ میں ارتاد کے بارے میں عدم صحت کا ہے لیکن شافعی مذهب اس کی صحت کا قالی ہے۔

امام احمد بن حنبل کے اس سلسلے میں دو قول بیان کیے جاتے ہیں، اظہر قول صحت کے بارے میں ہے۔ (الانصاف، مرداوی، ج ۱۰ ص ۳۲۱) چنانچہ ابن قدامة حنبل نے اپنی کتاب اماغنی میں لکھا ہے کہ ”جو شخص مرد ہو گیا درآں حاصل کر وہ نہیں میں تھا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ افاقتہ پا جائے اور ارتاد کے وقت سے تین یوم گزر جائیں پس اگر وہ حالت نشہ میں مر گیا تو وہ کافر مرا۔“ (المختن، ج ۸ ص ۵۲)

بالفاظ دیگر شخص محور کا ارتاد (اصلاً) صحیح ہوگا لیکن نشہ کی حالت میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ہوش میں آنے کے بعد تین یوم تک توبہ کا مطالبہ جاری رہے گا، اس کے ارتاد پر مصر اور قائم رہنے کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا۔ (الاتفاق ج ۳ ص ۹، ۳۰۱)

نتیجہ فکر عربی زبان میں نشہ کے لیے ”سکر“ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ فقیہ اصطلاح میں ”سکر“ سے نشہ کی وہ کیفیت مراد ہے جس میں نفع و نقصان کی تمیز نہ کی جاسکے۔ فقیہاء حنفیہ نے سکران (محور) کی دو تعریفیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ سکران وہ شخص ہے جو زمین و آسمان اور مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ لا یعرف

الرجل من المرأة والسماء من الأرض۔ (البحر الراقي ج ۳ ص ۲۷ کتاب الطلاق)

دوسری تعریف یہ ہے کہ ”نشہ ایک سرور کا نام ہے جو عقل پر غالب آجائے اور وہ (شخص محور) اپنے کلام میں (مغلوب العقل ہونے کی بنا پر) بذیان بکئے گے۔“ (رواہ تاریخ ۲ ص ۲۵۹ کتاب الطلاق)

پہلی تعریف امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب ہے اور دوسری تعریف صاحبین (امام ابویوسف و محمد) کی طرف منسوب ہے۔ ائمہ مذاہ کے اقوال بھی صاحبین کی طرف منسوب تعریف کے مطابق ہیں۔ اور یہی تعریف متاخرین علماء نے بھی پسند کی ہے۔

(بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۳)

میری ناجائز رائے میں شخص محور کے ارتاد کے بارے میں احاف کی رائے احساناً درست معلوم ہوتی

ہے کیونکہ ارتداو کا تعلق اعقاد سے ہے۔ اور حالت نش میں اس شخص سے اعتقادی قصد ارادہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ارتداو کی تیری شرط ”اختیار“ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فحص غیر مختار (مکرہ) کا ارتداو شرعاً صحیح سمجھا جائے گا یا نہیں؟ انہے اربعہ کا نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص کفر پر مجبور کیا گیا اور اس سے کلمہ کفر سرزد ہو گیا تو وہ کافرنہ ہو گا۔ (بسوط ح ۱۰ ص ۱۳۱ اباب المرتدين، کتاب الام للشافعی ح ۲ ص ۲۲۶ المکرہ علی الردة) چنانچہ بداع الصنائع میں اختیار و رضا مندی کو ارتداو کی شرط کے طور پر حالت اکراہ میں ارتداو کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس شخص پر کلمہ کفر کے اجراء کے لیے جبر کیا گیا ہو وہ مرتد متصور نہ ہو گا۔

(بدائع الصنائع ح ۷ ص ۱۳۲)

زیدیہ بھی حالت اکراہ میں ارتداو کی عدم صحت کے قائل ہیں۔ (الخرالذخارج ۵ ص ۳۳۳)

شیعہ جعفریہ کے نزدیک اگر کفر پر مجبور کیا گیا ہو تو یہ ارتداو قابل لحاظ نہ ہو گا۔ چنانچہ اگر مرتد نے کفر اختیار کرنے کے متطلق یہ دعویٰ کیا کہ اس کو مجبور کیا گیا تھا اور جبر کا قرینہ موجود ہوا تو اس کا یہ عذر قابل اعتبار ہو گا۔ (شرع الاسلام ح ۲۴ ص ۲۵۹، ۲۶۰) حالت اکراہ میں ارتداو کے صحیح ہونے کی بنیاد حسب ذیل آیت قرآنی پر قائم ہے۔

”من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرأ فعلیهم غصب من الله ولهم عذاب عظیم۔“ (الخل ۱۰۶) یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے (وہ اگر) مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو (تب تو خیر) مگر رضا مندی سے کفر کو قول کر لیا تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔“

اس آیت میں ان مسلمانوں کو جن پر کفار کے ہاتھوں ہر قسم کے ظلم توڑے جاری ہے تھے اور ان مسلمانوں کو ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کہ کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا بتایا گیا تھا کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور تمہارا دل ایمان پر مطمئن اور عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو قابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ (آخرت میں) کوئی مواعظہ نہ کرے گا۔

مندرجہ بالا آیت قرآنی کے علاوہ حسب ذیل احادیث اس مسئلہ میں نص ہے:

”صحابی رسول عمار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدین کو نخت عذاب دے کر شہید کیا گیا اور پھر عمار بن یاسر کو ناقابل برداشت اذیت دی گئی، آخر کار انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہہ دیا جو کفار ان سے کھلوانا چاہتے تھے۔ عمار بن یاسر روتے ہوئے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ماترکت حتی سبت النبی ﷺ و ذکر الہتہم بخیر“ یا رسول اللہ! مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ ﷺ کو برا اور ان کے معیودوں کو اچھانہ کہہ دیا۔ حضور نے پوچھا۔ ”کیف تجده قلبک“ یعنی تم اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ عمار بن یاسر نے عرض کیا۔ ”مطمئن بالایمان“ ایمان پر پوری طرح مطمئن۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”ان عاد والعد“ اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر بھی باشیں کہہ دینا۔“

(المحدث ر حاکم ح ۳ ص ۱۰۲ باب حکایۃ عمار بن یاسر بید الکفار۔ کتاب الشیر حدیث ۳۳۱۳)

دوسری حدیث، جو حکم میں عام ہے، یہ ہے ”عن ابن عباس قال قال رسول الله ان الله جاوز عن امتی الخطاء والنسيان وما استکر هو اعليه“ یعنی حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میری امت کو خطاء، بھول اور جس فعل کے کرنے پر مجبور کیا گیا اس سے برقی الدہمہ کر دیا گیا۔

(کنز العمال ح ۱۲ ص ۱۵۵) حدیث ۳۳۵۸

از روئے قیاس بھی ارتداد اختیار کو چاہتا ہے اس لیے شخص غیر حقار کا ارتداد شرعاً قابل اعتبار نہ ہوتا چاہیے۔ لیکن یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ ہر قسم کے جبراً یا آنراہ پر یا استثنائی حکم صادق نہ آئے بلکہ اکراہ کی ان شرائط کا لحاظ ضروری ہوگا جو شرعاً معتبر ہیں، جن کا مختصر اذکر سطور ذیل میں یہاں گیا ہے۔

اکراہ کی تعریف اکراہ یا جبراً کسی شخص کا وہ قول یا فعل ہے جو دوسرے شخص کو اس کی خواہش کے خلاف اس فعل کے کرنے (یا قول کے کہنے پر) مجبور کرے۔ (جس کا جبراً کرنے والا خواہشمند ہو) (بدایہ ح ۲۳۲۲ کتاب الاکراہ)

اکراہ کی قسمیں امام کاسانی نے اپنی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں اکراہ اور اس کی اقسام اور شرائط پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اکراہ کی دو قسمیں ہیں۔

۱..... اکراہ تام ۲..... اکراہ ناقص

اکراہ تام اکراہ تام وہ ہے کہ جس میں انسان مضطرب اور مجبور ہو جاتا ہے اور نبیجاً اس نے رضا معدوم اور اختیار سلب ہو جاتا ہے۔ مثلاً قتل یا جسم کے کسی عضو کے قطع کرنے کی دھمکی یا ایسی مار کی دھمکی جس سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ اکراہ تام کو اکراہ بھی کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں ایسا اکراہ جو اس فعل کے کرنے پر مجبور کر دے۔

اکراہ ناقص اکراہ ناقص وہ ہے جس میں صرف رضا معدوم ہو جاتی ہے اور اختیار فاسد ہو جاتا ہے نہ کہ معدوم مثلاً ایسی دھمکی دی گئی ہو جس سے جان جانے یا جسم کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا کوئی اندازہ نہ ہو مثلاً قید و غیرہ اس اکراہ کو فقهاء نے ”اکراہ غیر معمنی“ (کما فی البحیر) بھی کہا ہے جس کے معنی ہیں ایسا جبراً اکراہ جو اس فعل کے کرنے پر مضطرب و مجبور نہ کرے۔

شرائط اکراہ امام کاسانی نے اکراہ کی دو شرطیں بیان کی ہیں۔

۱..... پہلی شرط کا تعلق مکرہ یعنی جبراً کرنے والے شخص سے ہے۔ اور

۲..... دوسرا شرط کا تعلق مکرہ یعنی اس شخص سے ہے جس کو مجبور کیا گیا ہو۔

چنانچہ مجبور کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فعل کے کرنے پر قادر ہو جس کی دھمکی دی گئی ہے، اور جس شخص کو مجبور کیا جا رہا ہو اس کو اس امر کا یقین (ظن غالب) ہو کہ دھمکی دینے والا وہ فعل جس کی دھمکی دی گئی ہے کر گزرے گا۔ (بدائع الصنائع ح ۷ ص ۵۷ کتاب الاکراہ)

نبیجه فکر چنانچہ اگر کوئی شخص اکراہ تام کی صورت میں کلمہ کفر زبان سے نکالے گر دل ایمان پر قائم اور مطمئن ہو تو ایسی صورت میں وہ شخص شرعاً موافقہ وارند ہو گا۔ لیکن اکراہ ناقص یا غیر معمنی کی صورت میں یہ حکم نہ ہو گا۔

باب ۳..... موجبات ارتداد

سابقہ ابواب میں ارتداد کے معنی و مفہوم اور اس کی شرائط سے بحث کی گئی ہے۔ اس باب میں ان امور سے بحث کی جائے گی جوار ارتداد کا موجب ہیں۔ یہ امور چار ہیں:

۱..... ارتداد اعتمادی (اعتقاد میں ارتداد)

۲..... ارتداد قوی (قول میں ارتداد)

۳..... ارتداد فعلی (فعل میں ارتداد)

۴..... ارتداد ترک فعل (ترک فعل میں ارتداد)

ارتداد اعتقدادی (اعتقاد میں ارتداد) ایسے امور جن کا اعتقاد رکھنے سے ارتداد لازم آتا ہے، متعدد ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اعتقاد سے متعلق ہے۔ فقہاء اسلام کا اس امر میں بالکلیہ اتفاق ہے کہ جس شخص نے کسی کو اللہ کا شریک کیا، یا اللہ کے وجود کا انکار کیا یا اس کی کسی صفت ثابتہ (ثابت شدہ) کی نقی کی یا اللہ کے واسطے کسی ایسی شے کو ثابت کیا۔ جس کا خدا نے انکار کیا ہے مثلاً اللہ کا بیٹا ہوتا یا اس کے بر عکس یا مثلاً مرنے کے بعد دوبارہ انھائے جانے کا انکار، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا انکار، رسولوں اور ملائکہ کا انکار، تو ایسا شخص کافر ہے۔ یا جس کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی تخفیف و تذلیل کی، خواہ انکار یا نہادا، وہ شخص بھی کافر ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اعتقاد کے مسئلہ کے ضمن میں حنبلہ نے ”وساطت“ کے مسئلہ کو بھی لے لیا ہے چنانچہ ان کے نزدیک کسی کا بندے اور خدا کے درمیان ایسے واسطے کا عقیدہ رکھنا کہ اسی واسطے پر توکل کیا جائے اسی سے دعا کی جائے اور اسی سے مانگا جائے۔ اجماعاً کافر ہو گا۔ ”او جعل بینه و بين الله و سانط يتوکل عليهم يدعوهم و يسانthem احتماعاً“

(الناسف مرزا، ج ۱۰ ص ۲۲، اختیارات العجمیہ، ابن تیمیہ ص ۳۰۳، الاقاع، مقدی ج ۲ ص ۲۹۷)

اعتقاد کے مسئلہ کا دوسرا اہم امر قرآن پاک کے بارے میں عقیدہ سے متعلق ہے۔ چنانچہ یہ بات عام ہے کہ جو شخص قرآن پاک (کل یا اس کے کسی جزو) کا انکار کرے، کافر ہے۔ بعض کے نزدیک محمد ایک کلام کا انکار کافر ہے اور بعض ایک حرفاً کے انکار پر کافر کے قائل ہیں۔ (المحلی ج ۱ ص ۹۶ مسئلہ نمبر ۲۱) جس طرح کہ قرآن کے بارے میں تناقض و اختلاف، اس کے اعجاز میں مشک اور اس کے مثل یا اس کے احترام کے ساقط ہونے کا عقیدہ رکھنا کافر ہے۔ (الاقاع مقدی ج ۲ ص ۲۹۷) تحریف قرآن کا قائل ہوتا بھی کفر و ارتداد ہے۔

البتہ قرآن کی کسی تفسیر و تاویل کا انکار کرنا یا اس تفسیر و تاویل کا رد کرنا کفر نہ ہو گا۔ بشرطیکہ وہ تفسیر و تاویل ضروریات دین میں سے نہ ہو۔ کیونکہ تفسیر و تاویل ایک امر اجتنادی اور فعل بشری ہے جس میں غلطی کا امکان ہے۔ البتہ قرآن مجید کی نص صریح سے جس شے کی حلت یا حرمت ثابت ہو رہی ہو۔ اس کے متعلق خلاف مدلول نص کا قائل ہوتا بھی کفر و ارتداد ہے مثلاً نماز کی فرضیت کا انکار کافر ہے۔

امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام میں باطن و ظاہر کا قائل ہو اور اس نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ اس باطن کو ہر کس دن اسکے نہیں پا سکتا۔ ایسا شخص کافر اور قابل قتل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”انما على رسولنا البلاغ المبين“ (ماندہ ۹۵) اور ”تبين للناس ما نزل اليهم“ (المحلی ج ۲۲) ”یعنی ہمارے رسولوں کا ذمہ ہے، واضح طور پر پہنچا دینا“ اور ”تاکہ واضح کر دیں آپ لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، ان کی طرف“ پس جو شخص اس کا مخالف ہے اس نے قرآن کی تکذیب کی۔ (المحلی ج ۲ ص ۲۳۲ مسئلہ نمبر ۹۷۲ کتاب الجہاد)

قرآن کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی مربوط ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے بعض احکام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جھوٹ بولا، ایسا شخص کافر و مرتد ہے ایسا شخص بھی کافر ہو گا جو ایک ایسی شے کو حلال سمجھتا ہو جس کو حدیث متواتر کے ذریعہ اجتماعاً حرام قرار دیا جا چکا ہو۔ (المحلی لابن قدامہ ج ۸ ص ۵۸)

یہاں ایک گھست کی وضاحت ازبس ضروری ہے وہ یہ کہ بعض احکام ایسے ہیں جو شارع علیہ السلام کی

جانب سے بذریعہ حدیث متواتر منقول ہیں اور ان پر اجماع ہے۔ یہ احکام ضروریات (بدیہیات) دین کی تعریف میں آتے ہیں، مثلاً نماز اور زکوٰۃ کا وجوب، زنا اور شراب (خمر) اور خریکار کا حرام ہوتا، ان کا حرام ماننا اسلام ہے اور ان احکام یا ان میں سے کسی حکم کا جو حدیث متواتر سے اجماع ٹابت ہیں انکار کرنا کفر ہوگا لیکن اگر کوئی حکم یا اس کی فرع حدیث متواتر سے اجماع ٹابت نہ ہو بلکہ اس پر صرف اجماع ہو تو اس کا انکار کرنے والا کافر نہ ہو گا کیونکہ اس کا انکار حدیث متواتر کا انکار نہ ہو گا بلکہ ایک جزوی جمیع علیہ مسئلہ کا انکار ہو گا اور محض ایک جمیع علیہ مسئلہ کا انکار کفر نہیں ہے۔

قول میں ارتداد امام کا سانی نے لکھا ہے کہ کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا ارتداد کا رکن ہو گا۔

(بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۲)

چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے کسی کو برآ بھلا کئے، اس کے بارے میں فقہاء کے بارکا اتفاق ہے کہ وہ کفر کا مرکب ہوا۔ خواہ اس نے مراح یا استہزا کے طور پر ایسا کیا ہو۔ (اللکھ ج ۱۳ ص ۲۳۶ مسائل التعریر ۲۳۱)

اس کی دلیل قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی یہ آیات ہے:

”ولَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كَنَّا نَخْوَضُ وَنُلْعَبُ قَلْ أَبَاللَّهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لَا تَعْتَدُرُوا أَقْدَ كُفُرَ تَمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ“ (توبہ ۲۵، ۲۶) اور اگر ان سے پوچھئے تو کہہ دیں گے ہم تو محض مشغله اور خوش طبی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آئندوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مٹھما کرتے تھے تم اب یہ (بیہودہ) عذر مت کرو تم اپنے کومون کہہ کر کفر کرنے لگے۔“

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اللہ کو برآ بھلا کئے والا قتل کیا جائے گا خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو برآ کہنے والے کے بارے میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ”اصارم امسلوٰ“ میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس پر بحث کی ہے واقعہ منقول ہے کہ ایک نصرانی نے رسول اللہ ﷺ کو برآ بھلا کہا۔ ابن تیمیہ اپنی تواریخ کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑے تا آں کہ اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اس موضوع پر مشہور شافعی فقیہہ تقی الدین الحنفی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ”السیف المسلول علی من سب الرسول“ ہے اور رسول اللہ ﷺ کو برآ بھلا کہنے والے کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ امام ابن حزم بھی ایسے شخص کو مرتد قرار دیتے ہیں اور اس پر مرتد کا حکم مرتب کرتے ہیں۔

(الصارم امسلوٰ ص ۵۳۶ فصل فیمن سب اللہ تعالیٰ میں)

البتہ علماء نے اس مسئلہ میں یہ بیان کیا ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ وہ سب و شتم کے کلمات کہنے والے کے حالات پر غائز نظر سے غور کرے اور صورت حال کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے۔ ساتھ ہی یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کلمات کس درجہ کے ہیں۔ نیز یہ کہ کہنے والا دینی حالت میں کس درجہ تھم ہے نیز یہ کہ وہ سنت کا کس درجہ میں تارک ہے یا الحاد کی دعوت دینے میں اس کا کیا رویہ ہے نیز یہ کہ کیا اس سے بھول یا زبان کی لغرض سرزد ہوئی ہے؟

واضح ہے کہ رسول اکرم کو سب و شتم کرنے والے کا قتل کفر انہیں ہے بلکہ حداؤ تقریر ہے۔ (رواختار)

انبیاء ﷺ کو برآ بھلا کہنا علماء اسلام کے درمیان اس مسئلہ میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ جن انبیاء کرام کی نبوت قطعی اور تلقینی ہے ان کو برآ بھلا کہنے والا کافر ہے۔ گویا کہ اس نے ہمارے نبی ﷺ کو برآ بھلا کہا البتہ جن انبیاء کی نبوت کا ثبوت ہم پر قطعی دلائل سے نہیں ہوا ان کے حق میں برآ بھلا کہنے والے کو زجر و توبخ کی جائے گی اور سزا

دی جائے گی۔

(الصارم ص ۲۹ الحکم من سب نیما)

امہات المؤمنین، خلفاء اربعہ اور صحابہ کو برآ کہنا

کبار فقهاء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کو جس نے برا بھلا کہایا آپ کی ذات پر طعن کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اس کی دلیل خود قرآن پاک کی وہ آیتیں ہیں جو آپ کی برأت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ پس جس کسی نے خادش افک کے بارے میں اس کے بعد طعن کیا، اس نے قرآن کو جھٹالایا۔ اور قرآن کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ امام ابن تیمیہ نے ان تمام خواص کو اپنی کتاب الصارم المسول میں بیان کیا ہے۔ جن کے بارے میں طعن کرنے والا سزاوار قتل ہوتا ہے۔

(الصارم ص ۳۰۳ فصل فیمن سبت ازوج النبی ﷺ المحتل ج ۱۳ ص ۲۳۸ مسائل التعزیر)

البته جہاں تک دوسری زوجات نبی ﷺ کا تعلق ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ دوسری زوجات کے خلاف طعن کرنے والے کو حضرت عائشہ صدیقہؓ پر طعن کرنے والے کی مثل کافر قرار دیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ دیگر زوجات کو صحابہ کرام کی مثل قرار دے کر ان پر طعن کرے۔ کوکڑوں کی سزا دی جائے گی اکثریت اسی رائے کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ (الحلی ج ۱۳ ص ۲۲۸ مسائل تعزیر) علامہ بکی نے اپنے فتاویٰ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ علیؑ نے حضرت عزؑ نے ایک آدمی کی زبان کاٹ دی تھی کیونکہ اس نے ایک صحابی کو برا بھلا کہا تھا۔ و عن عمر بن الخطاب انقطع لسان عبید اللہ بن عمر اذ شتم المقداد ابن الاسود فلکم فی ذلک فقال: دعونيقطع لسانه حتى لا يشتم بعد اصحاب محمد ﷺ.

(فتاویٰ السبکی الشافعی، ج ۲ ص ۵۸۱)

رقم المعرف کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہؓ کے خادش افک کے بارے میں طعن کرنے والا قتل کا مستحق ہے اس لیے کہ وہ طعن کر کے اس "حق" کا انکار کرتا ہے جو خداۓ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی برأت میں ظاہر کیا ہے لیکن علاوہ اس کے کسی دوسرے امر میں طعن کرنا "انکار قرآن" یا "کفر" کے مترادف نہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری زوجات مطہراتؓ کا معاملہ ہے۔

کفر اور قتل علامہ شیخ ہلتوت نے لکھا ہے کہ حدود روایات آحاد سے ثابت نہیں ہوتیں اور کفر بغضہ کسی کے خون کو حلال کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو چیز خون کو حلال کرنے والی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف برس پیکار ہونا اور ان کے دین (اسلام) میں فتنہ افیزی کرنا ہے۔ (الاسلام عقیدہ و شریعت، محمود ہلتوت، ص ۲۵) ابن دین العید نے تارک الصلوة کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک قتل نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ (اپنے ترک پر) مسلمانوں سے مقاتله و مجاہدہ نہ کرے۔ (احکام الاحکام، شرح عمدة الاحکام، ج ۲ ص ۳۰۲) بالفاظ دیگر محسن ترک صلوة موجب قتل نہیں ہے بلکہ اس ترک پر اصرار کے ساتھ مسلمانوں سے مباڑت طلبی اور ان کے ساتھ مقاتله موجب قتل ہوگا۔

اعتقادی اور قوی ارتداو کا فرق

اعتقاد کا ارتداو جب اس شخص کی زبان کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ ارتداو قوی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص اس کو چھپائے تو وہ منافق ہوگا۔ لیکن اس سے دنیا میں موافخذہ نہ کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کا ارتداو ظاہر اور ثابت و قائم نہ ہو جائے۔

ارتداو قوی بعض افعال ایسے ہیں جن کے کرنے سے بعض فقهاء کے نزدیک کفر لازم آتا ہے مثلاً قرآن پاک یا

اس کے کسی جزو بھی جگہ میں رکھنا یا اس پر نجاست لگتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کی توقیر ہر مسلمان کے ذمے واجب ہے، کسی ایسے شخص سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور مسلمان ہو، قرآن پاک کی اہانت و تذمیل کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو درحقیقت وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔

فچہاء کی ایک غالب اکثریت اس امر پر تتفق ہے کہ جس شخص نے کسی بت سورج یا چاند کو سجدہ کیا وہ کافر ہو گیا کیونکہ سجدہ کرنا اللہ کے واسطے خاص ہے پس جس شخص نے غیر اللہ کو سجدہ کیا۔ گویا اس نے اس غیر اللہ کی تنظیم کی جو اس کے اسلام سے خارج ہونے کی دلیل ہے۔ گویا وہ عملًا توحید کا منکر اور مشرک ہو گیا۔

ارتداد ترک فعل سے بعض افعال ایسے ہیں جن کے ترک سے ارتداد لازم آتا ہے۔ اس ضمن میں ایسے فعل و اجرات آتے ہیں جس کا عمدآ تارک، مرتد کے درجہ میں شمار ہوتا ہے البتہ اس میں بنیادی اور فیصلہ کن بات یہ ہو گی کہ اس کا ترک کسی سنتی و کاملی یا غفلت کے سبب ہے یا فرضیت و وجوب سے انکار کے طور پر۔ چنانچہ جو مسلمان نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سنتی، کاملی، غفلت یا حرص کے سبب زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو، گویا اس کے وجوب کا قائل ہو، وہ شخص کافر نہ ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام مباحث کا جو مختلف کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

(عمدة القاري ج ۲۲ ص ۸۱ تسلی الاوطار ج ۱ ص ۱۸)

خلاصہ یہ کہ خدا یے تعالیٰ کی ذات و صفات، اشرف المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت اور ضروریات دین میں سے کسی امر دین کا انکار، جو انکار رسالت کو مستلزم ہو، ارتداد کا موجب اور سبب ہے۔ چنانچہ جو شخص رسول ﷺ کے بعد کسی بھی شخص کو کسی طرح کا بھی نبی مانتا ہو، وہ بھی رسالت محمدی کے انکار ہی کو مستلزم ہوتا ہے اور ایسا شخص کافر و مرتد قرار پائے گا کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں داخل ہے۔ (اس موضوع پر امام المصر مولانا السيد اور شاہ الکشمیریؒ کی تالیف "آفقارالمحمدین" شائع کردہ مطبیہ لدھیانوی کراچی، ایک بے نظیر کتاب ہے۔ تفصیلی مطالعہ کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کیا جائے)

ارتداد کا ثبوت حنفیہ کے نزدیک ارتداد کے لیے دو عادل مرد شاہدؤں کی گواہی ضروری ہے چنانچہ اگر کسی کے کفر پر دو عادل شاہد گواہی دیں تو امام (حاکم وقت) پر لازم ہو گا کہ ان سے وجہ کفر کی مکمل وضاحت طلب کرے۔
(بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۵)

شافعیہ کے نزدیک ردت کا ثبوت ایک روایت کے بوجب مطلق شہادت سے ہو جائے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شاہدؤں پر وضاحت کرنا لازم ہے۔ امام (حاکم وقت) ان سے وضاحت کا مطالبہ کرے گا۔ پہلے قول کے مطابق اگر شاہدؤں نے صرف اتنا کہا کہ یہ شخص مرتد ہو گیا یا اس نے کفر اختیار کر لیا اور مدعا علیہ نے اس کا انکار کیا تو شہادت کی بنیاد پر ارتداد کا حکم دیا جائے گا۔ انکار قابلٰ لحاظ نہ ہوگا۔ لایہ کہ اگر اس کے انکار کے حق میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو اس کے انکار کی صداقت پر دلیل ہو سکے تو حلف کے بعد اس کا انکاری قول معترض ہوگا۔ (المغی المحتاج، ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳۔ المہذب ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳) راقم الحروف کے نزدیک شافعیہ مذهب میں دوسری روایت پر عمل کرنا مناسب ہو گا۔ جیسا کہ حنفیہ مذهب میں بھی ہے۔

باب ۲..... مرتد کے اثرات و متأثرون

(الف) مرتد کی ذات سے متعلق احکام

مرتد کی سزا مرتد کی ذات سے متعلق احکام میں سب سے پہلا مسئلہ اس کی سزا کا ہے۔ ارتداد اور اس کی سزا کے بارے میں قاضی عبدالقدار عودہ نے اپنی کتاب "التشریع الجنائی" ج اصل ۲۱-۲۲ میں لکھا ہے کہ:

"رُذَّ كَيْ دُوْزِرَّ مَيْسَ ہِيْنَ: (۱)..... سزاَتِ اصْلِيْ جَوْقَلَ ہِيْ، (۲)..... سزاَتِ طَبِيْ جَوْجَمَانَهْ يَا تَادَانَ ہِيْ۔"

قتل شریعت اسلام میں ارتداد کے جرم میں جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ قتل ہے جس کی اصل یہ آیت ہے "وَمَنْ يُرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتَثِ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأُولَئِكَ حَبْطُتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔" (بقرہ، ۲۱۷) "یعنی جو شخص تم (مسلمانوں) میں سے اپنے دین سے پلتے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہی لوگ دوزخی ہوں گے جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔"

مرتد کے قتل کے بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد "من بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"

(بخاری ج ۲ ص ۱۰۲۳) ۱۰۲۳ میں باب حکم المرتد والمرتدہ)

یعنی جس نے اپنا دین تبدیل کیا، پس تم اس کو قتل کر دو۔ مرتد کے قتل کر دینے پر صریح فنص ہے۔

شریعت اسلام کا رذت کے جرم کے بعد اس کی سزا قتل مقرر کرنا اس بنا پر ہے کہ یہ جرم دین اسلامی کی ضد ہے اور اسی دین اسلام پر جماعت کا اجتماعی نظام قائم رہ سکتا ہے۔ لہذا اس جرم کی سزا میں تسلیم اختیار کرنا اس نظام اجتماعی کے درہم برہم کرنے کا سبب ہو گا۔ اسی وجہ سے اس جرم پر محنت تین سزا مقرر کی گئی ہے تاکہ معاشرہ سے مجرم کا استیصال ہو جائے اور نظام اجتماعی کی تکمیل کی طرح سے قائم رہے اور دوسری طرح اس جرم کے لیے مانع موجود ہو۔

اس امر میں کوئی شک نہیں کہ قتل کی سزا سے زیادہ محتمم بالاشان لوگوں کو ان کے جرم سے روکنے کے لیے کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ اور جب کبھی ایسے عوامل پیدا ہوں گے جو جرم کے ذمہ دار کی بھوت نہیں تو قتل کی سزا نفس انسانی میں غالباً ایسے عوامل کو پیدا کرنے والی ہو گی جو جرم کے ارتکاب سے روکنے والے ہوں اور اکثر حکومتوں، عصر حاضر میں، ایسے اجتماعی نظام کو محنت تین سزاوں سے قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔

جرمانہ یا تادوان جرمانہ یا تادوان کی سزا طبعی ہے جو قتل کے ذیل میں ہے جس کا تعلق مرتد کے مال سے ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں فقهاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک اور شافعی نیز امام احمد بن حبلن کے نہبہ کے مطابق یہ تادوان اس کے تمام مال پر عائد ہو گا اور امام ابوحنیفہ کا نہبہ جس کو بعض علمی فقهاء نے بھی اختیار کیا ہے، یہ ہے کہ مرتد کا وہ مال جو اس نے ارتداد کے بعد کیا اس پر یہ تادوان عائد کیا جائے گا، لیکن اس کا وہ مال جو اس نے رذت سے پہلے حاصل کیا وہ اس کے مسلمان ورثا کا حق ہو گا، امام احمد ابن حبلن کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اگر وہ مال رذت کے بعد کا حاصل کردہ ہو اور مرتد کا کوئی وارث موجود ہو تو وہ مال مرتد کے وارث کا ہو گا لیکن یہ روایت غیر مشہور ہے۔

ڈاکٹر عبد العزیز عامر نے اپنی مشہور کتاب "التعربی فی الشریعۃ الاسلامیۃ" ص ۱۶-۱۹ اطیع مصر ۱۹۵۸ء میں

لکھا ہے کہ مرتد کے لیے قتل کی سزا بہت سے صحابہ سے مردی ہے جن میں حضرات ابو مکر، عمر، عثمان، علی، معاذ بن جبل اور ابن عباس (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) شامل ہیں۔ اور ان میں سے کسی نے بھی مرتد کی اس سزا کا انکار نہیں کیا، اس لیے اس پر اجماع ہو گیا۔

چنانچہ کہا جاسکتا ہے کہ ارتداد کا جرم ہونا قرآن پاک اور سنت سے نصا ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے اور مرتد کی سزا (قتل) سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔

مرتد کی سزا اور قرآن کریم اور اہ طوع اسلام لاہور سے بھی ایک کتاب ”قتل مرتد“ کے بارے میں شائع ہوئی ہے جس میں اس نقطہ نظر کی تبلیغ کی گئی ہے کہ اسلام میں ارتداد سے سے کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ لہذا سزا کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ (ص ۳۷) کتاب کے مصنف کے نزدیک ”لا اکراه فی الدین“ (بقرہ ۲۵۶) اور ”فمن شافقیؤمْ وَ مِنْ شَاءْ فَلِيَكُفُرْ“ (آلہ کلیف ۲۹) کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انسان کے ارادہ و اختیار کا مسئلہ ہے، دین کے معاملہ میں جوراہ چاہے اختیار کرے بلکہ ان کے نزدیک ”ان الذین امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا“ (الناء ۱۲۷) کی رو سے تو اسلام اور کفر کے دروازے آمد و رفت کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ (ص ۳۳) جس کا جی چاہے اور جتنی بار چاہے آئے جائے، کوئی روک نوک نہیں۔ صبح کا فرشام مسلمان، صبح کو پھر کافر شام کو پھر مسلمان اور پھر صبح کو کافر ہو جائے تو اُسیں اس میں بھی کوئی قباحت نظر نہیں آتی، کویا دین نہ ہوا، باز چچہ اطفال ہو گیا۔ چنانچہ کتاب کے مصنف لکھتے ہیں:

”مرتد کے معاملے میں قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اسلام کے بعد کفر اختیار کر لینا کوئی جرم نہیں، ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ مسلمان رہنے یا اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لے۔ اس لیے جب یہ چیز جرم ہی نہیں تو اس کی سزا کیسی؟ ہباء بریں بات یوں ٹھہری کہ قرآن نہ تو ارتداد کو جرم قرار دیتا ہے اور (اس لیے) نہ اس کی سزا تجویز کرتا ہے۔ اس کے عکس وہ کہتا ہے کہ: جس کا جی چاہے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لے۔“ (ص ۳۷-۳۸)

مصنف کتاب کے مندرجہ بالا مزبورات کے خلاف صرف یہی قرآنی واقعہ نقل کرنے کے لیے کافی ہے کہ ”حضرت موسیٰ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی برکت سے نبی اسرائیل کو جب خدا نے فرعون کی غلائی سے نجات دی اور فرعونیوں کی دولت کا مالک ہنا دیا تو حضرت موسیٰ^{صلی اللہ علیہ وسلم} ایک ٹھہرے ہوئے وعدہ کے موافق حضرت ہارون^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو اپنا خلیفہ بنانے کو وہ طور تشریف لے گئے جہاں آپ نے چالیس راتیں خدا کی عبادت اور لذت مناجات میں گزاریں اور توراة شریف آپ کو عطا کی گئی۔

ادھر تو یہ ہو رہا تھا اور ادھر سامری کی فتنہ پر دازی نے نبی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کو آپ کے پیچھے رواہ حق سے ہٹا دیا۔ ”واضْلَمُ الْسَّامِرِي“ (ظ ۸۵) یعنی سونے چاندی کا ایک چھڑا بنا کر کھڑا کر دیا جس میں سے کچھ بے معنی آواز بھی آتی تھی۔ نبی اسرائیل جو کئی صدی تک مصری بت پرستوں کی صحبت بلکہ غلامی میں رہے تھے اور جھنوں نے عبور بحر کے بعد بھی ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ یہودہ درخواست کی تھی کہ:

”اجعَلْ لِنَا الَّهُمَّ كَمَا لَهُمْ الْهُدَى.“ (الاعراف ۱۳۸) ہمارے لیے بھی ایسا ہی معمود بنا دیجئے جیسے ان کے جس کی خلاش میں موسیٰ بھول کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔

حضرت ہارون ﷺ نے موی ﷺ کی جائشی کا حق ادا کیا اور اس کفر و ارتاد سے باز آ جانے کی پدایت کی: ”يَا قَوْمٍ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ بِهِ وَإِنْ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ لَا يَأْتِي عَنْ أَمْرٍ“ (ظا ۹۰) اے لوگو! تم اس پھرے کے سب قتنہ میں ڈال دیے گئے ہو حالانکہ تمہارا پروردگار (تھا) رحمٰن ہے، تو تم میری بھروسی کرو اور میری بات مانو۔“

لیکن وہ اپنی اسی سخت مرتدانہ حرکت پر مجھے رہے۔ مجھے توبہ کے یہ کہا کہ: ”لَنْ نَبْرَحْ عَلَيْهِ عَاكِفِنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسَىٰ“ (ظا ۹۱) ”هُمْ بِإِيمَانِهِ اسْقُلْ پُرْجَنَے رہیں گے یہاں تک کہ خود موی ﷺ ہماری طرف واپس آئیں۔“

اول ہر حضرت موی ﷺ کو پروردگار نے اطلاع دی کہ تیری قوم تیرے پیچھے قتنہ (ارتاد) میں پڑ گئی۔ وہ غصہ اور غم میں بھرے ہوئے آئے اپنی قوم کو سخت سنت کہا۔ حضرت ہارون ﷺ سے بھی باز پرس کی سامنی کو بڑے زور سے ڈالا اور ان کے بنائے ہوئے معبود کو جلا کر راکھ کر دیا اور دریا میں پھیک دیا۔

یہ سب ہوا لیکن ان مرتدین کی نسبت خدا کا کیا فیصلہ رہا جنہوں نے موی علیہ السلام کے پیچھے گوسالہ پرستی اختیار کر لی تو زندگی میں تو ان کے لیے خدا کا فیصلہ یہ تھا: ”إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ سَبَّابِهِمْ وَذَلَّةَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ“ (آل عمران ۱۵۲) جنہوں نے پھرے کے معبود بنا یا ضرور ان کو دنیا میں ذلت اور خدا کا غصب پہنچ کر رہے گا اور مفترین کو اہم ایسی سزا دیتے ہیں۔“

اور اس غصب و ذلت کے اظہار کی صورت عبادِ عجل کے حق میں یہ تجویز ہوئی ”إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ النَّفَسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوَبُوا إِلَيَّ بِارْتِنَكُمْ فَاقْتُلُو اَنفُسَكُمْ“ (آل بقرہ ۵۸) ”اے قوم میں اسرائیل تم نے پھرے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اب خدا کی طرف رجوع کرو۔ پھر اپنے آدمیوں کو قتل کرو“ اور ”فَاقْتُلُو اَنفُسَكُمْ“ میں ”النفسکم“ کے معنی وہ ہی ہیں جو ”لَمْ اَنْتُمْ هُوَلَاءٌ تَقْتَلُو اَنفُسَكُمْ“ (آل بقرہ ۸۵) میں ہیں اور قتل کو اپنے حقیقی اور اصلی معنی سے (جو ہر طرح کے قتل کو خواہ لو ہے سے ہو یا پھر سے شامل ہے) پھر نے کی کوئی وجہ موجود نہیں بلکہ غصب اور ذلت فی الحجۃ الدنیا کا لفظ اس کے لیے نہایت ہی مناسب ہے اور یہی غصب کا لفظ دوسری جگہ عام مرتدین کے حق میں بھی آیا ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں ”مِنْ كُفْرِ بَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ الْأَمْنُ اَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْنَنُ بِالْأَيْمَانِ وَلِكُنْ مِنْ شَرِحِ الْكُفَّارِ صَدِرَ أَفْعَلُهُمْ غَضْبُ مِنَ اللَّهِ وَلِهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ (سورة نحل ۱۰۶) اس حکم کا نتیجہ جیسا کہ روایات میں ہے یہ ہوا کہ تین ہزار آدمی جرم ارتاد میں خدا کے حکم سے موی ﷺ کے سامنے قتل کیے گئے اور صورت یہ ہوئی کہ قوم میں سے جن لوگوں نے پھرے کو نہیں پوچھا تھا ان میں سے ہر ایک نے اپنے اس عزیز و قریب کو جس نے گوسالہ پرستی کی تھی اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے قاتلین کا اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا یا اس کی سزا تھی کہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو ارتاد سے روکنے میں کیوں تسلی کیا۔

الحاصل واقعہ عجل سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ مرتدین کی ایک جماعت کو جس کی تعداد ہزاروں سے کم نہیں تھی حق تعالیٰ نے محض ارتاد کے جرم میں نہایت اہانت اور ذلت کے ساتھ قتل کرایا اور ارتاد بھی اس درجہ کا قرار دیا گیا کہ توبہ بھی ان کو خدا کی سزا سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ بلکہ توبہ کی مقبولیت بھی اسی صابرانہ مقتولیت پر مرتب ہوئی۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ موسوی شریعت کا ہے۔ امت محمدیہ کے حق میں اس سے تمکن نہیں کیا جا

سلکا۔ لیکن معلوم ہوتا چاہیے کہ پہلی امتوں کو جن شرائع اور احکام کی ہدایت کی گئی ہے اور قرآن نے ان کو نقل کیا ہے وہ ہمارے حق میں بھی معتبر ہیں اور ان کی اقتدا کرنے کا امر ہم کو بھی ہے جب تک کہ خاص طور پر ہمارے مخابر یا ہماری کتاب اس حکم سے ہم کو علیحدہ نہ کر دیں۔

چند انبیاء مرسلین کے تذکرہ کے بعد جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں نبی کریم ﷺ کو خطاب ہوا ہے کہ: «اولنک الذین هدی اللہ فبهداهم اقتده»۔ (الانعام ۹۰) یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت کی تو آپ بھی ان کی ہدایت پر چلیے۔ (الشہاب الرجم الخاطف المرتبا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، دیوبند ص ۱۶-۱۹)

ایک اور دلیل سورہ بقرہ ۳۹ میں فرمایا گیا ہے: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ». ”اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اصحاب نار ہیں اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

سورہ آل عمران ۸۳ میں ارشاد ہوا ہے: «وَمَن يَتَعَنَّ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْغَاسِقِينَ۔» یعنی اور جو کوئی چاہے سوادین اسلام کے اور کوئی دین، سواس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خراب ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے: «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لِعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ۔ خَالِدُونَ فِيهَا لَا يَخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔» (آل عمران ۸۵-۸۹) یعنی ”کیونکر راہ دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کے بے شک رسول سچا ہے اور آئیں ان کے پاس نشانیاں روشن اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ بلکہ ہو گا عذاب ان سے اور نہ ان کو فرصت ملے گی مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیے تو پیشک اللہ غفور رحیم ہے۔“

آگے ارشاد ہوتا ہے: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كَفَراً وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوْهُمْ كَفَارُهُمْ فَلَنْ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْفَتَدِيمَ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصْرٍ۔» (آل عمران ۹۰-۹۴) یعنی جو لوگ مکر ہوئے مان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ اور وہی ہیں گمراہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی، تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا اور اگرچہ بدلا دیوے اس قدر سونا ان کے لیے عذاب درد ناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔“

سورہ نساء ۳۷ میں ارشاد ہے: «إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا ثُمَّ كَفَرُوا لَمْ آمِنُوا ثُمَّ كَفَرُوا لَمْ ازْدَادُوا كَفَراً لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا۔» یعنی جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر بڑھتے رہے کفر میں تو اللہ ان کو ہرگز بچنے والا نہیں اور نہ دکھائے ان کو راہ۔“

سورہ غیلی میں ارشاد ہوتا ہے: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ الْأَمْنَ اَنْ اَكْرَهَ وَقَبْلَهُ مَطْمَنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكُنْ مِنْ شَرَحَ الْكُفَّارَ أَعْلَمُهُمْ غَضْبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔» (انحل ۱۰۶) یعنی جو کوئی مکر

ہو اللہ سے یقین لانے کے بھی گروہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل برقرار رہے ایمان پر لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا۔ سوان پر غصب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے۔“
ان آیات کے مجموعی مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہے کہ مرتد کے خلاف اللہ کی سخت وعید ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے اس کے لیے اللہ کی سخت تاریخی ہے۔

اب یہ بات کوئی آوارہ عقل ہی کہہ سکتا ہے کہ ”قرآن امرتاد کو جرم ہی قرار نہیں دیتا، جس کا جی چاہے اسلام چھوڑ کر فراخیار کر لے۔“ (ص ۳۸) اگر یہ کوئی جرم (گناہ) نہیں ہے تو آخرت میں مستولیت کیسی؟ اور خدا کا غصب کیوں؟ شاید کوئی کج فہم یہ اعتراض کرے کہ ان آیات میں مرتد کے اعمال ضائع ہونے، ان پر خدا کی لعنت برنسے، آخرت میں غصب الہی کا شکار ہونے اور عذاب دیے جانے کا ذکر ہے، ان آیات میں مرتد کے قتل کیسے جانے کا حکم مذکور نہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو سطور ماقبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعہ کے ذکر میں دیا جا چکا ہے جو مرتد کی سزا نے قتل کا بدیہی ثبوت ہے اور دوسرے جواب کے لیے قتل عمد کے سلسلے میں حسب ذیل آیت قرآنی پر نگاہ ڈالیے۔

”وَمَنْ يَقْتُلْ مِوْمَنًا مَعْمَدًا لِفِزَاءٍ هُجَّهَنَمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضْبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعْدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔“ (التاء م ۹۳) یعنی اور جو شخص کسی مسلمان کو عمداً قتل کرے گا تو (آخرت میں) اس کی سزا جہنم ہوگی جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا اور اس پر اللہ غصب اور لعنت کرے گا اور ایسے شخص کے لیے خدا نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔“

اس آیت کو پڑھ کر ایک ناہم شخص، یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن نے اس آیت میں قتل عمد کا بدلہ صرف یہ قرار دیا ہے کہ اس کو وزخ میں خلود ہوگا اور اللہ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہے اور خانے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی قاتل کے لیے اخروی عذاب تو ہے مگر اس آیت میں دنیا میں اس کے لیے سزا نے موت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نے قتل اولاد، دروغ غلطی، ناپ قول میں کسی، وغیرہ میں کوئی سزا مقرر نہیں کی بلکہ عذاب آخرت کی تنبیہ کی ہے گویا ان کے لیے بھی کوئی سزا نہ ہونا چاہیے؟ لیکن ایک صحیح الفہم اور صحیح الفکر شخص قرآن کے مجموعی مطالعہ اور متعلقہ احکام و اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھے گا، جو کہ رسول اکرم ﷺ کے ذریعہ اس تک پہنچی ہیں جن کو نہ مانتے والوں کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے:

”وَمَنْ يَشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَبْعَثُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نَوْلَهُ مَاتَوْلَىٰ وَنَصَلهُ جَهَنَمُ وَسَاتَ مَصِيرًا۔“ (التاء م ۱۱۵) یعنی اور جس کسی نے رسول کی مخالفت کی، ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلا تو ہم اس کو حوالے کریں گے اس چیز کے جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ اور داخل کریں گے وزخ میں اور وہ براٹھ کانا ہے۔“

دنیا کی پیشتری اسی جماعتوں کا بھی یہ قانون ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں بھی پلٹیکل پارٹیز ایکٹ ۱۹۶۲ء سے بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی اسلامی کامبر اپنی پارٹی بدل کر دوسری پارٹی میں شامل ہوگا تو وہ اپنی سیٹ اور تمام ثمرات و فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن مصنف کتاب ”دین حق“ پارٹی میں شامل افراد کو محلی جمیٹی دینا چاہیے ہیں کہ وہ جب چاہیں اس سے با غی ہو جائیں، ان پر کوئی حد یا تعزیر نہیں۔

باب ۵..... حدیث میں مرتد کی سزا

مرتد اسے مرتد (مرد) کا خون حلال ہو جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی مشہور حدیث "من بدل دینه فاقتلوه" (بخاری ج ۲ ص ۱۰۲۳ باب حکم المرتد والمرتدہ) سے ثابت ہے کہ جس نے اپنے دین (اسلام) کو بدلہ، اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعربی، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت خالد بن ولیدؓ اور متعدد دیگر صحابہ سے مردی ہے اور تمام کتب حدیث میں موجود ہے۔ مزید احادیث ذیل میں ملاحظہ ہوں:

(۱)..... حضرت عمرہ سے مردی ہے کہ حضرت علیؓ کے پاس زندقی لائے گئے، آپ نے ان کو جلا کر مار ڈالا۔ جب اس کی خبر حضرت ابن عباسؓ کو پہنچی تو آپ نے کہا۔ "اگر میں ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کی ممانعت کے سبب ان کو جلا کر نہ مارتا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو۔ البتہ میں ان کو قتل کر دیتا، رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے بوجب کہ جس نے اپنادین بدلہ، پس تم اس کو قتل کر دو۔"

(۲)..... ابو موسیٰ اشعربی پیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ان کو (ابو موسیٰ اشعربی کو) یمن کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ پھر اس کے بعد معاذ بن جبلؓ کو ان کے معاون کی حیثیت سے روانہ کیا۔ جب معاذ وہاں پہنچے تو انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کے رسول کا فرستادہ ہوں۔ ابو موسیٰ اشعربیؓ نے ان کے لیے تینی رکن تاکہ اس سے فیک لگا کر بیٹھیں اتنے میں ایک شخص پیش ہوا جو پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا پھر یہودی ہو گیا۔ معاذؓ نے کہا، میں ہرگز نہ بیٹھوں گا جب تک کہ یہ شخص قتل نہ کر دیا جائے اللہ اور رسول کا یہی فیصلہ ہے۔ معاذؓ نے یہی بات تین دفعہ کہی۔ آخر کار جب وہ قتل کر دیا گیا تو معاذ بیٹھ گئے۔

واضح رہے کہ معاذ بن جبلؓ اور ابو موسیٰ اشعربیؓ کی تقری آنحضرت ﷺ کے حکم سے عمل میں آئی تھی اور یہ واقعہ آپ ﷺ کے زمانہ مبارک میں پیش آیا۔ مرتد کی سزا قتل کا اس سے زیادہ مصدقہ ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عهد مبارک کا ہے یہ دونوں اصحاب رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یمن کی گورنری و نائب گورنری کے عہدوں پر مقرر تھے۔ اگر موسیٰؓ و معاذؓ کا یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم و منشاء کے خلاف ہوتا تو یقیناً ان سے باز پرس ہوتی اور تنبیہ کی جاتی۔

(۳)..... حضرت عبد اللہ ابن مسحہؓ سے مردی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان مرد کا خون حلال نہیں جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کسی مسلم مرد کا خون حلال نہیں مگر تین افراد کا..... ایک وہ جس نے اسلام کو ترک کر دیا ہو، دوسرے شادی شدہ زانی اور تیسرا قتل کے بدله قتل۔ (تصاص)

(۴)..... حضرت عثمانؓ بن عفان سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سن کہ کسی مسلمان مرد کا خون حلال نہیں مگر یہ کہ وہ تین افراد میں سے ایک ہو:

(الف)..... وہ جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کیا ہو۔

(ب)..... وہ مرد جس نے کسی دوسرے کا ناقن خون کیا ہو۔

(ج)..... وہ مرد کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو۔

(۵)..... حضرت عثمانؓ بن عفان سے ایک دوسری روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے

تھے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین جرموں کی پاداش میں ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کے جرم کا ارتکاب کیا ہو، جس کی سزا سگ ساری کے ذریعہ مارڈا تا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی نے عمدًا قتل کا ارتکاب کیا ہواں پر قصاص ہے، تیسرا یہ کہ کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، اس کی سزا قل ہے۔

تاریخ کی متعدد کتابوں میں یہ واقعہ صراحة کے ساتھ موجود ہے کہ جب لوگ حضرت عثمانؓ کے قتل ناچر پر آمادہ ہوئے اور آپؐ کے مکان کا محاسنہ کیا، تو حضرت عثمانؓ نے اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر بآواز بلند یہ حدیث پڑھی اور باغیوں کو قتل سے باز رکھنا چاہا۔

(۶)..... حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا تو اس کی گردن مارنا جائز ہو گیا یعنی اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔

(۷)..... حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ عبد اللہ بن سعد بن ابی السرح کا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کر دیا ہے وہ کافروں سے جاملاً لہذا رسول اللہ ﷺ نے فتح کے کے دن حکم دیا کہ وہ (جبکہ کہنی ملے) قتل کر دیا جائے۔

(۸)..... حضرت سعدؓ سے مروی ہے کہ فتح کے دن عبد اللہ بن سعد بن السرح حضرت عثمان بن عفان کے پاس جا کر چھپ رہا تھا۔ حضرت عثمانؓ اس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کو حضور ﷺ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عبد اللہ سے بیعت لے لیجئے۔ حضور ﷺ نے اپنا سر مبارک اور پر اٹھایا اور عبد اللہ کی طرف دیکھا تین مرتبہ، اور ہر مرتبہ آپ ﷺ عبد اللہ سے بیعت لینے میں رکے اور تو قوف فرمایا پھر تیری مرتبہ کے بعد آپ ﷺ نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے صحابہ سے خاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی داشمند آدمی نہ تھا کہ جب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں نے اس کی بیعت لینے سے اپنے ہاتھ کو روک رکھا تھا تو وہ اس عبد اللہ کو قتل کر دیتا۔

(۹)..... حضرت جریثؓ سے مروی ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے سنا کہ جب کوئی غلام شرک کی طرف رہا فرار اختیار کرے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ (یہی حکم آزاد مسلمان مرد کا بھی ہو گا)

(۱۰)..... حضرت زید اسلمؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنا دین (اسلام) بدلا اس کی گردن مار دو۔

(۱۱)..... حضرت عائشؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی مسلمان مرد کا خون حلال نہیں مگر اس مرد کا جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، اسلام لانے کے بعد کفر (انکار) اختیار کیا ہو، یا جان کے بد لے جان یعنی کسی کی جان لی ہو۔

مرتد کی سزا ازوئے حدیث کے تحت (۱) احادیث (۱۱) لفایت (۱۱) احادیث کی عربی عبارتیں حسب ذیل ہیں:

(۱)..... حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه، قال: اتي على بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباسؓ فقال: لو كنتانا، لم احرقهم، لنهي رسول الله ﷺ، لا تعذبوا بعداً لله ولقتلهم لقول رسول الله ﷺ، من بدل دينه فالقتلوا۔ (بخاري ج ۲ ص ۱۰۲۳ باب حکم المرتد والمرتدہ۔ ترمذی ج ۱ ص ۲۷۰ باب ماجاء فی المرتد حدود) مع تقديم و تأخير و تغیر و (ابن ماجہ ص ۱۸۲ باب المرتد عن دینہ) و (ابوداؤد، جلد ۲ ص ۲۳۲ کتاب الحدود باب الحکم فیمن ارتد)

(۲)..... قال حدثنا ابوبردة عن ابی موسیٰ قال: اقبلت الى النبي و معی رجلان من الا شعريین

احدهما عن يميني والآخر عن يساري و رسول الله يستأك فكلاهما سال، فقال: يا ابا موسى اوقال يا عبدالله بن قيس، قال قلت والذى بعثك بالحق ما اطلعانى على ما فى الفسحهما وما شعرت انهم يطلبان العمل، فكانى انظر الى سواكه تحت شفته فلصت، فقال، لن او لا نستعمل على عملنا من اراده ولكن اذهب انت يا ابا موسى ويابا عبدالله بن قيس الى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه الفى له وسادة، قال، انزل و اذا رجل عنده موتك، قال ما هذاء، قال كان يهود يا فاسلم ثم تهود قال: اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله و رسوله، ثلث مرات فامر به فقتل.
 (بخارى كتاب الديات ج ٢ ص ١٠٢٣ باب حكم المرتد والممرتد) و مسلم ج ٢ ص ١٢٠ باب الامارة ص ١٢٠ و ابو داود ج ٢ ص ٢٢٢ باب الحكم فيمن ارتد، و نسانى ج ٢ ص ١٦٩، باب حكم المرتد)

(٣) حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن المثنى، واللفظ لاحمد، قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله، قال، قام فينا رسول الله ﷺ فقال: والذين لا الله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهاد ان لا الله الا الله وانى رسول الله الا ثلاثة نفر، التارك الاسلام، المفارق للجماعة او الجماعة "شك فيه احمد" والشيب الزانى، والنفس بالنفس. (صحيح المسلم ج ٢ ص ٥٩ باب ما يباح به دم المسلم و ترمذى ج ١ ص ٢٥٩ باب ماجه لا يحل دم امراء مسلم و ابن ماجه، ص ١٨٢ ابواب الحدود و بخارى ج ٢ ص ١٠١٢ باب قول الله ان النفس بالنفس و ابو داود ج ٢ ص ٢٢٢ كتاب الحدود باب الحكم في من ارتد)

(٤) ان عثمان بن عفان اشرف عليهم فسمهم وهم يذكرون القتل فقال انهم ليتواعدونى بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل دم امراء مسلم الانى احدى الثلاث رجال ذنى وهو محض. فترجم. او رجل قتل نفساً بغير نفس او رجل ارتد بعد اسلامه.

(ابن ماجه ص ١٨٢ باب لا يحل دم امراء مسلم الانى ثلاث)

(٥) عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه: (ابن ماجه ص ١٨٢ ابواب الحدود باب اقامة الحدود)

(٦) عن عكرمة عن ابن عباس قال كان عبدالله بن سعد بن ابي السرح يكتب لرسول الله ﷺ فازله الشيطان للحق بالكافار فامر به رسول الله ﷺ ان يقتل يوم الفتح.

(ابو داود ج ٢ ص ٢٣٣ كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد)

(٧) عن مصعب بن سعد عن سعد، قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبدالله بن سعد بن ابي السرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى اوقفه على النبي ﷺ فقال يارسول الله بايع عبدالله، فرفع راسه فنظر اليه ثلاثة كل ذلك يابي فباعمه بعد ثلاثة، ثم اقبل على اصحابه فقال اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هؤلاين رانى كففت يدي عن بيعته فيقتله.

(ابو داود، ج ٢ ص ٢٣٣ كتاب الحدود باب الحكم في من ارتد)

(٨) عن الشعبي عن جرير قال سمعت النبي ﷺ يقول اذا ابق العبد الى الشرك فقد حل دمه.

(ابو داود، ج ٢ ص ٢٣٣ باب ايضنا)

(٩) حدثنا يحيى، عن مالك عن زيد بن اسلم، ان رسول الله ﷺ قال من غير دينه فاضربوا عنقه (مؤطرا امام مالك ص ٢٣٠ باب فيمن ارتد عن الاسلام)

(۱) عن عائشة اما علمت ان رسول اللہ ﷺ قال لا يحل دم امر مسلم الا رجل زنی بعد احصانه او کفر بعد اسلامه او النفس بالنفس . (نسائی ج ۲ ص ۱۲۵ باب ذکر ما يحل به دم المسلم)

باب ۶ عورت کا مرتد اور اس کی سزا (حدیث کی روشنی میں)

(۱) حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اگر عورت مرتد ہو جائے تو اسے اسلام لانے پر مجبور تیارا جائے گا اور قتل نہ کیا جائے گا۔

(۲) حضرت ابن عباسؓ نے اپنے ایک اور قول میں فرمایا کہ جو عورت اسلام سے پڑت جائے وہ قید کی جائے گی اور قتل نہ کی جائے گی۔

(۳) حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک عورت احمد کے دن مرتد ہو گئی۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس سے توبہ طلب کی جائے اگر تو بہر کر لے، فبھا ورنہ قتل کر دی جائے۔ اخبرنا محمد بن مخلدنا ابو یوسف محمد بن ابی بکر العطار الفقیہ، ناعبدالرزاق، عن سفیان، عن ابی حنیفة، عن عاصم بن ابی التجدود عن ابی زین عن ابن عباس فی المرأة تردد، قال لا يقتل النساء اذاهن او تددن عن الاسلام. اخبرنا حمد بن اسحاق بن مہلول، نابی، ناطلق بن غنم، عن ابی مالک النخعی عن عاصم بن ابی التجدود عن ابی زین عن ابن عباس قال: المرتدۃ عن الاسلام تعبس ولا تقتل۔ اخبرنا محمد بن الحسین بن حاتم الطویل، نامحمد بن عبد الرحمن بن یونس السراج، نامحمد بن اسماعیل بن عیاش، نابی، نامحمد بن عبد الملک الانصاری، عن الزہری، عن عروة، عن عائشہ قالت: ارتدت امراة يوم احد، فامر النبي ﷺ ان تستتاب، فان تابت والاقتلت. (بیہقی ج ۸ ص ۳۵۳، ۳۵۴ حدیث ۱۲۸۲۹۔ ۱۲۸۲۸۔ ۱۲۸۲۱)

(۴) حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک عورت جس کو ام مروان کیا جاتا تھا، مرتد ہو گئی۔ نبی ﷺ نے حکم دیا کہ اس عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اگر وہ اسلام کی طرف رجوع کر لے فبھا ورنہ قتل کر دی جائے۔ نابراہیم بن محمد بن علی بن بطھاء نابیخ بن ابراہیم الزہری، نا معصر بن بکار السعدي، نا ابراہیم بن سعد، عن الزہری عن محمد بن المکندر عن جابر ان امراة يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام فامر النبي ﷺ ان يعرض عليها الاسلام فان رجعت والاقتلت. (بیہقی ج ۸ ص ۳۵۳ حدیث ۱۲۸۶۶)

(۵) حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ایک عورت اسلام سے پھر گئی تو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے اگر وہ اسلام لے آئے تو فبھا ورنہ قتل کر دیا جائے چنانچہ اس عورت کو اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی گئی، اس عورت نے اسلام لانے سے انکار کر دیا پس وہ عورت قتل کر دی گئی۔ حدیثی محمد بن عبد اللہ بن موسی الیزار من کتابہ، نااحمد بن یحیی بن زکیر، ناجعفر بن احمد بن مسلم العبدی نا الخلیل بن المیمون الکندی بعیاد ان، ناعبد اللہ بن ازینہ عن هشام بن العاص عن محمد بن المکندر عن جابر بن عبد اللہ قال ارتدت امراة عن الاسلام، فامر رسول اللہ ﷺ ان يعرضوا عليها السلام فان اسلمت والاقتلت فعرض علىها الاسلام فابت الا ان تقتل فقتلت.

(۶) حضرت زہری اور ابراہیم نجاشی کا یہ اثر (قول) منقول ہے کہ جو عورت مرتد ہو جائے اس سے توبہ طلب کی

جائے گی۔ اگر توبہ کرنی فبھا ورنہ قتل کر دی جائے گی۔ حدثان محمد بن اسماعیل انصاری ناسخون بن ابراهیم، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزہری فی المرأة تکفر بعد اسلامها، قال تستتاب فان تابت، والاقتلت وعن معمر عن سعید عن ابی عشر عن ابراهیم فی المرأة ترتد، قال تستتاب فان تابت والاقتلت۔ (تہذیق ح ۸ ص ۳۵۲ حدیث ۱۹۸۲۸)

(۷)..... حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ جو کوئی شخص اسلام سے پھر جائے، پھر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کرنی جائے گی۔ لیکن اگر توبہ نہ کرے تو اس کی گردن ماری جائے یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا اور جو کوئی عورت اسلام سے پھر جائے تو اسے اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی جائے گی اگر وہ عورت توبہ کر کے اسلام کی طرف لوٹ آئی تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اگر اس نے انکار کیا تب بھی توبہ طلب کی جائے گی۔ ایمار جل ارتد عن الاسلام فادعہ فان تاب فاقبل منه وان لم يتب اضرب عنقه وایما امراة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وان ابیت فاستبها۔ (کنز العمال، ح اص ۹۱ حدیث ۳۹۰ باب الارتداد)

خلافت راشدہ کے نظام

(۱)..... حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں ایک عورت جس کا نام ام قرفہ تھا اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس عورت سے توبہ کا مطالبہ کیا مگر اس نے توبہ نہ کی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسے قتل کر دیا۔ (تہذیق ح ۸ ص ۲۴۵ حدیث ۱۹۸۲۴)

یہ واقعہ اگرچہ مرتد عورت کے بارے میں ہے لیکن اصولی طور پر ارتداوی کی سزاۓ قتل پر صریح نص ہے۔ (۲)..... حضرت عمرو بن العاصؓ نے جب وہ مصر کے حاکم تھے، حضرت عمرؓ کو لکھ کر دریافت کیا کہ ایک شخص اسلام لایا تھا۔ پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام لایا پھر کافر ہو گیا۔ وہ کتنی مرتبہ ایسا کر چکا ہے۔ اب اس کا اسلام لانا قبول کیا جائے یا نہیں؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ جب تک اللہ اس سے اسلام قبول کرتا ہے تم بھی کیجے جاؤ۔ اس کے سامنے اسلام پیش کرو مان لے تو چھوڑ دیا جائے۔ ورنہ گردن مار دی جائے۔ (کنز العمال ح اص ۳۱۲ حدیث ۱۳۶۷ باب ارتدا و احکام)

حضرت عمرؓ کا یہ اثر اگرچہ، بار بار اسلام لانے اور بار بار مرتد ہو جانے کے متعلق ہے لیکن آخری الفاظ کہ ”اسلام قبول کر لے تو چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔“ مرتد کی سزاۓ قتل پر صریح نص ہیں۔

(۳)..... حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ اور ابو موسیٰ الشعراؓ نے تسری تھی کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ قاصد نے حضرت عمرؓ کے سامنے حالات کی روپورٹ پیش کی۔ آخر میں حضرت عمرؓ نے پوچھا اور کوئی خاص بات؟ اس نے عرض کیا۔ یا امیر المؤمنین، ہم نے ایک عرب کو پکڑا جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا۔ پھر تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قاصد نے کہا، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اسے ایک کرہ میں بند کر کے دروازہ کی کنڈی لگادیتے۔ پھر تین دن تک روزانہ ایک روٹی اس کو دیتے رہتے، شاید کہ وہ اس دوران میں توبہ کر لیتا۔ (کنز العمال ح اص ۳۱۲ حدیث ۱۳۶۶ باب ایضا، طحا وی ح ۲ ص ۱۱۵ کتاب المسیر)

اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو اصولی طور پر مرتد کی سزاۓ قتل سے اختلاف نہیں تھا بلکہ ان کے نزدیک اس سے توبہ کا مطالبہ کرنا اور تین دن کی مہلت دینا بہتر تھا۔ بھی وجہ ہے کہ قاضی ابو موسیٰ الشعراؓ سے اس سلسلہ میں کوئی باز پس نہیں کی گئی۔

طحاوی میں حسب ذیل چند واقعات اور بھی مذکور ہیں۔

(۱)..... حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو خبر پہنچی کہ بنی حنفہ کی مسجد میں کچھ لوگ جمع ہیں اور شہادت دے رہے ہیں کہ مسیلہ (کذاب) اللہ کا رسول ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے پولیس پہنچ کر سب کو پکڑا لیا۔ لوگوں نے توبہ کی اور اقرار کیا کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے سب کو رہا کر دیا۔ مگر ایک شخص عبد اللہ بن النواحہ کو قتل کردا ہے۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ شخص عبد اللہ ابن النواحہ شخص ہے جو مسیلہ کذاب کی طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں سفیر بن کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ سفارت میں ایک اور شخص مجرم بن وہاں بھی شریک تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں سے دریافت فرمایا کہ تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان دونوں نے جواب دیا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ مسیلہ اللہ کا رسول ہے؟ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر سفارتی وفد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نے کہا کہ اس وجہ سے میں نے ابن النواحہ کو سزاۓ موت دی۔ (طحاوی ج ۲ ص ۱۱۵ اکتاب المسیر)

ابن النواحہ کے قتل کا واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عمرؓ خلیفہ تھے اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ آپ کی جانب سے کوفہ کے قاضی تھے۔ عبد اللہ بن النواحہ اور مجرم بن وہاں دونوں مسلمان تھے پھر مسیلہ کذاب کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ حضور ﷺ کے سامنے ارتداؤ کی وجہ سے واجب القتل تھے مگر سفیر ہونے کی وجہ سے حضور ﷺ نے اس وقت چھوڑ دیا تھا۔

(۲)..... حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں کوفہ میں چند آدمی کپڑے گئے جو مسیلہؓ کی دعوت پھیلا رہے تھے حضرت عثمانؓ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پیش کیا جائے۔ جواب سے قبول کرے اور مسیلہ سے برأت کا اظہار کرے اسے چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ (طحاوی ج ۲ ص ۱۱۵ اکتاب المسیر)

(۳)..... حضرت علیؓ کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جو پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہوا پھر عیسائی ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری اس روٹ کا کیا سبب ہے؟ اس نے جواب دیا۔ میں نے عیسائیوں کے دین کو تھارے دین سے بہتر پایا۔ حضرت علیؓ نے پوچھا عیسیٰ ﷺ کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ میرے رب ہیں یا یہ کہا کہ وہ علیؓ کے رب ہیں۔ اس پر حضرت علیؓ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ (طحاوی ج ۲ ص ۱۱۶ اکتاب المسیر)

(۴)..... حضرت علیؓ کو اطلاع دی گئی کہ ایک گروہ عیسائی سے مسلمان ہوا پھر عیسائی ہو گیا۔ حضرت علیؓ نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے سامنے بلوایا اور حقیقت حال دریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی تھے پھر ہمیں اختیار دیا گیا کہ ہم عیسائی رہیں یا مسلمان ہو جائیں۔ ہم نے اسلام کو اختیار کر لیا مگر اب ہماری رائے ہے کہ ہمارے سابق دین سے افضل کوئی دین نہیں۔ لہذا اب ہم عیسائی ہو گئے اس پر حضرت علیؓ کے حکم سے یہ لوگ قتل کر دیے گئے اور ان کے بال پچ غلام بنا لیے گئے۔ (طحاوی ج ۲ ص ۱۱۶ اکتاب المسیر)

(۵)..... حضرت علیؓ کے زمانہ میں ایک شخص کپڑا ہوا آیا جو مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا۔ آپ نے اسے ایک مہینہ تک توبہ کی مہلت دی۔ مگر اس سے پوچھا، مگر اس نے توبہ سے انکار کر دیا۔ آپ نے اسے قتل کر دیا۔

(کنز الہمال ج ۵ ص ۳۱۳ حدیث ۱۳۸۲)

مندرجہ بالا احادیث و آثار و نظراء آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین کے عہد کے ہیں جن سے یہ امر پوری طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ ارتداؤ کی سزا قتل ہے۔ بعض حضرات کا یہ دعویٰ کہ قس ارتداؤ موجب قتل نہیں، جب

تک کہ اس میں بغاوت شامل نہ ہو، مندرجہ بالا حقائق و شواہد کی روشنی میں بے وزن اور بے وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں پیش آمده واقعات کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ مختلف وجہو کے سبب ہے کہ قتنۃ ارتاداد کے ساتھ بغاوت بھی شامل تھی جس کے سبب عام قتل کا حکم ہوا لیکن ان کا یہ دعویٰ مختلف وجہو کے سبب ہے بنیاد ہے۔ اول تو اس لیے کہ تاریخ میں اس سارے واقعہ کو قتنۃ ارتاداد کا نام دیا گیا ہے دوسرا یہ کہ ان میں بنیادی طور پر مانعین زکوٰۃ کا گروہ شامل تھا۔ جوز کوۃ کا مکر تھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گروہ دین کے ایک اہم رکن سے انکار کر کے دین کے دائرہ سے نکل گیا اور مرتد ہو کر واجب القتل قرار پایا۔ حضرت ابو بکر الصدیقؓ کا یہ قول ”والله لا قتلن من فرق بين الاصلوة والزکوة“ کہ خدا کی قسم جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، میں اس سے جگ کروں گا، اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصل مسئلہ ضروریاتِ دین کے اقرار کا تھا۔ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مکر بھی ایسا ہی لکھا جیسا کہ صلوٰۃ کا کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ مختص قتنۃ بغاوت تھا؟

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو جھٹالایا نہیں جا سکتا کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد جزیرہ عرب کے مختلف گوشوں سے ارتاداد کے قتنۃ نمودار ہوئے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں وہ فرمان جو حضرت ابو بکرؓ نے جاری کیا، خاص اہمیت رکھتا ہے اس فرمان میں کہا گیا کہ ”تم میں سے جن لوگوں نے شیطان کی پیروی قبول کی ہے اور جو اللہ سے بے خوف ہو کر اسلام سے پھر گئے ہیں، ان کی اس حرکت کا حال مجھے معلوم ہوا۔ اب میں نے فلاں شخص کو مہاجرین و انصار اور نیک نہاد تابعین کی ایک فوج کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا ہے اور اسے ہدایت کر دی ہے کہ ایمان کے سوا کسی سے کچھ قبول نہ کرے اور اللہ عزوجل کی طرف دعوت دیے بغیر کسی کو قتل نہ کرے۔ پس جو کوئی دعوت الی اللہ قبول کرے گا اور اقرار کرنے کے بعد اپنا عمل درست رکھے گا اس کے اقرار کو وہ قبول کرے گا اور اسے راہ راست پر چلنے میں مددے گا اور جوانکار کرے گا اس سے لڑے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ اجماع امت مندرجہ بالا احادیث و نظائر پیش کرنے کے بعد یہ صراحت ضروری ہے کہ تمام ائمہ کرام اور فقهاء عظام اس امر میں بالکل یہ متفق الرائے ہیں کہ مرتد (مرد) کی سزا قتل ہے۔ اس بارے میں فقهاء متقدمین یا متاخرین میں سے کسی فقیہ کا اختلافی قول نظر سے نہیں گزرا۔ بنا بریں یہ کہنا قطعاً درست ہو گا کہ اس مسئلہ میں امت کا اجماع ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی نے میزان الکبریٰ میں لکھا ہے کہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ جو شخص اسلام سے پھر جائے اس کا قتل واجب ہے۔ (”وقد اتفق الائمۃ علی ان من ارتد عن الاسلام وجب قتلہ“ (میزان الکبریٰ ج ۲ ص ۱۹۵)

عورت کی سزا کے بارے میں مختلف نقطے ہائے نظر

حنفیہ کے نزدیک عورت کے ارتاداد کی صورت میں اس کے لیے قتل کا حکم نہ دیا جائے گا بلکہ اس کو قید کر دیا جائے گا۔ اور پھر ہر دن قید خانہ سے باہر نکال کر اس کو اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی جائے گی۔ اسی طرح مسلسل عمل کیا جاتا رہے تا آنکہ وہ اسلام لے آئے ورنہ مرتدہ کے لیے جس دوام کی سزا ہے۔ امام کرفی کے نزدیک مزید عورت کو ہر دن قید خانہ سے نکال کر چند کوڑے بطور تغیری لگانا منقول ہے۔ عورت کو قتل نہ کرنے کے سلسلہ میں احتفاظ آنحضرت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”لَا تُقْتَلُو امْرَأةٌ وَلَا ولِيَّا“ یعنی عورت اور پچے کو قتل نہ کرو۔

حنفیہ کے برخلاف امام شافعی کے نزدیک ارتاداد کے جرم میں عورت کے لیے بھی وہی سزا ہے جو مرد کے

لیے مقرر ہے۔ امام شافعی اپنے اس نظریہ کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث ”من بدل دینہ فاقتلو“ سے استدلال کرتے ہیں۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے حکم میں عام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قتل کا حکم ارتدا کی بناء پر ہے گویا ارتدا قتل کی علت ہے اور چونکہ یہ علت مرد اور عورت دونوں میں پائی جاتی ہے اس لیے کوئی جہنمیں کہ اس علت کے یکساں طور پر مرد و عورت میں پائے جانے کے باوجود مرد کے لیے قتل اور عورت کے لیے قید کی سزا دی جائے اور دونوں کی سزاوں میں فرق کر دیا جائے۔

احتفاف کی دلیل یہ ہے کہ ان کی پیش کردہ حدیث ”لَا تقتلوا امْرَأةً وَلَا وَلِيَدًا“ عورت کے سلسلہ میں خاص ہے اس لیے ”من بدل دینہ فاقتلوه“ والی حدیث سے مخصوص طور پر مردوں کی ذات مراد ہے اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اور آئس میں کوئی تضاد پیدا نہیں ہوتا۔ حنفیہ کا مسلک قرین صواب ہے۔

مالکیہ کے نزدیک خواہ مرد ہو یا عورت دونوں بسبب ارتدا سزاوار قتل ہیں۔ یہی صورت حلبلیہ کے نزدیک ہے۔ البتہ اگر مرتدہ عورت حاملہ ہو تو وضع حمل سے قبل قتل نہ کی جائے گی، عورت کے وضع حمل کے بعد تن یوم تک توبہ کا مطالبہ کیا جاتا رہے گا، اگر توبہ کر لی، فبھا ورنہ قتل کر دی جائے گی۔

(الاتقان ج ۳ ص ۹-۲۰۲-۲۳۲-۵۱۲)

شیعی فقہ میں عورت کو کسی صورت میں قتل نہ کیا جائے گا خواہ وہ مسلمان پیدا ہوئی ہو یا بعد میں اسلام قبول کیا ہو بلکہ اس کو قید کی سزا دی جائے گی اور نماز کے اوقات میں پیٹا جاتا رہے گا۔

(شرح الاسلام، ج ۲، القسم الرابع، ص ۴۰-۶۰)

بچہ کا ارتدا اور سزا اسی طرح ایک عاقل بچہ اگر ارتدا اختیار کر لے تو اس کا یہ عمل قتل کا موجب نہ ہوگا، اگرچہ امام ابوحنین اور امام محمدؐ کے نزدیک اس کا ارتدا قابل اعتبار ہوگا۔ اس کی بنیاد احسان کے قاعدہ پر ہے۔ اس کو قید میں رکھا جائے گا اور سمجھایا جائے گا تا آنکہ وہ بالغ ہو جائے۔ بعد بالغ بھی اگر اس نے توبہ نہ کی اور اسلام کی طرف لوٹ آنے سے انکار کیا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۲)

طلب توبہ اور حنفی مذهب حنفیہ کے نزدیک یہ امر مستحب ہوگا کہ ارتدا کا ثبوت فراہم ہو جانے کے بعد مرتد سے توبہ کی خواہش کی جائے اور اس کو غور کرنے کی مہلت دی جائے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ مہلت تین یوم ہو گئی۔ اس کی دلیل حضرت عمرؓ کی یہ روایت ہے کہ ”مسلمانوں کے لئکر کا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے اہل لئکر کے حالات دریافت کرتے ہوئے فرمایا“ کوئی نئی خبر ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں! ایک شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر کفر اختیار کر لیا، سیدنا حضرت عمرؓ نے دریافت فرمایا، تم نے اس کے ساتھ کیا عمل کیا؟ اس شخص نے عرض کیا۔ ہم نے پکڑ کر اس کی گردن مار دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، تم نے اس کو تین یوم کی مہلت دے کر اطمینان کیوں نہ کر لیا، تین یوم اس کو محبوس (قید میں) رکھتے اور حسب معقول کھانا دے کر اس سے توبہ کی خواہش کرتے ممکن تھا کہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا۔“ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۲)

حنفی مذهب کی مستند ترین کتاب الہدایہ میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام سے پھر جائے تو اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اگر (اسلام کی حقانیت کے بارے میں) اسے کوئی شبہ ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ کسی شبہ میں جتنا ہو اور ہم اس کا شبہ دور کر دیں تو اس کا شر (ارتدا) ایک بدتر

صورت (قتل) کے بجائے ایک بہتر صورت (دوبارہ قبول اسلام) سے رفع ہو جائے گا۔ مگر مشائخ فقہاء کے قول کے بوجود اس کے سامنے اسلام کو پیش کرنا واجب نہیں کیونکہ اسلام کی دعوت تو اس کو پیش نہیں۔

(ہدایہ ح ۲ ص ۵۲۵ باب احکام المرتدین)

حضرت علیؑ سے بھی ایسا ہی مروی ہے چنانچہ آپ کا قول ہے۔ "یستتاب المرتد ثالثاً" مرتد سے تین یوم تک توبہ کا مطالبہ کیا جائے۔ تاہم حنفیہ توبہ طلب کرنے کو واجب قرار نہیں دیتے۔

راقم الحروف کی رائے میں توبہ طلب کرنا اور شبہ کے ازالہ کے لیے مهلت دینا ازبک ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ شبہ کے ازالہ کے بعد وہ شخص اسلام کی طرف لوٹ آئے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔ "ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم اذادوا كفرا" یعنی یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، اور کفر میں حد سے بڑھ گئے۔ یہ آیت بار بار کفر اختیار کرنے پر نص ہے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی لکھتا ہے کہ بار بار ارتدا کا بھی وہی حکم ہو گا جو پہلی بار کا ہو گا کیونکہ ہر پار اسلام کی طرف رجوع کر لینا محتمل ہے۔

مالکی مذهب مالکیہ کے نزدیک بھی مرتد مرد یا عورت ہر ایک سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا اور اس کو تین یوم کی مهلت دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت صالح اللہ علیہ السلام کو شبہ کے لیے تین یوم کی مهلت دی تھی۔ اس مطالبہ میں ہر قسم کی سزا احتساب کیا جائے گا۔ کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے گی اور نہ بھوکا پیاسار کھا جائے گا۔ اگر اس نے اس مهلت کے دوران توبہ کر لی اور اسلام کی طرف لوٹ آیا تو قتل کی سزا ساقط ہو جائے گی ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ البتہ اگر عورت مٹکوہ ہے تو اس کے ایک حصہ آنے کا انتظار کیا جائے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے اگر حمل پایا گیا تو پھر وضع حمل سکت انتظار کیا جائے گا اور پچھے کی پروش اور رضاعت کا مناسب انتظام ہو جانے پر قتل کیا جائے گا۔ (جاہر الکلیل ح ۲ ص ۲۷۷-۲۹۷)

امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنادین بدالے اس کی گردن مار دو۔ اس حدیث پر تقریر کرتے ہوئے امام مالک نے فرمایا کہ جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں نبی ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے دائرے سے نکل کر کسی دوسرے طریقہ کا پیرو ہو جائے گا اپنے کفر کو چھپا کر اسلام کا انہصار کرتا ہے جیسا کہ زندیقوں اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں کا وظیرہ ہے تو اس کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد سے قتل کر دیا جائے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کی توبہ کا بھروسہ نہیں کیا جاسکتا اور جو شخص اسلام سے نکل کر علانية کی دوسرے طریقے کی پیروی اختیار کرے اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے توبہ کر لے تو فہما ورنہ قتل کر دیا جائے۔ (موطا امام مالک باب القناء نہیں ارتد عن الاسلام ص ۲۳۹)

شافعی مذهب شافعیہ کے نزدیک توبہ طلب کرنا واجب ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک مرتد مرد و عورت سے (ارتداو ثابت ہو جانے پر) توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک حضرت عمرؓ سے توبہ کے مطالبہ کا واجب ہونا ثابت ہے۔ وہ دارقطنی کی اس روایت سے بھی استناد کرتے ہیں جو حضرت جابر سے مروی ہے کہ ام مردان تائی عورت مرتد ہو گئی تو نبی ﷺ نے حکم فرمایا کہ اس پر اسلام کو پیش کیا جائے اگر توبہ کر لے فبھا، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔

مطالبہ توبہ کے واجب ہونے کے قول پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آنحضرت ﷺ نے عربینہ والی حدیث میں اہل مدینہ سے بغیر طلب توبہ ان کوخت ترین سزا دی تھی اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کا مطالبہ واجب نہیں۔

شافعیہ کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا کہ قبیلہ عربیہ کے لوگوں کے ارتاداد کے ساتھ بغاوت بھی شامل تھی اور جب ارتاداد کے ساتھ بغاوت بھی شامل ہوتا اس وقت توبہ کا مطالبہ کسی درجہ میں نہیں کیا جائے گا۔
(المغزی الحجاج، ج ۲ ص ۳۲۳-۳۲۴)

یعنی نہ وہ مستحب ہے نہ واجب سرے سے مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔

حنبلی مذهب حنبلیہ کے نزدیک جو کوئی (مرد و عورت) بالغ عاقل اور عمار ہو، اور مرتد ہو جائے اس کو تین یوم تک اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی جائے گی، اس پر تختی کی جائے گی اور قید میں رکھا جائے گا، اگر اس نے توبہ کر لی فہما ورنہ اس کی گروں مار دی جائے گی۔
(الاقاع ج ۲ ص ۹۰-۹۱ و المتعن ج ۲ ص ۵۲-۵۳)

طلب توبہ کے مسئلہ پر امام ابو محمد ابن حزم طاہری نے اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرتد سے محض ایک مرتبہ توبہ احتجاب کے طور پر طلب کی جائے گی اگر توبہ کر لی تو وہ قول کی جائے گی بصورت انکار قتل کی سزا دی جائے گی۔
(الحلی ج ۱۳ ص ۵۸ مسئلہ المرتدین ۲۱۹۹)

شیعی مذهب طلب و قبول توبہ کے بارے میں شیعہ فقیہہ علامہ الحقائق الحکی نے لکھا ہے کہ مرتد کی دو قسمیں ہیں اولی یہ کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا تو ایسے شخص سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ بصورت انکار قتل کر دیا جائے گا۔ قوی قول کے مطابق توبہ کا مطالبہ تین یوم تک کیا جائے گا۔
(شرائع الاسلام ج ۲، الفصل الرابع ص ۶۰-۶۱)

مرتد کی سزاۓ قتل کے بارے میں جدید نقطہ نظر

۱۹۶۹ء میں مولانا محمد تقی امین ناظم دینیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ایک کتاب "احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت" لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۵ پر مولانا نے لکھا ہے کہ مرتد کی سزاۓ بغاوت کی بنا پر ہے اور اس کے ثبوت میں فقہ کے حسب ذیل فقرے درج کیے ہیں۔

۱..... "لِيُقْتَلُ لِدَفْعِ الْمُحَارَبَةِ" قتل کیا جائے جنگ کے دفعیہ کی غرض سے۔

۲..... "إِنَّ الْقَعْلَ بِاعتبارِ الْمُحَارَبَةِ" قتل جنگ جوئی کے اعتبار سے ہے۔

۳..... "لَانَ الْقَعْلَ لِيسَ بِجزءٍ عَلَى الرَّدَدِ؛ قُتْلٌ مُرْتَدٌ هُونَى كی سزاہیں ہے۔

یہ تینوں فقرے، امام سرخی کی مشہور کتاب "المبسوط" کی جلد ۱، صفحہ ۱۱۰ سے لیے گئے ہیں۔

میراگمان ہے (اور خدا کرے یہ گمان صحیح ہو) کہ مولانا نے براہ راست اصل مبسوط سے بذات خود یہ فقرے نقل نہیں کیے۔ ممکن ہے کسی ٹانوی ماذن سے لے کر نقل کر دیے ہوں، کیونکہ یہ فقرے سیاق و سبق سے علیحدہ کر کے جس انداز سے فٹ کیے گئے ہیں وہ مستشرقین کا انداز تو ہو سکتا ہے مولانا محمد تقی امین ناظم دینیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا نہیں ہو سکتا یا یوں کہہ مجھے کہ نہیں ہوتا چاہیے لمبسوط کی مکمل عبارتیں یوں ہیں۔

چہلی عبارت "وَبِالاَصْرَارِ عَلَى الْكُفَّارِ يَكُونُ مَحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ، فِيُقْتَلُ لِدَفْعِ الْمُحَارَبَةِ" اور مرتد (باوجود مطالبہ توبہ کے) کفر پر اصرار کے سب مسلمانوں کے خلاف محارب (جنگ کرنے والا) ہو جاتا ہے۔ یہ اس محاربہ (مبارزت) کو دور کرنے کی غرض سے اسے قتل کیا جائے گا۔

امام سرخی کا مطلب یہ ہے کہ مرتد کا ارتاداد پر مجھے رہنا اور توبہ کر کے اسلام کی طرف نہ لوٹنا مسلمانوں

کی جماعت کے خلاف ایک قسم کی مبارزت طلبی ہے چونکہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے اس لیے اس مبارزت طلبی کو ختم کرنے کے لیے مرتد کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہاں محاربت (مبرازت) کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ نہ کہ حقیقی محاربت یا بغاوت کے طور پر یہ مفہوم کہ جب مرتد حقیقتاً آمادہ چنگ ہو یا مسلمانوں کی جماعت کے خلاف صفات آرا ہوتے ہی مزاوار قتل ہوتا ہے جیسا کہ مولانا امین صاحب کے نقل کردہ مکمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ سرضی کی عبارت و نشائے کے خلاف ہے۔

دوسرا عبارت (۲) "ان القتل باعتبار المحاربة، قتل محاربة کے اعتبار کے سبب ہے۔ اس فقرہ کا مدلول بھی وہی ہے جو سطور بالا میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے تحدید مقصود نہیں ہے جیسا کہ مولانا امین صاحب ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔

تیسرا عبارت "القتل ليس بجزء الردة بل هو مستحق باعتبار الاصرار على الكفر الاترى الله لو اسلام يسقط لانعدام الاصرار" قتل ارتداد کی سزا نہیں بلکہ مرتد (باوجود مطالبه کے) کفر پر اصرار کرنے کے اعتبار سے قتل کا مزاوار ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر وہ پھر اسلام لے آئے تو کفر پر عدم اصرار یعنی کفر پر قائم نہ رہنے کے سبب اس کے ذمہ سے مزاواقط ہو جاتی ہے۔

مولانا امین صاحب نے عبارت کا صرف اول مکمل کر لے کر باقی کو چھوڑ دیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ قتل کی سزا ارتداد کی بنا پر نہیں ہے حالانکہ امام سرضی کی عبارت میں بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، اس فقرہ کے ساتھ ہی "لفظ" میں آیا ہے جو بطور "استدرک" استعمال کیا گیا ہے۔ حیرت ہے کہ مولانا امین صاحب نے اسے کیوں کر نظر انداز کر دیا۔ امام سرضی یہاں ایک گھری بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ عام قاعدہ کے بوجب جرم کے ارتکاب کے ساتھ ہی سزا مرتب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مرتد کا جرم ارتداد (بلا مطالبه توبہ ورجوع) جرم قرار دیا جا کر وقوع تعزیر کا موجب ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں ارتداد کی صورت میں عام قاعدہ کے خلاف اگر وہ اپنے اس جرم سے توبہ کر لے اور اسلام کی طرف لوٹ آئے تو مزاواقط ہو جاتی ہے اس لیے امام سرضی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مرتد کا ارتداد (اول) نہیں بلکہ باوجود مطالبه توبہ کے اس کا کفر پر قائم رہنا موجب قتل ہے اس عبارت میں "لیس" سے مطلق نفی مردانہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کفر پر وہ مصروف ہوا وہی ارتداد (اول) ہے جس سے توبہ ورجوع کرنے کا مطالبه کیا گیا ہے کوئی یا جرم پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا جرم ارتداد اس کے اصرار کے سبب تکمیل اور قطعیت کے ساتھ موجب قتل ہو گیا۔

مولانا امین صاحب المبوط، جلد ۱۰، صفحہ ۱۱۰ کے حوالہ سے اپنی کتاب کے صفحہ ۵۲ پر لکھتے ہیں۔ " بلاشبہ شریعت میں تبدیلی مذہب اور کفر پر اگناہ ہے لیکن یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے۔" اس عبارت میں بھی وہی تقصی موجود ہے جس کی طرف پھیلی تین عمارتوں میں اشارہ کیا جا چکا ہے یعنی یہ کہ مفید مطلب حصہ لے کر باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ المبوط کی پوری عبارت یوں ہے۔

تبدل الدين واصل الكفر من اعظم الجنایات ولكنها بين العبد وبين ربہ فالجزاء عليها مؤخر الی دار الجزاء وما عجل في الدنيا سیاسیات مشروعۃ لمصالح تعود الی العباد.
(المبوط ج ۵ ص ۱۸۸ باب المرتدين)
تبدیلی دین اور اصل کفر بہت بڑے جرائم میں سے ہیں لیکن یہ مذہب کا تبدیل کرنا یا اصل کفر بندہ اور

اس کے دب کے درمیان کا معاملہ ہے اس لیے اس جرم یا فعل کی (حقیقی) سزا اور الجزا کی طرف موخر کر دی گئی ہے لیکن جو سزا فوری طور پر اس دنیا میں دی گئی وہ ایسے مصالح کی خاطر جن کا تعلق بندوں سے ہے سیاست شرعی کے طور پر دی جاتی ہے۔

مولانا نے عبارت کا دوسرا حصہ چھوڑ کر مرتد کو دنیاوی سزا ہی سے بری الذمہ کر دیا، حالانکہ اس عبارت میں دو سزاوں کا ذکر ہے ایک آخترت کی سزا کا اور دوسری دنیاوی سزا کا، اور دنیاوی سزا ہی ہے جس کا ذکر امام سرخی نے اپنے مقالہ کے ابتدائی حصہ میں کیا ہے یعنی قتل مرتد بعد طلب توبہ، جس کا کوئی ذکر مولانا امینی صاحب نہ تھیں کیا۔

مولانا امینی صاحب اس کے آگے اپنی طرف سے بطور اتحاج ارشاد فرماتے ہیں۔

”حکومت سے اس (ارتداد) کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت صرف بغاوت کی بناء پر سزا دے سکتی ہے جس میں مسلم و غیر مسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جس کی طرف سے بھی بغاوت ہائی جائے۔“

بلاشبہ جہاں تک بغاوت کا تعلق ہے مسلم و غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں لیکن امام سرخی کی مذکورہ بالا عبارت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ تبدیلی مذہب اسلام (ارتداد) کے جرم سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں صریحاً زیادتی ہے اگر حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو پھر امام سرخی کی عبارت ”مَاتَعْجَلَ فِي الدُّنْيَا سِيَاسَيَاتٍ شَرُوعَةُ الْمَسَاجِلِ تَعُودُ إِلَى الْعِبَادِ“ (ایضاً) کا کیا مفہوم ہوگا؟ دنیا میں یہ سزا کون نافذ کرے گا سیاست شرعی کا التزام کس کے ذمہ ہے، بندوں کی مصلحتوں کا لحاظ کس کے سر ہے؟

در اصل یہ ساری ابھمن اس لیے پیدا ہوئی کہ مولانا نے پہلے ایک خیال اپنے دل میں قائم کر لیا پھر ادھر ادھر سے اپنے منید مطلب فقرے چپاں کر کے ایک نتیجہ نکالا، جو ظاہر ہے کہ غلط ہے، جب بندیاں ہی غلط ہو تو عمارت کیوں کٹھر سکتی ہے۔

مولانا امینی صاحب نے کتاب کے (صفحات ۱۸۷۸ و ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰) پر حضرت ابو بکر صدیق رض کے زمانہ میں مانسین زکوٰۃ کے واقعہ سے بھی اپنے قائم کردہ نظریے کے حق میں تاویل کرنے کی کوشش کی ہے ان کے نظریے کے مطابق چونکہ مرتدین نے بغاوت پر کمر باندھ لی گئی اس لیے حضرت ابو بکر الصدیق رض کو ان سے جدال و قتال کرنا پڑا وہ حقیقت مانسین زکوٰۃ کا فتنہ پہلو دار نوعیت کا حائل تھا اس میں ارتداد بھی تھا، بغاوت بھی تھی، آنحضرت ﷺ کی نبوت کا انکار بھی تھا۔ نئے مدعاں نبوت کا اقرار بھی تھا۔ غرض یہ واقعہ یہک وقت مختلف حیثیتوں کا حائل تھا اس لیے اس واقعہ کے ایک جزو کو لے کر باقی اجزاء کو نظر انداز کر دینا اور اس طرح مرتد کی سزا میں بغاوت کے عضر کو بطور شرط لازم قرار دینا قرین الصاف نہ ہوگا۔ حیرت ہے کہ مولانا امینی صاحب نے ارتداد کے ان واقعات کا جو آنحضرت اور خلفائے راشدین کے عہد میں پیش آئے قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا۔ شاید اس لیے کہ ان واقعات کی زد اس نظریہ پر پڑتی تھی جو مولانا امینی صاحب پہلے ہی سے قائم کر کے تھے کاش مولانا امینی تکلیف کر کے بخاری کے باب قتل من ابی قبول الفرانص مع فتح الباری ج ۱۵ ص ۳۰۲ ہی کو ایک نظر دیکھ لیتے تو ان پر مرتدین کے واقعہ کی حقیقی صورت حال واضح ہو جاتی۔

توبہ کا اظہار اور اس کا اثر

اگر مرتد توبہ کرے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے گا۔ اگر دوسری بار پھر کفر اختیار کرے تو پھر وہی توبہ کا عمل کیا

جائے گا۔ تیری چوتحی بار بھی یہی عمل اختیار کیا جائے گا البتہ چوتحی توبہ کرنے کے بعد حاکم وقت کو ہلکی سی تعریر (مزرا) دینے کا اختیار ہو گا۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۲)

مرتد کی توبہ اور ہر قسم کے کافر کے اسلام لانے کی صورت یہ ہے کہ وہ دونوں شہادت کے کلے پڑھے اور یہ گواہی دے کر محمد ﷺ خدا کے پیچے رسول ہیں اور تمام عالم کی طرف میتوث فرمائے گئے ہیں ہیں نیز دیگر تمام مذاہب و ادیان سے اپنی لاطلقی کا اظہار کرے۔ (الاقاع، ج ۲ ص ۳۰۱۔ لمعن ج ۳ ص ۵۱۳)

شیعی فقہ کی کتاب شرائع الاسلام میں لکھا ہے کہ اگر کسی سے ارتداو کا افضل مکرر ہوا ہو تو شیخ کا قول ہے کہ چوتحی مرتبہ ارتداو اختیار کرنے پر قتل کر دیا جائے گا۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ہمارے (شیعہ) اصحاب نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ تیری مرتبہ میں واجب القتل ہو گا (یعنی پھر قبہ قول نہ ہو گی) اسلام کی طرف لوٹ آنے کے لیے لا الہ الا اللہ رسول اللہ کافی ہو گا اسلام کے مساوا دیگر ادیان سے برأت کا اظہار سے کفہ تو حیدر رسالت کی تاکید متصور ہو گی (ایک افضل عمل شمار ہو گا)۔ (شرائع الاسلام ج ۲ ص ۲۵۹)

مرتد اور جزیہ یہاں مرتد کی ذات (Personal shakhs) سے متعلق اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ مرتد کو خلام ہالیتا کسی صورت میں جائز نہیں خواہ وہ فرار ہو کر دارالکفر ہی کیوں نہ چلا گیا ہو یا وہ دارالکفر میں جا کر مرتد ہوا ہو۔ فقهاء نے اس مسئلہ میں کافر اصلی اور مرتد کے احکام میں فرق کیا ہے۔ اسی طرح مرتد کو ذمی کی حیثیت دے کر جزیہ قول نہ کیا جائے گا۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۲) جنہی فقہ میں مرتد کی وہ اولاد جو حالت روت میں پیدا ہوئی ہو اس سے جزیہ لینا درست ہو گا۔ (الاقاع ج ۳ ص ۳۰۱۔ لمعن ج ۳ ص ۵۱۳)

ارتداو اور فتح نکاح زوجین میں سے کسی ایک کے ارتداو پر زوجین میں تفریق واقع ہو جائے گی۔ اگر زوجہ مرتد ہو گئی تو یہ تفریق طلاق کے نام سے موسم نہ ہو گی اس میں تمام ائمہ احتاف کا اتفاق ہے لیکن اگر ارتداو شوہر کی جانب سے ہو تو اس صورت میں ائمہ احتاف کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ تفریق طلاق کے حکم میں ہو گی یا نہیں؟ فرقہ البتہ دونوں صورتوں میں واقع ہو جائے گی خواہ ارتداو شوہر کی جانب سے ہو یا زوجہ کی جانب سے۔

ارتداو کے سب فتح نکاح میں ایک خاص نکتہ یہ قابل لحاظ ہے کہ فرقہ بسب ارتداو اسلام کی طرف لوٹ آنے سے زائل نہ ہو گی بلکہ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی رہیں گے۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۲)

شیعی فقہ میں بھی مرتد کی زوجہ اس سے باہن ہو جائے گی اور وہ عدت پوری کرے گی جو متونی شوہر کی زوجہ پر واجب ہوتی ہے۔ یعنی ۳ ماہ و نیم۔ یہ صورت اس وقت ہو گئی جبکہ مرتد پیدائشی مسلمان ہو۔ اگر مرتد پیدائشی مسلمان نہ ہو بلکہ بعد میں مسلمان ہوا ہو تو ارتداو کے سب اس کی زوجہ اور اس کے درمیان عقد نکاح فتح ہو جائے گا۔ زوجہ کا دوسرا نکاح طلاق کی عدت کی مت پوری ہونے تک موقوف رہے گا۔

(شرائع الاسلام ج ۲، لقشم الرابع ص ۶۰۔ ۲۵۹)

ارتداو کا اثر نکاح پر جبکہ فقہاء اس مسئلہ میں متفق ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر اسلام سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح خود بخود فتح ہو جائے گا اور فتح کے لیے قضاۓ قضیٰ یا حکم حاکم کی ضرورت نہیں۔ اس پر علماء امت کا اجماع ہے۔ (روابط ج ۲ ص ۳۳۵ باب نکاح الکافر)

درالغفار میں لکھا ہے کہ زوجین میں سے کسی ایک کے مرتد ہو جانے سے فی الفور عقد نکاح فتح ہو جاتا ہے۔ قضاۓ قضیٰ (حکم عدالت) کی حاجت نہیں۔

اگر ارتداد شوہر کی جانب سے ہو اور محبت ہو جگی ہو تو عورت پورے مہر کی مستحق ہو گی اور اگر محبت نہ ہوئی ہو تو عورت نصف مہر پانے کی مستحق ہو گی۔ لیکن اگر عورت مرتد ہو جائے اور محبت نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں وہ مہر پانے کی مستحق نہ ہو گی۔ البتہ محبت ہو جانے کی صورت میں وہ پورا مہر پانے کی مستحق ہو گی۔ اگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہوں اور بعد ازاں اسلام کی طرف لوٹ آئیں تو نکاح قائم رہے گا لیکن اگر زوجہ اسلام کی طرف لوٹے اور شوہر مرتد رہے تو ایسی صورت میں نکاح فتح ہو جائے گا۔ اگر شوہر کی یوں کتابیہ ہو جو مسلمان ہو جائے لیکن بعد ازاں مرتد ہو جائے تو وہ عورت اس مرد سے جدا ہو جائے گی۔ اگر ایک مسلمان نے عیسائی عورت سے نکاح کیا اور بعد ازاں وہ دونوں ایک ساتھ مجوسی ہو گئے تو امام ابو یوسف کے نزدیک ان کے درمیان فرقت ہو جائے گی۔ امام محمد شیعیانی کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ (ڈاکٹر آف محمدن لاء، بیلی، جلد اول، ص ۸۵-۸۳)

قدیم نقطہ نظر ارتداد کے سبب تفسیخ نکاح کے سلطے میں قدیم فقہاء کا نقطہ نظر، جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری اور ہدایہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہے کہ زوجین میں سے کسی ایک کے ارتداد کے سبب نکاح خود بخود فتح ہو جائے گا چنانچہ ہندوستان کی عدالتون نے قانون انساخ ازدواج مسلمانان، ۱۹۳۹ء کے نفاذ تک اسی نقطہ نکاح کی متابعت میں اپنے فیصلے دیے ہیں چنانچہ (بمقدمہ امین بیک بنام سینیم الدا باد ہائی کورٹ ۱۹۱۰ء آئی۔ ایل۔ آر۔ ۲۳۳ ال آباد ۹۰) نے یہ قرار دیا کہ شرع اسلام کے تحت ایک شادی شدہ مسلمان عورت اگر عیسائی ہو جائے تو اس کا نکاح لوٹ گیا۔ لہذا زوجہ کا دوسرے نہب کو قبول کر لیتا شوہر کے اعادہ حقوق زوجیت (Reslition of conyngal right) کے مقدمہ کے خلاف ایک امر عارض (Bar) قرار دیا گیا ہے۔

شوہر کا ترک اسلام لیکن گزشتہ تین صدیوں میں اس سلطے میں یہ نقطہ نظر سامنے آیا ہے کہ جب شوہر اسلام کو ترک کر دے مگر زوجہ اپنے نہب پر قائم رہے تو ان کے درمیان مباشرت ناجائز ہو جائے گی۔ اور اگر زوجہ کی عدت کے دوران شوہرنہب اسلام کی طرف لوٹ آئے تو دونوں حسب سابق تعلقات زوجیت قائم کر سکتے ہیں اور کسی عقد جدید کی ضرورت نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح ترک اسلام سے فوراً فتح نہیں ہوتا بلکہ متعلق رہتا ہے۔

زوجہ کا ترک اسلام البتہ جہاں تک زوجہ کے ترک اسلام کا تعلق ہے اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے فقہاء بخارا کا نقطہ نظریہ ہے کہ وہ عورت اسلام چھوڑ کر کوئی بھی نہب اختیار کرے اس کو قید میں رکھا جائے تا آنکہ وہ نہب اسلام کی طرف لوٹ آئے جس کے بعد اس کو سابق شوہر سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ البتہ بخ و سرقد کے فقہاء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر وہ عورت اسلام چھوڑ کر کوئی کتابی نہب اختیار کر لے مثلاً عیسائی یا یہودی ہو جائے تو اس کا نکاح ساقط نہ ہو گا چونکہ کتابیہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے۔ لہذا مسلمان زوجہ کے کتابی نہب اختیار کر لینے سے نکاح پر کوئی اثر مرتب نہ ہوتا چاہیے۔

ارتداد کا اثر مہر و نفقة پر اگر شوہر خلوٹ صحیح سے پہلے مرتد ہوا ہے تو اس کو عورت کا نصف مہر دینا ہو گا اور اگر خلوٹ صحیح کے بعد مرتد ہوا ہے تو اس کے ذمہ پورا مہر ادا کرنا واجب ہو گا۔ خلوٹ صحیح سے قبل عورت پر عدت واجب نہ ہو گی۔ البتہ خلوٹ صحیح کے بعد عدت واجب ہو گی۔ نیز مرتد پر اپنی زوجہ کا نقطہ بھی (دوران عدت) واجب نہ ہو گا۔ (فتاویٰ عالمگیری ج ۲۳۹ ص ۲۳۹ کتاب نکاح الفقار باب العاشر)

تفريق کی نوعیت جب انکار اسلام شوہر کی طرف سے ہو تو اس کا حکم طلاق کا ہو گا یا فتح نکاح کا، اس میں

اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک وہ فرقت، "فع"، تصور کی جائے گی کیونکہ ایک سبب کا نتیجہ اس کے قائم مقام کے بدل جانے سے نہیں بدلتا، لیکن امام محمد کے نزدیک وہ فرقت "طلاق" کے حکم میں ہوگی کیونکہ فرقت شوہر کے اسلام سے مگر ہو جانے کی وجہ سے ہوئی اور اس فرقت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے پیدا ہوئی کیونکہ ملک نکاح اسی کو حاصل ہے۔ چنانچہ اگر شوہر فرقت سے انکار کرے تو عدالت اس میں غلب دے گی تاکہ اس کا ظلم اور ختنی دور ہو جائے۔ اسی صورت میں قاضی تفریق کرنے میں شوہر کا نائب متصور ہو گا جیسا کہ وہ شوہر کی نامردی کے سبب تفریق کرنے میں شوہر کا قائم مقام ہوتا ہے۔

لہذا اگر یہ فرقت شوہر کے ارتداوی کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں چونکہ شوہر نے ایسے فعل کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے فرقت لازمی ہے لہذا فرقت "طلاق" کے حکم میں ہوگی۔ کیونکہ اسی فرقت جسے شوہر نے ارتداو کے سبب کی بناء پر مکمل کر دیا ہے، اس کے طلاق دینے کے مترادف ہے لیکن امام ابوحنیفہ نے ان دونوں صورتوں (شوہر کے اسلام سے انکار کرنے اور اس کے مرتد ہونے) میں فرق کیا ہے۔ ان کی رائے میں اگر فرقت شوہر کے انکار اسلام کی بناء پر ہو تو طلاق شمار ہوگی اور اگر فرقت شوہر کے ارتداوی کی بناء پر ہو تو فوج شمار ہوگی، خواہ وہ فرقت ایسے سبب کی بناء پر ہو جس کو شوہر نے مکمل کیا ہو چونکہ کسی شخص کا مرتد ہو جانا ملک نکاح کے منافی ہے اس لیے اس تناقض کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ شوہر کا ارتداوی ایسا فعل شمار کیا جائے جو جوز و جین کے احکام نکاح کے مطابق ہو چونکہ ارتداوی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کے سبب نکاح قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا ارتداو کو فوج شمار کیا جائے گا اور نکاح فوج ہو جائے گا برخلاف اس صورت کے جب شوہر اسلام سے انکار کرے کیونکہ اس وقت فرقت نکاح کے اغراض و مقاصد کے فوت ہو جانے کے سبب بن جائے گی اور وہ ایسا فعل شمار کیا جائے گا جو "ستقاداً من العقد" ہو گا اور اسی سبب سے انکار اسلام کے سبب فرقت طلاق شمار ہوگی۔

(ماخوذ از فرق الزواج على الخفيف، عبدالدين، ۱۹۵۸ء، ص ۲)

تجزیہ اگر شوہر مرتد ہو جائے تو امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک زوجین کے درمیان نکاح فوج ہو جائے گا۔ انسان نکاح کے لیے عدالت کے حکم کی ضرورت نہیں۔ خواہ عورت مسلمان ہو یا کتابیہ لیکن امام محمد کے نزدیک اگر شوہر مرتد ہو جائے تو وہ رقت طلاق پائیں شمار ہوگی کیونکہ وہ شوہر کا اختیاری فعل ہو گا اور اگر شوہر نائب ہو کر دین اسلام کی طرف لوٹ آئے تو عورت کی عدت میں یا اس کے بعد بھی ازسرنو نکاح کرنا ہو گا لیکن زوجہ کو اس سے نکاح کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن متاخرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف مباشرت ناجائز ہوگی۔ البتہ عدت کے دوران اسلام کی طرف لوٹ آنے کی صورت میں نکاح جدید کی ضرورت نہیں ہے۔

ارتداو زوجہ کے بارے میں احتلاف کے اقوال زوجہ کے ارتداویں حناف کے تین قول پائے جاتے ہیں۔
(۱)..... یہ کہ جس طرح مرد کے مرتد ہونے سے نکاح فوج ہو جاتا ہے اسی طرح عورت کے مرتد ہونے سے نکاح فوج ہو جائے گا اور ہر ممکن صورت سے یہ کوشش کی جائے گی کہ عورت اسلام کی طرف واپس آ جائے اور اسلام کی طرف لوٹ آنے پر اس کا دوبارہ نکاح جبراً اس کے سابق شوہر سے کرادیا جائے گا۔

(۲)..... یہ کہ زوجہ کے ارتداو کے بعد وہ مسلمانوں کے حق میں لوٹدی کا درجہ حاصل کر لے گی اور اس صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ حاکم وقت سے اس کو قیمتا خرید لے اور لوٹدی ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھاتا رہے۔
(المحر الراهن ج ۳ ص ۳۳۰ مصري)

(۳) یہ کہ عورت کے مرتد ہونے سے نکاح فتح نہیں ہوتا متأخرین علماء بخ و سرفقد کا بھی فتویٰ ہے۔

نتیجہ فکر اس زمانے میں دوسرے قول پر عمل ناممکن ہے اول قول اگرچہ احتجاف کی ظاہری روایت پر بنی ہے لیکن موجودہ دور میں تیسا قول اختیار کیا جانا متعین ہے اور جن حالات کے پیش نظر علماء بخ اور سرفقد نے یہ قول اختیار کیا ہے وہ حالات آج بھی موجود ہیں بھی رائے علامہ عبدالرحمن الجبڑی نے اپنی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں بھی پیش کی ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ، عبدالرحمن الجبڑی، مطبوعہ مصر، جلد ۲، ص ۱۳۵۵، ص ۲۲۲)

ماکنی مسلک اگر شوہر مرتد ہو تو اس سلسلے میں تین قول بیان کیے جاتے ہیں۔

(۱) یہ کہ ارتداد سے طلاق باسندہ واقع ہوگی۔

(۲) یہ کہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور

(۳) یہ کہ نکاح فتح ہو جائے گا۔

اول قول مشہور ہے چنانچہ شوہر کے ارتداد کی صورت میں کہا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق کرادی جائے اور عورت کے مرتد ہونے کی صورت میں اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ اس نے شوہر سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسا کیا ہے تو عورت باسندہ ہو گی بلکہ اس کے قصد کے خلاف عمل کیا جائے گا۔

شافعیہ کا مسلک زوجین یا ان میں سے کسی ایک کا مرتد ہو جانا دخول کے بعد عمل میں آیا ہو گا یا دخول سے قبل۔ اگر دخول کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے تو فوراً نکاح منقطع نہ ہو گا بلکہ ان کے دوبارہ اسلام لانے کی امید تک حکم موقوف رہے گا۔ پس اگر مرتد شوہر عورت کی عدت پوری ہونے سے قبل اسلام لے آئے تو ان کے درمیان نکاح باقی رہے گا۔ بعورت دیگر روت کے وقت سے نکاح منقطع سمجھا جائے گا اور اگر یہ ارتداد دخول سے پہلے واقع ہوا ہے تو اس صورت میں فوراً نکاح ختم ہو جائے گا۔ ان حفاظات کے نزدیک مرد یا عورت دونوں کے ارتداد میں حکما کوئی فرق نہیں یہ کہ زوجین کے درمیان تفریق فتح ہو گی نہ کہ طلاق۔

حدیبیہ کا مسلک حدیبیہ مسلک فکر اس مسلکہ میں امام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے ان کے نزدیک بھی اسی تفریق فتح کے درجے میں ہے۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعہ، محولہ بالا، جلد ۲، ص ۲۵۵-۲۳۳)

استثناء استثناء کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت نکاح سے قبل عیسائی یا یہودی تھی بعد کو مسلمان ہو گئی اور بعد ازاں اپنے سابقہ مذهب کی طرف لوٹ گئی یعنی پھر عیسائی یا یہودی مذهب اختیار کر لیا تو اسی صورت میں نکاح قائم رہے گا۔ اسی طرح اگر عیسائی تھی اور اسلام اختیار کرنے کے بعد یہودی ہو گئی تب بھی نکاح فتح نہ ہو گا کیونکہ کتابیہ سے مسلمان مرد کا نکاح فی الاصل جائز ہے لہذا جو شے اپنی ابتداء میں جائز ہے وہ بعد میں بھی اسی صورت میں جائز ہو گی۔

لیکن اگر عورت ہندو یا کسی غیر اہل کتاب مذهب کی ہیرو تمی اور نکاح سے قبل مسلمان ہو گئی مگر بعد ازاں پھر ہندو مذهب اختیار کر لیا تو اسی صورت میں نکاح فتح ہو جائے گا کیونکہ جو شے اپنی اصل اور ابتداء میں ناجائز ہے وہ بعد میں بھی ناجائز ہو گی۔ بالفاظ دیگر جس شے کی ابتداء ناجائز ہے اس کا باقی رہنا بھی ناجائز ہو گا۔

پاکستان کا راجح الوقت قانون قانون انساخ ازدواج مسلمانان، ۱۹۷۹ء سے پہلے زوجین میں سے کسی ایک کے مرتد ہونے کے سبب نکاح فتح ہو جاتا تھا لیکن اس قانون کے نفاذ کے بعد سے زوجہ کے ارتداد سے نکاح فتح

نہیں ہوتا چنانچہ قانون مذکورہ کی دفعہ ۳ کے تحت کسی کتابیہ شادی شدہ عورت کے محض ترک اسلام یا اپنے سابق مذہب کو اختیار کر لینے سے نکاح فتح نہیں ہوتا البتہ دفعہ ۲ قانون مذکور کے تحت ارتدا و یا تبدیلی مذہب کی بناء پر وہ عورت فتح نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے لیکن جہاں تک مرد کے مرتد ہو جانے سے نکاح کے فتح ہو جانے کا تعلق ہے وہ بالاتفاق فتح ہو جائے گا۔ دفعہ ۳ قانون مرد کے ارتداد اور فتح نکاح پر اثر انداز نہیں ہوگی چنانچہ اگر کوئی مسلمان شوہر عیسائی ہو جائے تو نکاح فتح فوراً ہو جائے گا اور عدت گزرنے کے بعد عورت دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ دفعہ مذکور کے احکام ایسے شادی شدہ عورتوں سے بھی متعلق نہیں ہیں جو کسی غیر کتابی مذہب کی طرف لوٹ گئیں اور بعد ازاں مسلمان ہو گئیں اور بعد میں اسی ساقبہ مذہب کی طرف لوٹ گئیں۔

مرتد کے مال سے متعلق احکام وہ احکام جو مرتد کے مال سے متعلق ہیں۔ ان کی تین نوعیتیں ہیں۔

(۱)..... مرتد کی ملکیت کا حکم۔

(۲)..... مرتد کی میراث کا حکم اور۔

(۳)..... مرتد کے دین (قرض) کا حکم۔

جہاں تک مرتد کی ملکیت کا تعلق ہے تمام احتفاظ اس حکم پر متفق ہیں کہ اگر اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اس کے اموال پر اس کی ملکیت قائم رہے گی۔ اس امر میں بھی اتفاق ہے کہ اگر فوت ہو گیا یا دارالکفر میں چلا گیا یا قتل کر دیا گیا تو اس کے اموال سے اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی۔

البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ ملکیت کے زائل ہونے کا حکم کب متصور ہوگا یعنی ملکیت کے زائل ہونے کے احکام مرتد کی ذات پر کس وقت مرتباً ہوں گے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کی ملکیت کے احکام مرتد کی حالت ظاہر ہونے پر موقوف رہیں گے۔ صاحبین کے نزدیک مرتد کے مال سے اس کی ملکیت محض فعل ارتداد کے ساتھ زائل نہیں ہوتی بلکہ اس کی ملکیت موت، قتل یا دارالکفر میں چلے جانے کے بعد زائل ہوگی۔

(بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۳۶)

رقم الحروف کی رائے میں صاحبین کا نقطہ نظر زوال ملکیت کے اعتبار سے ہے جبکہ امام ابوحنیفہ کے قول سے جو حکم مستبط ہوتا ہے وہ ملکیت موقوف کے بارے میں ہے یعنی ارتداد کے ظاہر ہونے پر اس کی ملکیت موقوف ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ بھی اختیار اس میں تصرف کا نہیں رہتا۔ یہ نقطہ نظر بنیادی طور پر صحیح اور انساب ہے چنانچہ اگر وہ اسلام لے آیا تو اس کی ملکیت حالت اصلی کی طرف لوٹ سکتی ہے کیونکہ وہ رکاوٹ جو ارتداد کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی دور ہو گئی۔ اور اگر وہ ارتداد پر قائم رہا تو صاحبین کے قول کے بھوک جب اس کی موت، قتل یا دارالاسلام سے دارالکفر میں چلے جانے پر اموال پر اس کی ملکیت منقطع ہو جائے گی۔

مالکیہ کے نزدیک امام (حکم وقت) پر لازم ہوگا کہ ارتداد اختیار کرتے ہی مرتد کو مال میں تصرفات سے روک دے البتہ توبہ کی مہلت کے دوران اس کو بقدر ضرورت خورد و نوش کے لیے دیا جاتا رہے گا۔ اگر اس نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا تو اس کا مال اس کی ملکیت ہوگا اور وہ اس میں ہر وہ تصرف کر سکے گا جو وہ ارتداد سے قبل کر سکتا تھا۔

شافعیہ ملک میں مرتد کی ملکیت کے زائل ہونے کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ قوی قول یہ ہے کہ اس کی ملکیت موقوف ہوگی۔ اگر ارتداد کی حالت میں ہلاک ہو گیا تو ملکیت زائل ہو جائے گی اور اگر اسلام کی

طرف لوٹ آیا تو اس کی ملکیت برقرار رہے گی۔

حبلیہ کے نزدیک مرتد کے اموال سے اس کی ملکیت اس وقت تک زائل نہ ہوگی جب تک اس کی حالت (ارتداد) واضح نہ ہو جائے۔ اسے تصرفات سے روک دیا جائے گا۔ اگر اسلام کی طرف لوٹ آیا تو اس کی ملکیت قائم شدہ متصور ہوگی اور اس کے تصرفات بھی نافذ ہوں گے۔ (الاقاع، ج ۲ ص ۹۰۱-۲۰۱۔ الحقون، ج ۲ ص ۲۲۰-۵۱۲)

مرتدہ کے اموال کی ملکیت کا مسئلہ مرتد (مرد) کے احکام ملکیت کے برخلاف مرتدہ کی ملکیت کے بارے میں امام ابوحنیفہ اور صاحبین میں اس امر پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ارتداد عورت کی ملکیت کو زائل نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ اموال سے مراد وہ اموال ہیں جو دارالاسلام میں موجود ہوں۔ دارالکفر کے اموال مرتد یا مرتدہ اس کی ملکیت رہیں گے ان سے شرعی احکام کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ (بدائع الصنائع، ج ۷ ص ۱۳۶)

مرتد کی میراث

امہ اربعہ کا نقطہ نظر مرتد اگر مارا جائے یا مارا جائے یا دارالحرب میں رہ پڑے تو جو کچھ اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے وہ اس کے مسلمان ورثہ کی میراث قرار پائے گا اور جو کچھ حالت ارتداد میں کمایا ہے وہ بیت المال کی ملکیت ہوگا۔ یہ قول امام ابوحنیفہ کا ہے۔ صاحبین کے نزدیک اسلام اور رذت دونوں حالتوں یا زمانوں کی کمائی میں مرتد کے مسلمان ورثہ وارث ہوں گے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک دونوں زمانوں کی کمائی بیت المال کی ملکیت ہوگی ان کے ایک قول کے مطابق یہ ملکیت بطور مال غنیمت کے اور دوسرے قول کے مطابق بطور مال ضائع کے ہوگی۔ (مبسوط ج ۱۰ ص ۹۰۹ اباب المرتدين)

البہت اجتناف کے نزدیک مرتدہ (عورت) مرجائے تو اس کا کل مال اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم ہوگا خواہ وہ اس عورت نے مرتد ہونے سے پہلے کمایا ہو یا بعد میں۔ مسلمان جو مرتد کی میراث لیتا ہے وہ دراصل سیدہ ذرائع اور منع اختیال (حیله سازی) قانون کے خلاف کے طور پر ہے۔ (محیٰ محصانی، الہیاث، مطبوعہ مصر، ص ۱۹۰)

مرتد کی زوجہ بشرطیکہ مسلمان ہو اس کی وارث ہوگی۔ اگر اس کا مرتد شوہر مرجائے درآں حالانکہ وہ عدت میں ہو اگر عدت ختم ہونے کے بعد انتقال کرنے یا مرتد نے اس سے صحبت ہی نہ کی ہو تو وہ میراث کی سختی نہ ہوگی اس کی حیثیت "زوجہ فار" میراث سے بھاگنے والے شوہر کی زوجہ کی مثل ہے جو بصورت وفات شوہر (دوران عدت) وارث ہوتی ہے۔ اگر وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ مرتد ہوگی ہو تو اس کو کچھ میراث نہ ملے گی جس طرح کہ وہ اقارب جو مرتد ہوں اس کے وارث نہیں ہوتے۔

مرتد ولایت کا اہل نہیں ہوتا اس لیے وہ کسی سے میراث نہیں پاتا کیونکہ اس نے مرتد ہو کر گناہ (جم و جنایت) کا ارتکاب کیا ہے اور میراث سے بطور سزا محروم ہو جانا، ارتداد کا شرعی صلہ ہے جیسے کہ قاتل قتل کے سب مقتول کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے امام مالک اور شافعی کے نزدیک مرتد نہ خود کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کی میراث لیتا ہے جو کچھ چھوڑتا ہے، خواہ حالت اسلام میں کمایا ہو یا حالت ارتداد میں بیت المال کی ملک ہوتا ہے۔ جب زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں اور پھر ان سے اولاد ہو پھر مرتد مرجائے تو عورت کو اس مرتد کی میراث نہ ملے گی۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان نکاح باقی رہا ہو۔ جہاں تک بچے کی میراث کا تعلق ہے اگر مرتد ہونے کے دن سے چھ ماہ کے اندر پیدا ہوا تو اس کو میراث ملے گی کیونکہ یہ امر اس بات کا تینی ثبوت ہے کہ وہ اپنی ماں کے بطن میں اس وقت موجود تھا جبکہ اس کے والدین مسلمان تھے اس لیے وہ اسلام کا تابع قرار دیا جائے گا

اور ماں باپ کے مرتد ہو جانے سے مرتد قرار نہیں دیا جائے گا جبکہ وہ دارالاسلام میں رہے چونکہ اسلام کا حکم بطریق تجییت دار کے ابتداء ثابت ہوتا ہے اس لیے اس کا باقی رہنا اولی ہو گا لہذا جب پچھے مسلمان رہا تو وہ مرتد کے ورثاء میں شمار ہو گا۔ لیکن اگر وہ پچھے یوم ارتاداد سے چند ماہ کے بعد پیدا ہوا تو وہ اپنے مرتد والدین سے میراث پانے کا مستحق نہ ہو گا اگرچہ ان دونوں کے درمیان نکاح قائم ہو کیونکہ اسی صورت میں نفعہ کا قائم ہونا قریب ترین وقت سے لیا جائے گا اور قریب ترین وقت (باعتبار کم از کم مدت حمل) چھ ماہ ہے چنانچہ جب پچھے کا نفعہ مرتد کے قطرہ منی سے قائم ہوا تو وہ پچھے بھی اپنے والدین کے ساتھ مرتد کے حکم میں ہو گا۔ (بسیط ایضا)

امام احمد بن حنبل کے نزدیک جبکہ مرتد رذت پر قائم رہتے ہوئے مرجایے یا قتل کر دیا جائے تو اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا حکم کے اس جزو میں وہ امام مالک و شافعی سے متفق ہیں اور یہ قول حنبلی قانون وراثت میں صحیح ترین قول تسلیم کیا گیا ہے۔

اگر زوجین یا ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو ان کے درمیان باعث و راثت جاری نہ ہو گی خواہ وہ دارالحرب میں چلے جائیں یا دارالاسلام میں مقیم ہوں۔ امام مالک و شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

جو پچھے مرتد ہونے کے چھ ماہ بعد پیدا ہوا ہو امام احمد کے نزدیک اس کا غلام بنا لینا جائز ہو گا۔ (جس کے یہ معنی ہیں کہ ان کے نزدیک پچھے مرتد کا تابع ہو گا اور وراثت نہ ہو گا) یہی قول امام شافعی کا ہے۔

جب مرتد دارالکفر میں چلا جائے تو اسی صورت میں اس کا مال موقوف رکھا جائے گا اگر اسلام لے آیا تو مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور اگر مر گیا تو وہ غیمت تصور کیا جائے گا۔ یہی قول امام مالک اور شافعی کا ہے۔ اہل عراق اس کے خلاف ہیں ان کے نزدیک دارالکفر میں چلا جانا زوال ملک کا سبب ہوتا ہے اس لیے مرتد کی واپسی کے بعد مال واپس نہ ہو گا بلکہ جس طرح اس کی موت کی صورت میں اس کے اقرباء پر صرف کیا جاتا ہے اسی طرح صرف کیا جائے گا۔ اگر اسلام کی طرف واپس آجائے تو جو مال باقی ہو گا وہ لے لے گا اور ورثاء نے جو صرف کر دیا ہو گا وہ واپس نہ ہو گا۔ (ابن قدامة المقدادی م ۲۲۰ھ الحنفی فتح حنفی مطبوع مصر، ج ۱۳۳۸، ص ۷۸-۷۷)

شیعہ امامیہ شیعہ امامیہ کے نزدیک مرتد کسی مسلم کا وراثت نہ ہو گا لیکن مسلم مرتد کا وراثت ہو گا، لیکن ترک کس وقت تقییم کیا جائے گا اس کے متعلق امامیہ کے بیہاں دیگر نہ اہب کے مقابلہ میں ایک جدید تفصیل پائی جاتی ہے ان کے نزدیک اگر ایک پیدائشی کافر مسلمان ہو کر پھر اسی دین کی طرف لوٹ جائے تو اس کا ترک فوری قبل تقسیم قرار دیا جائے گا خواہ قتل کر دیا گیا ہو یا زنده ہو بشرطیکہ مرد ہو، لیکن اگر عورت ہے تو تاوقیتیہ فوت نہ ہو جائے، اس کا ترک تقسیم نہ ہو گا۔

اور اگر پیدائشی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کا ترک قتل یا موت سے قبل تقسیم نہ کیا جائے گا۔ البتہ اس کی زوجہ عورت کا زمانہ پورا ہونے کے بعد باشہ ہو جائے گی۔ (بیم الدین، جعفر الحکی (م ۴۲۷ھ) شرائع الاسلام (فتیشی) مطبوعہ بیرون تینی ریشم مطبوعہ عبدالرحیم الشتری زی، ۱۴۱۹ھ، ج ۲، الفصل اربعان ص ۸۲-۸۱)

ظاہریہ ظاہریہ کے نزدیک مرتد کا نہ کوئی وراثت ہو سکتا ہے نہ مرتد کسی کا وراثت ہو سکتا ہے جو مال چھوڑے گا۔ وہ مسلمانوں کے بیت المال کا حق ہو گا۔ خواہ اسلام کی طرف رجوع کرے یا نہ کرے یا ارتداوی کی حالت میں مرجائے یا قتل کر دیا جائے یا دارالحرب میں منتقل ہو جائے۔ لیکن وہ مال جو اس کے قتل یا موت کے بعد حاصل ہوا ہو وہ اس کے کافر ورثاء کا حق ہو گا۔ (ابن حزم (م ۴۵۶ھ) الحنفی مطبوعہ مصر، ج ۱۳۵۲، ج ۲، ج ۹، ص ۳۷۲)

محضر یہ کہ احتاف کے تمام ائمہ اس امر پر تتفق ہیں کہ مرتد نے جو مال بحالت اسلام حاصل کیا وہ اس کے مسلمان ورثاء کی ملکیت ہوگا۔

امام شافعی کے نزدیک وہ مال فتنی متصور ہوگا اور بیت المال کی ملکیت قرار پائے گا۔

(بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۶)

مالکیہ کے نزدیک بھی آزاد مرتد (مرد) کا مال فتنے (مال غنیمت) شمار ہو کر بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ ورثاء میں تقسیم نہ ہوگا۔ (جوہر الکلیل، ج ۲، ص ۷۹۔ ۷۷)

عبدیہ کے نزدیک بھی ارتداد کے جرم میں قتل کیے جانے یا دارالکفر میں چلے جانے یا دارالاسلام ہی میں ارتداد کی حالت میں فوت ہو جانے پر مرتد کا مال مال غنیمت میں شمار ہوگا۔

(الاقاع، ج ۳، ص ۳۰۱۔ امعن، ج ۳، ص ۵۱۲۲۳)

مرتد کی میراث کے مسئلہ میں ظاہریہ کا قول یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کی طرف لوٹ آپا تو اس کا مال اس کی ملکیت رہے گا اور اگر قتل کر دیا گیا تو اس کے کافروں ورثاء کا حق ہوگا۔ (احکمی، ج ۸، ص ۲۳۸)

شیعہ فقہ کی رو سے مرتد کے مرنے یا قتل ہونے کے بعد یا دارالکفر میں تھل ہونے کے بعد اس کا ترکہ مسلمان ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان وارث موجود نہ ہو تو اب یہ ترکہ امام کا حق ہوگا۔

(شرائع الاسلام، ج ۱۲، القسم الرابع ص ۲۰۹۔ ۲۵۹)

پاکستانی قانون اگرچہ پاکستان میں اسلامی قانون وراثت کا مسلمانوں کے مجملہ دیگر شخصی قوانین کے مختلف اطلاقی ایکٹوں کے ذریعہ نافذ و راجح ہونا قرار دیا جا چکا ہے لیکن مرتد کی میراث کے مسئلہ میں شریعت کے خلاف عمل درآمد ہو رہا ہے شرع اسلام کا یہ ایک واضح حکم ہے کہ جو مسلمان مرتد ہو جائے وہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے مگر یہ حکم مذہبی آزادی کے ایک نمبر ۲۱ بابت ۱۸۵۰ء کے سبب نافذ نہیں ہو سکتا جس کے تحت کسی شخص کا اپنے دین سے مغرف ہو کر دوسرا دین اختیار کر لینا اس کے حقوق کو متاثر نہیں کرتا اس لیے وراثت کے احکام میں شرعی قانون کا اطلاق ہونے کے باوجود مرتد کے اسلامی احکام میراث آج بھی عدالتوں کے ذریعہ نافذ نہیں کرائے جا سکتے ضرورت ہے کہ ۱۸۵۰ء کا مذکورہ ایکٹ منسوخ کیا جائے۔

تجزیہ "مرتد کی میراث" کے مسئلہ کے دو جزو ہیں۔

۱..... مرتد کا خود میراث سے محروم ہو جانا۔

۲..... اس کے مسلمان یا مرتد ورثاء کا وارث ہونا۔

جبکہ مسئلہ کے پہلے جزو کا تعلق ہے اس میں ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ مرتد خود میراث سے محروم ہوگا۔ البتہ دوسرے جزو میں یہ اختلاف ہے کہ احتاف حالت اسلام اور حالت ارتداد میں کمائی ہوئی دولت میں فرق کرتے ہیں جبکہ دیگر ائمہ اپنے فرق کے قائل نہیں۔ احتاف کے نزدیک حالت اسلام میں کمایا ہوا مال اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم ہوگا اور حالت ارتداد میں کمایا ہوا مال بیت المال کی ملکیت ہوگا۔ بشرطیکہ مرتد مرد ہو البتہ عورت کی صورت میں دونوں حالتوں میں کمایا ہوا مال اس کے مسلمان ورثاء کا حق ہوگا اس کے برخلاف ائمہ ملا و کل مال بیت المال کی ملکیت قرار دیتے ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت شیعہ امامیہ بھی اس بارے میں کوئی تفریق نہیں کرنے۔ البتہ وہ میراث ایک مقررہ وقت تک روکنے کے قائل ہیں جس سے (غالباً) یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ

وہ بلا احتیاز حالت مسلمان ورثاء کے استحقاق کے قائل ہیں۔ ظاہر یہ جس طرح مرتد و کسی مسلمان کا وارث نہ ہونا جملہ مذاہب کے مطابق تسلیم کرتے ہیں وہاں اس نقطہ نظر کے قائل نظر آتے ہیں کہ مسلمان بھی مرتد کا وارث نہ ہوگا جیسا کہ وہ کافر کی میراث میں قائل ہیں چنانچہ ان کے نزدیک کافر و مرتد کی میراث کے مسئلہ میں کوئی فرق نہیں۔

مرتد کا حق ولایت قرآن کریم مسلمان پر کافر کی ولایت کو منع کرتا ہے۔ کافر کو مسلمان پر کسی قسم کی ولایت حاصل نہیں خواہ وہ ولایت نکاح ہو یا حق حضانت۔ (النساء، الخل، توبہ، ۲۳، اعل عمران ۹۰، ۲۸، مائدہ ۱۵)

یہی حکم مرتد کے لیے ہے چنانچہ شرعاً ایک مرتد کا نابغہ کے نکاح کر دینے کا حق و اختیار بوجہ ارتداً معطی ہو جاتا ہے تا آنکہ وہ توبہ نہ کر لے اور اسلام کی طرف نہ لوٹ آئے۔ (دریج ۳ باب عزل الویل)

لیکن ایکٹ نمبر ۲۱، بابت ۱۸۵۰ء میں یہ حکم مذکور ہے کہ کوئی قانون یا رواج کسی ایسے شخص کو جو اپنا مذهب ترک کر دے اس کے حق یا جائیداد سے محروم نہ کر سکے گا۔ اور چونکہ ولایت بھی ایک حق ہے اس لیے یہ بھی ترک مذهب کی بناء پر متاثر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پنجاب چیف کورٹ نے ایک مسلمان باپ کے سلسلہ میں جو عیاسیٰ ہو گیا تھا یہ فیصلہ دیا کہ بوجہ ارتداً باپ کو اپنی نابغہ اولاد کی ذات اور جائیداد کی ولایت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ (مکمل محمد بنام سماء وزیر اعظم ۱۹۰۱ء، ۳۶، پنجاب ریکارڈ، ص ۱۹۱) شرع اسلام کی روشنی میں یہ اور اس قسم کے دوسرے فیصلے قطعاً غلط ہیں۔

مرتد کی ذات سے متعلق چند دیگر احکام ارتداً کے بعد مرتد حق ولایت سے محروم ہو جاتا ہے اس کا ذیجہ بھی حلال نہ ہوگا، کوئی اسلامی عبادت اس پر فرض نہ رہے گی۔ وراثت و ولایت کی الہیت ساقط ہو جائے گی، اس کا خاندان اس کے دیت کے جرم پر دیت (تاوان) ادا کرنے کا پابند نہ ہوگا۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۶) مرتد سے فدیہ لینا جائز نہ ہوگا یعنی فدیہ لے کر اس کو چھوڑ دینا جائز نہیں۔ (امغو ج ۳ ص ۱۳۲)

مرتد کے قرض کا مسئلہ مرتد کے دین (قرض جس میں کافی قرض بھی شامل ہوتا ہے) کے متعلق صحیح کا یہ قول کہ مرتد کے دین کا بار اس مال پر ڈالا جائے گا جو اس نے اسلام اور ارتداً کی حالت میں کمایا ہو۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بروایت ابو یوسف ارتداً کی حالت میں کمائے ہوئے مال پر ڈالا جائے گا۔ بشرطیکہ اس مال کی مقدار دین کو پوری طرح ادا کر دے، اگر ارتداً کی حالت میں کمایا ہوا مال دین کی کل مقدار کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہو تو جو باقی رہے حالت اسلام میں کمائے ہوئے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف حسن بن زیاد نے اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ سے روایت بیان کی ہے کہ اسلام کی حالت میں دین کا بار اسلام کی حالت میں کمائے ہوئے مال پر ڈالا جائے گا اور ارتداً کی حالت میں دین ارتداً کے مکوب مال سے ادا کیا جائے گا۔ حسن بن زیاد کی روایت صحیح ہے۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۶)

شافعیہ کے نزدیک مرتد کا قرض قبل از ارتداً اس کے مال سے ادا کیا جائے گا اور بقیہ بیت المال کی ملکیت ہوگا۔

یہی صورت حتابہ کے نزدیک ہے۔

شیعی فقہ میں مرتد کے اموال سے اس کے ذمہ قرضہ ادا کیے جائیں گے نیز دیگر وہ حقوق جو اس پر واجب ہوں پورے کیے جائیں گے۔ (شرائع الاسلام، ج ۲، الفصل الرابع ص ۲۰، ۲۵۹)

مرتد کا ارتکاب جنایت (جم) اگر مرتد نے ارتداً سے قبل یا بعد کسی غیر مسلم شہری پر کسی قسم کی دست اندازی

کے جرم کا ارتکاب کیا ہو تو اس کے مال سے اس جرم کی دیت یا تاویں لیا جائے گا لیکن اگر اس سے کسی مسلم کے ساتھ ایسا جرم سرزد ہوا تو اس پر قصاص واجب ہوگا۔ مال میں سے کچھ نہ لیا جائے گا اگر ارتاداد سے رجوع کر کے پھر اسلام لے آیا تو ارتاداد کے سبب قتل ساقط ہو جائے گا لیکن قصاص بدستور قائم رہے گا۔

(جوہر الائل ج ۲۳ ص ۷۹-۸۷)

مرتد سے حالت ارتاداد میں کسی کو قتل کرنے کے جرم میں قصاص لیا جائے گا اور یہ قصاص ارتاداد کے قتل پر مقدم ہو گا البتہ اگر مقتول کے ورثاء خون بہا لینے پر راضی ہوئے تو اس کی ادائیگی مرتد کے مال سے کی جائے گی۔

(الاقاع ج ۳۳ ص ۹۱-۹۳) (القمع ج ۳۳ ص ۵۱۲-۵۲۲)

مرتد کی اولاد کے متعلق احکام

مرتد کی اولاد کی وصوრتیں ہوں گی۔ یا تو زوجین کے اسلام پر قائم رہنے کی حالت میں پیدا ہوئی ہو گی یا مرتد ہونے کے بعد اگر اولاد اس زمانے میں پیدا ہوئی جبکہ زوجین اسلام پر قائم تھے اور یہ اولاد بالغ ہے تو مسلمان رہے گی اگر نابالغ ہے تو اس وقت تک مسلمان متصور ہو گی جب تک دارالاسلام میں ہے اگر مرتد فرار ہو کر دارالکفر چلا گیا اور ساتھ ہی اپنے نابالغ بچوں کو بھی دارالکفر لے گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج متصور ہوں گے۔

اگر یہ اولاد ارتاداد کی حالت میں پیدا ہوئی ہو تو اولاد بھی اپنے مرتد والدین کے اتباع میں بمنزلہ مرتد شمار ہو گی۔

(بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۹)

مالکیہ کے نزدیک مرتد کے قتل کے بعد اگر اس کی خورد سال اولاد موجود ہو تو وہ مسلمان متصور ہو گی۔ اپنے باپ یا والدین کے ارتاداد میں ان کی تائیز نہ ہو گی چنانچہ اگر مرتد نے اپنے بعد نابالغ اولاد چھوڑی اور نابالغ حالات سے ناواقف رہ کر جوان ہو اور اس سے کفر کی کوئی بات صادر نہ ہو تو وہ مسلم ہی متصور ہو گا لیکن اگر جوان ہونے کے بعد کفر کا اظہار کیا تو اس پر ارتاداد کا حکم مرتب ہو گا۔

شافعیہ کے نزدیک مرتد کی اولاد خواہ قبل روت کی ہو یا دوران روت کی اگر اس اولاد کے والدین میں کوئی ایک مسلم ہے تو یہ اولاد بھی مسلم متصور ہو گی بلکہ دونوں ماں باپ، کے مرتد ہو جانے کی صورت میں بھی اولاد مسلم متصور ہو گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کے مرتد ہو جانے کی صورت میں اولاد بھی مرتد متصور ہو گی۔ مغنى الحاجہ کے مصنف نے مرتد ہونے کے قول کو پسند کیا ہے۔

(المغنى الحاجہ ج ۳ ص ۱۳۲)

خبلی فقہ میں جو اولاد بحالت اسلام پیدا ہو گی اس کا غلام بنانا جائز نہ ہو گا۔ البتہ بحالت روت پیدا ہونے والی اولاد کو غلام بنانا جائز ہو گا۔

(الاقاع ج ۳۳ ص ۳۰۱) (القمع ج ۳۳ ص ۲۲۳)

شیعی فقہاء کے نزدیک مرتد کی اولاد مسلم میں حکم میں ہو گی۔ اگر اسلام کی حالت میں بالغ ہوئی تو پھر سرے سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد اس نے ارتاداد اختیار کیا تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر تو پہلی تو فہما ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔

جس کی اولاد اس کے مرتد ہو جانے کے بعد پیدا ہو اور اس اولاد کی ماں مسلمان ہو تو وہ اولاد مسلمان شمار ہو گی لیکن اگر ماں بھی مرتد ہے اور حمل ارتاداد کے بعد قائم ہوا تھا تو اب اولاد والدین کے حکم میں ہو گی یعنی مرتد متصور ہو گی۔

الْتَّهِيَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ

قادیانیوں کی شرعی و قانونی حیثیت

مولانا علامہ خالد محمود

بسم الله الرحمن الرحيم •

تعارف

۱۹۸۳ء کو جزل محمد ضیاء الحق مرحوم نے انتشار قادیانیت آرڈیننس جاری کیا۔ قادیانی و لاہوری گروپ نے وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف اچل دائر کر دی۔ وفاقی شرعی عدالت کی رہنمائی کے لیے مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب نے ذیل کا اپنا بیان تحریری طور پر عدالت میں جمع کرایا۔ جس میں قادیانیوں کی شرعی و قانونی حیثیت پر اچھوتے انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

فقیر..... اللہ و سایا

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

۰ ایک اسلامی سلطنت میں قادیانی غیر مسلم اقلیت کو کیا مذہبی حقوق حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور انھیں کس حد تک مذہبی آزادی دی جاسکتی ہے؟

جواب:..... اسلامی مملکت میں غیر مسلم اقلیتوں کو اس حد تک مذہبی آزادی دی جاسکتی ہے کہ اس سے مسلمانوں کے اپنے دینی اور مذہبی حقوق میں کسی طرح سے مداخلت نہ ہوتی ہو اور ان کی داخلی خود مختاری کسی طرح مجبور نہ ہو لیکن اگر کسی اقلیت کی مذہبی آزادی سے خود مسلمانوں کے مذہبی حقوق تکف ہوتے ہوں تو مسلمان سربراہ کا فرض ہے کہ مسلمانوں کے دینی حقوق کی پوری حفاظت کرے۔ اسلامی مملکت میں غیر مسلم اقلیتوں کے رسوم و اعمال اسی حد تک چلنے دیے جاسکتے ہیں کہ اسلام کی اپنی عظمت و شوکت کسی طرح پامال ہونے نہ پائے۔ سربراہ مملکت ان پر کچھ اس طرح کی پابندیاں لگائے کہ وہاں کی مسلم آبادی اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ان اقلیتوں کی مداخلت سے پوری طرح محفوظ رہ سکے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت کے جائز مذہبی حقوق کا تعین کرنے سے پہلے خود مسلمانوں کے دینی حقوق کا جائزہ لیا جائے اور اگر کسی پہلو سے کوئی غیر مسلم اقلیت ان کے حقوق میں مداخلت کرنے لگے تو ان امور میں کسی غیر مسلم اقلیت کو مسلمانوں کی مذہبی آزادی میں داخل انداز نہ ہونے دیا جائے گا اور انھیں ان باتوں سے قانوناً منع کیا جائے گا۔

مذہبی آزادی کی حقیقت اسلام کی رو سے دنیا میں ہر شخص کو اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ آخرت کی جزا و سزا صرف حق پر مبنی ہو گی۔ قرآن کریم کی رو سے کسی کو جبرا مسلمان بنانے کی اجازت نہیں۔ صداقت اسلام کے دروازے کھلے ہیں اور حق باطل سے ممتاز ہو چکا ہے۔ مذہبی آزادی کی حقیقت یہی ہے کہ

اسلام زبردستی دوسروں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا لیکن مسلمانوں کو کوئی اور مذہب اختیار کرنے کا قطعاً کوئی حق حاصل نہیں۔ اسلام دین حق سے پھرنسے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا اسے ہر کوشش کے ساتھ دائرہ اسلام میں پابند کرتا ہے۔ یہ اکراہ کسی کو دین میں لانے کے لیے نہیں، اسے دین میں رکھنے کے لیے ہے جو اسلام کا ایک اندروفی معاملہ ہے۔ مذہبی آزادی کا یہ مفہوم مرزا غلام احمد قادریانی نے ان الفاظ میں تسلیم کیا ہے:

”ہمارے نبی ﷺ نے مسلمان بنانے کے لیے بھی جرنیں کیا اور نہ تواریخی اور نہ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچایا بلکہ وہ تمام نبوی لڑائیاں اور آجنبات ﷺ کے صحابہ کرام کے بیگن جو اس وقت کیے گئے یا تو اس واسطے ان کی ضرورت پڑی کہ..... ملک میں اسی قائم کیا جائے اور جو لوگ اسلام کو اس کے پھیلنے سے روکتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جو مسلمان ہوں ان کو کمزور کر دیا جائے۔“
(تربیات القلوب ص ۵۳ خواجہ احمد حنفی ص ۱۵۶)

اسلام میں آئے ہوئے لوگوں کو ضابطہ اسلام کا پابند کرنے کے لیے آنحضرت ﷺ نے ان الفاظ میں یہ دھمکی بھی دی۔ ظاہر ہے کہ یہ اکراہ نہیں دین اسلام کا ایک اپنا ضابطہ کار ہے:

....لَقَدْ هَمِمْتُ أَنْ أَمْرَرَ جَلَّيْصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرَقَ عَلَى رِجَالٍ يَخْلُفُونَ عَنِ الْجَمَعَةِ بِيَوْمِهِمْ.
(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۳۲ باب فضائل صلوٰۃ الجماعت وبيان الحشاد یہ)

”میں نے ارادہ کیا کہ کسی اور شخص کو امام مقرر کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جو جماعت سے چھپے رہ جاتے ہیں آگ لگا دوں۔“
...بے شک یہ ایک بڑی دھمکی ہے اور مسلمانوں کو دین پر رکھنے کے لیے ہے یہ اکراہ منوع نہیں اور اس کے جواب میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ”لا اکراہ فی الدین“ دین میں اکراہ نہیں، یہ ختنی کہاں سے آگئی؟
آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

۲.....مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ سَنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرَ سَنِينَ.
(مکملۃ عن ابی داؤد ص ۵۸ کتاب الصلوٰۃ)

”اپنی اولاد کو سات سال کی عمر میں نماز پر لگاؤ اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔“

نماز کے لیے یہ مارنا اکراہ منوع نہیں۔ دین اسلام کا اپنا ضابطہ کار اور اس کا ایک اپنا دائرہ تربیت ہے۔
۳.....جس طرح نماز عبادت ہے زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ تارک نماز کو دھمکی دے کر نماز پر لانا یا قوم کو دھمکی دے کر ان سے جرأۃ زکوٰۃ وصول کرنا ہرگز اکراہ منوع نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ دونوں کے خلاف یہ عمل فرمایا۔

صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا:

وَاللَّهُ لَا قاتلنَ من فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكُوٰةِ فَإِنَّ الزَّكُوٰةَ حُقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْمَعُونِي عَنْ أَنْ كَانُوا يَؤْدِونَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلَهُمْ عَلَى مَعْنَاهَا۔
(مکملۃ عن ابی داؤد ص ۱۵۱ کتاب الزکوٰۃ) ”خداء کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تغیریق ڈالتے ہیں۔ پیشک زکوٰۃ حق مال ہے (جس طرح نماز حق بدن ہے) بخدا اگر یہ لوگ ایک بھیز بھی وہ حضور ﷺ کو دیا کرتے تھے نہ دین گے تو میں اسے روکنے پر ان سے جہاد کروں گا۔“

یہ اکراہ ممنوع نہیں دین اسلام کا داخلی وائزہ کار ہے لوگوں کو اسلام پر رکھنے کا ایک قدم ہے اور بینک سلطنت اسلامی کو اس کا پورا حق حاصل ہے۔

۲..... نماز کے لیے مسجد میں اذان دینا فرض نہیں لیکن شعائر اسلام میں سے ضرور ہے۔ اگر کسی علاقے میں پوری کی پوری قوم اذان نہ دینے پر اتفاق کر لے تو اسلامی سربراہ کو ان سے جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہ کے شاگرد امام محمدؐ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دیں تو ہم اس پر ان سے جہاد کریں گے۔

”ولهذا قال محمد لواجتماع اهل بلد على تركه فالتناهم عليه.“

(ابحر الرائق ص ۲۵۵ ح اباب الاذان)

یہ اکراہ ممنوع نہیں، جو شخص اسلام کے اپنے وائزہ کار اور سلطنت اسلام کی داخلی خود مختاری پر کچھ غور کرے تو سینکڑوں مثالیں سامنے آئیں گی جن میں مسلمانوں کو اسلام کے ضابطے پر پوری ختنی سے پابند کیا گیا ہے۔ ان میں دھمکیاں بھی ہیں اور سزا میں بھی اور معاشرے پر اخلاقی دباؤ بھی۔ ایک زندہ دین کی زندگی کے یہ نشان ہیں۔ انھیں اکراہ اللدین تو کہا جا سکتا ہے اکراہ فی الدین ہرگز نہیں۔ ہانی الذکر کا حاصل صرف یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو جبراً اسلام میں نہیں لاایا جا سکتا یعنی ہے، اسلام میں آئے ہوئے لوگوں کو یہ آزادی نہیں دی جاسکتی کہ وہ جو چاہیں کہتے اور کرتے رہیں۔ انھیں ضابطہ اسلام کا پابند کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر اکراہ کیا جا رہا ہے۔

علامہ شعرائی لکھتے ہیں: اس پر سب فقہاء کا اتفاق ہے۔

وأجمعوا على أنه إذا التفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا لأنهم من شعائر الإسلام.

(ترجمۃ الامۃ فی اختلاف الائمه ص ۳۳)

اسے ایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے:

اگر کوئی شخص اپنا یہ عقیدہ بنالے کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے تو کیا اسے مذہبی آزادی کا لیبل لگا کر آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ اسلام اور اسلامی معاشرہ اسے پکڑے گا؟
مرزا غلام احمد قادریانی نے بھی اس موقع پر مذہبی آزادی کا سہارا نہیں لیا۔ مرزا قادریانی نے انگریزی سلطنت میں اس کا منصفانہ فیصلہ یہ پیش کیا تھا:

”اگر کوئی ایسا شخص اس گورنمنٹ کے ملک میں یہ غوغماً مچاتا ہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں تو گورنمنٹ اس کا مدارک کیا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے کہ یہ مہربان گورنمنٹ اس کو کسی ڈاکٹر کے پر درکرتی ہے تاکہ اس کے دماغ کی اصلاح ہو اور اس بڑے گھر میں محفوظ رکھتی ہے جس میں بمقام لاہور اس قسم کے بہت سے لوگ جمع ہیں۔“ (مکتوبات احمدیہ ح ۳ نمبر ۲۱ ص ۲۱ مطبوعہ قادریان)

مرزا قادریانی نے ایسے شخص کو پاکل خانے بھونے کی جو رائے بتائی ہے یہ ہرگز اکراہ ممنوع نہیں۔ اسلامی سلطنت تو درکنار اسے انگریزی سلطنت بھی مذہبی آزادی کا نام نہ دے گی۔ کوئی مسلمان اگر اس قسم کی باتوں پر آجائے تو سلطنت اسلام کا اس پر کوئی ختنی کرنا ہرگز اکراہ ممنوع نہیں نہ یہ اقدام لاکراہ فی الدین کے خلاف سمجھا جائے گا۔

قادیانی مبلغین نے اپنی اپنی میں اس آیت کو بالکل بے محل پیش کیا ہے کسی معتبر تفسیر میں اس کے یہ معنی نہیں لیے گئے کہ مسلمان کہلانے کے بعد مسلمان جو عقیدہ چاہے رکھے اور اس پر اسلامی سربراہ یا اسلامی معاشرہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اور یہ پابندی مذہبی آزادی کے خلاف ہوگی، ایسا کہیں نہیں۔

غیر مسلم اقوام کی مذہبی آزادی اسلام اپنی سلطنت میں بننے والی غیر مسلم اقوام کو پوری مذہبی آزادی دیتا ہے لیکن اس میں یہ بات اصولی ہے کہ ان کی یہ آزادی سلطنت اسلامی کا مرد و احسان ہے جو اسلام کا انسانی حقوق کا ایک چارٹر ہے۔ ان انسانی حقوق پر ان کی مذہبی آزادی مرتباً کی گئی ہے سو اگر کوئی غیر مسلم قوم مذہبی آزادی میں اپنی انسانی قدرتوں کو کھودے تو پھر ان کی مذہبی آزادی پابندیوں کی جگہ میں آ جاتی ہے اور یہ کوئی اکراہ نہیں ہے۔

مسلمان دارالحرب میں ہوں تو انھیں جو مذہبی مراعات حاصل ہوں گی وہ اس غیر اسلامی حکومت کا احسان اور ان کا ایک اخلاقی ضابطہ کار ہوگا۔ اسی طرح جو غیر مسلم اقوام اسلامی سلطنت میں رہتی ہیں انھیں جو رعایتیں دی جائیں اور ان سے جو عہد و پیمان پابند ہے جائیں وہ دارالاسلام کے مسلمانوں کا مرد و احسان ہوگا۔ اسے ان کا کوئی آئینی حق نہ کہیں گے اسی طرح انھیں کسی ایسے کلیدی عہدے پر لے آتا کہ خود مسلمان ان کے دست مگر ہو جائیں درست نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے:

ولن يجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا (الناء ۱۳۱) "اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مونوں پر ہرگز کوئی غلبے کی راہ نہ دے گا۔"

اسلامی سلطنت میں مسلمانوں کے دینی حقوق اسلامی سلطنت میں مسلمانوں کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہے اور ان پر اپنی پوری اجتماعی قوت سے اپنے دینی حقوق کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ اگر کسی دائرہ عمل میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مذہبی حقوق میں کوئی نکراو محسوس ہو تو یہ پابندی غیر مسلموں کی بے جا آزادی میں لگے گی۔ سلطنت اسلامی میں مسلمانوں کی دینی شوکت کو کسی پہلو سے محروم نہ ہونے دیا جائے گا۔ اس کے لیے قرآن و حدیث کی مندرجہ ذیل نصوص سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

.....لن يجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا (الناء ۱۳۱) "اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ کی راہ۔"

۲.....وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین (المحتقون ۸) "اور غلبہ تو اللہ اس کے رسول اور مونوں کے لیے ہے۔" کافروں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے قریب اہل کتاب ہیں۔ ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سے رہیں تو ماتحت ہو کر رہیں برابر کی حیثیت سے نہیں۔

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين او توالى الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صغارون۔ (تبہ ۲۹) "لڑوان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کے ماتحت نہیں چلتے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب یہاں تک کہ وہ ماتحت بن کر ہاتھ سے جزیہ دیں۔"

حدیث الاسلام یعلو ولا یعلیٰ علیہ (نووی شرح سلمج ۲ ص ۳۳ کتاب الفراش) "اسلام اوپر رہتا ہے اسے نیچے نہیں رکھا جاسکتا۔"

امام نووی اس کی تعریف میں لکھتے ہیں:

العاد به فضل الاسلام على غيره۔ "اس سے مراد اسلام کا دوسرے مذاہب سے بڑھ کر رہنا ہے۔" اس اصول کی روشنی میں مسلمانوں کے مذہبی حقوق کا تحفظ از بس ضروری ہے انھیں ان چار عنوانوں سے

بیان کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ وحدت امت کا تحفظ امت کی سالمیت اور اس کا استقلال ہر صورت میں قائم رکھنا ضروری ہے۔
- ۲۔ شعائر امت کا تحفظ امت کی عملی زندگی اور اس زندگی کے حرکات ہر صورت میں قائم رہنے چاہئیں۔
- ۳۔ افراد امت کا تحفظ امت کے ایک ایک فرد کی ہر دنیوی اور دینیوی فتنے سے حفاظت کی جانی چاہیے۔
- ۴۔ حوزہ امت کا تحفظ امت کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی پوری حفاظت کی جائے۔

ان عنوانات پر ترتیب وار بحث حسب ذیل ہے:

- ۱۔ وحدت امت کا تحفظ امت کی وحدت پیغمبر کے گرد قائم ہوتی ہے۔ وحدت امت کا سنگ بنیاد اور مرکز و محور پیغمبر کی شخصیت ہوتی ہے اور امت کے افراد جب تک پیغمبر کی شخصیت اور پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے بنیادی عقائد میں جنسی ضروریات دین کہا جاتا ہے تھدر ہیں تو وحدت امت قائم رہتی ہے۔ پیغمبر جس طرح لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اسی طرح اپنے مانے والوں کی ایک امت بھی قائم کرتے ہیں۔ جب تک اس امت کی وحدت قائم رہے اس پیغمبر کی رسالت کا اثر باقی رہتا ہے اور جب وحدت امت قائم نہ رہے تو رسالت کا اثر جاتا رہتا ہے۔

حضور خاتم النبیین ﷺ نے بھی ایک امت بنائی اور ان کے دل اپنے فیض محبت سے پاک کیے اور یہ سلسلہ امت اب تک قائم اور باقی ہے اور اسی کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین میں سب مسلمان تھد اور امت واحد ہیں۔ حضور ﷺ کے بعد نبی کوئی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔

اب اگر اس امت میں حضور ﷺ کو آخری نبی مانے والے اور نہ مانے والے دونوں برابر کے شریک ہوں وہ ایک دوسرے کو علی الاعلان اسلام کے بنیادی عقائد سے محرف بھی قرار دیں اور پھر ایک امت کھلا میں تو ظاہر ہے کہ اس التباس سے امت کا تشخص ختم ہو جائے گا۔ امت اپنے مخصوص معتقدات سے ہی پچانی جاتی ہے جب انھیں میں التباس ہو گیا تو امت کہاں رہتی؟ سو افراد امت کو حق پہنچتا ہے کہ جو لوگ ان سے بنیادی حقائق میں محرف ہو جائیں انھیں اس امت میں شامل نہ رہنے دیں بلکہ باہر کریں ورنہ وحدت امت کا تحفظ نہ ہو سکے گا۔ اب ان باہر نکلنے والوں کا ہنوز اس امت میں رہنے کا دعویٰ مسلمانوں کے حق وحدت میں مداخلت ہو گی۔ وہ اگر مسلمان کھلانے پر اصرار کریں تو یقیناً مسلمانوں کی مذہبی آزادی میں محل اور خل انداز ہوں گے۔

اسلام جب تمام اقلیتوں کو ان کی حدود میں مذہبی آزادی دیتا ہے تو یہ کیسے جائز کر سکتا ہے کہ خود اپنی آزادی میں دوسروں کی مداخلت برداشت کر لے سو قادیانیوں کا اسلام کا نام استعمال کرنے پر اصرار مسلمانوں کی وحدت امت کے حق میں ایک مداخلت بے جا ہے۔ مسلمانوں کا ان سے یہ مطالبہ کہ وہ مسلمان نہ کھلا میں ان کے اوپر بوجہ ذاتی ذات کی حفاظت کرنا ہے۔ کوئی امت دوسروں کی خاطر اپنی سالمیت کو محروم نہیں کرتی۔ قبائل کی سالمیت جن چیزوں سے باقی رہتی ہے انھیں ہی ان کے شعائر کہتے ہیں:

شعائر امت کا تحفظ مسلم سوسائٹی جن جگہوں، کاموں اور ناموں سے پچانی جاتی ہے انھیں شعائر اسلام کہا جاتا ہے یہ اسلام کے وہ نشان ہیں جن سے مسلم آبادیاں اور مسلمان لوگ پچانے جاتے ہیں۔ جب تک کسی امت کے شعائر محفوظ رہیں اور لوگ اپنے شعائر کا پوری غیرت سے پھرہ دیتے رہیں تو امت کا تشخص باقی رہ سکتا ہے ورنہ

نہیں۔ پس ان شعائر میں کسی ایسے طبقے کی مداخلت جو کچھ بنیادی عقائد میں مسلمانوں سے محرف ہو چکے ہوں اور مسلم معاشرہ سے وہ باہر بھی کیے گئے ہوں مسلمانوں کی مذہبی آزادی میں مداخلت ہوگی کہ جو لوگ ان میں سے نہیں ہیں خواہ مخواہ ان کے ہاں لکھ رہے ہیں۔ یہ شعائر مکانی بھی ہیں اور عملی بھی۔ پھر کچھ شعائر مرتبی بھی ہیں اور امت کی پہچان اور تشخیص میں ان سب کا دخل ہے۔ انہی سے امت کا تشخیص قائم رہتا ہے اور مسلمان دوسری قوموں میں انہی نشانات سے پہچانے جاتے ہیں۔

مکانی شعائر میں سب سے بڑی چیز کعبہ ہے جو مرکز اسلام ہے۔ پھر کعبہ کی جہت میں بنی ہوئی مسجدیں ہیں جو اللہ کے لیے بنی ہیں۔ عملی شعائر میں اذان اور مرتبی شعائر میں اسلامی القاب کی مثال دی جاسکتی ہے پس اگر کوئی غیر مسلم اقلیت اپنی عبادت کے بلاوے کو اذان کہنے لگے اور اس کے الفاظ بھی وہی مسلمانوں جیسے ہوں اور وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے اور اپنے بانی مذہب کے ساتھیوں کو صحابی اور انھیں بطور طبقہ رضی اللہ عنہ کہے تو اسے اس غیر مسلم اقلیت کی مذہبی آزادی نہ کہا جائے گا بلکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی کی برپا دی سمجھا جائے گا کہ جن شعائر سے اس امت کا تشخیص قائم تھا اب اس میں القاب ڈال دیا گیا ہے اور امت مسلم کے اس تشخیص کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ اب ان امتیازات میں وہ لوگ بھی شریک ہونے لگے ہیں جو یقیناً ان میں سے نہیں ہیں۔

شعائر امت اسلامیہ شعائر امت میں ہم کعبہ، اذان، مسجد، قرآن، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بطور مثال پیش کر سکتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ ان کی تفصیل کی جائے یہ بیان کرنا مناسب ہو گا کہ مرزا غلام احمد قادریانی کے میرود ان تمام شعائر میں مسلمانوں سے خود علیحدہ ہیں۔ اسلام کے بعض بنیادی عقائد میں ان کا مسلمانوں سے محرف ہونا یہ کوایک مستقل وجہ کفر تھی۔ لیکن ان کا ان شعائر میں مسلمانوں سے علیحدہ ہونا یہ ان کے اسی کفر کی ایک اور تصدیق ہے۔ آپ شعائر اسلام کے ایک ایک فرد پر ان کے نقطہ نظر کو پڑھتے جائیں اور پھر ان شعائر میں مسلمانوں کے عقیدے کو بھی دیکھیں تو صاف معلوم ہو گا کہ یہ لوگ شعائر اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح شریک نہیں۔ اب تعبدی امور میں ان کا اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ شریک کرنا محض التباس کے لیے ہے اور اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے شعائر نہ ہیں اور یہ کہ امت کی سالمیت باقی نہ رہے۔ ان میں غیر مسلم بھی آشریک ہوں۔

کعبہ مسلمان کعبہ شریف کو تمام روحانی برکتوں کا مرکز سمجھتے ہیں مگر مرزا بشیر الدین محمود قادریانی لکھتا ہے: ”حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بذا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ..... کیا کہکہ و مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟“

اس کا مطلب اس کے سوا کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ اب ان کے عقیدے میں کہ معلمہ مرکز برکات نہیں رہا۔ کیا یہ شعائر اسلام کی صریح حرمت ریزی نہیں اور کیا یہ عقیدہ لا تحلوا شعائر اللہ کے خلاف صریح کفر کا ارتکاب نہیں؟ شعائر اللہ کا پہلا نشان تو کعبہ ہے۔

یہ سارا زور مکہ و مدینہ کی بجائے قادریان کی مرکزیت قائم کرنے پر لگ رہا ہے۔ قادریانی اپنی الحادی تدبیروں سے ایک ایسا دین قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی رو سے مسلمانوں کا اسلام محض ایک مردہ دین ٹھہرے۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ کوشش شعائر اسلام کی کلیت نئی کی ہے اور اپنے شعائر کی ایک جارحانہ تحریک ہے۔

مکانی شعائر میں سب سے بڑی چیز کعبہ ہے جو مرکز اسلام ہے۔ پھر کعبہ کی جہت میں بنی ہوئی مسجدیں ہیں جو اللہ کے لیے بنی ہیں۔ جب کعبہ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے تو اور مسجدوں میں وہ مسلمانوں کے ساتھ

کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟

مرزا غلام احمد قادریانی اسی لیے اپنی جماعت کے اس کلی علیحدگی کا قائل تھا اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود اپنے باپ مرزا غلام احمد سے نقل کرتا ہے:

”یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسح یا چند اور مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم ﷺ، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔“ (روزنامہ الفضل قادریانی ج ۱۹ نومبر ۱۳۲۰ء۔ جولائی ۱۹۳۱ء)

پھر ایک مقام پر مرزا محمود قادریانی لکھتا ہے:

”تم اپنے امتیازی نشانوں کو کیوں چھوڑتے ہو۔ تم ایک برگزیدہ نبی (مرزا) کو مانتے ہو اور تمہارے مخالف اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صاحب (مرزا) کے زمانہ میں ایک تجویز ہوئی کہ احمدی، غیر احمدی مل کر تبلیغ کریں مگر حضرت صاحب نے فرمایا کہ تم کونسا اسلام پیش کرو گے۔ کیا خدا نے جو تھیں نشان دیے جو انعام خدا نے تم پر کیا وہ چھپا گے۔ ایک نبی ہم میں بھی خدا کی طرف سے آیا۔ اگر اس کی اتباع کریں گے تو وہی پھل پائیں گے جو صحابہ کرام کے لیے مقرر ہو چکے ہیں۔“ (آئینہ صداقت ص ۵۳)

اس میں صریح اقرار ہے کہ قادریانی مسلمانوں کے ساتھ کسی بات میں شریک نہیں ہو سکتے ان کا مسلمانوں کے شعائر میں خواہ مخواہ و خل دینا مسلمانوں کے دائرہ کار میں مداخلت بے جا ہے۔ قادریانیوں کا اسلام کا تصور اس اسلام سے بالکل جدا ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

روزنامہ الفضل کی اشاعت میں چوبدری خفر اللہ خال کی ایک تقریر ان الفاظ میں شائع ہوئی ہے جو قادریانی مذہب کو دین اسلام سے کلیتہ الگ کرتی ہے:

”اگر نعروز بالله آپ (مرزا غلام احمد قادریانی) کے وجود کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا زندہ مذہب ہوتا ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ اسلام بھی دیگر مذاہب کی طرح ایک خلک درخت شمار کیا جائے گا اور اسلام کی کوئی برتری دیگر مذاہب سے ثابت نہیں ہو سکتی۔“ (اصطح کراچی ۲۲۳۵ء، الفضل لاہور ج ۲۰، شمارہ نمبر ۱۳۰ ص ۵-۲۱ء)

اس بیان کی روشنی میں مسلمانوں اور قادریانیوں میں کسی بات میں دینی اشتراک نہیں رہتا۔ ان کے ہاں مسلمان اس دین کے قائل ٹھہر تے ہیں جس میں مکہ و مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خلک ہو چکا ہے اب ان کا فیض جاری نہیں اور خود بھر اسلام ان کے ہاں ایک خلک درخت شمار ہوتا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود اپنے باپ اور باپی مذہب مرزا غلام احمد سے نقل کرتا ہے:

”یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسح یا چند اور مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔“

(الفضل قادریانی ج ۱۹ نومبر ۱۳۲۰ء۔ جولائی ۱۹۳۱ء)

جو لوگ اللہ کی ذات میں مسلمانوں سے اختلاف کریں وہ دہریہ ہو سکتے ہیں یا مشرک۔ مرزا قادریانی ان دو میں سے کہر تھے؟ اسے ان کے الہامات میں دیکھا جا سکتا ہے۔

قادیریانیوں نے مرزا قادریانی کے الہامات تذکرہ کے نام سے شائع کیے ہیں اس میں ہے:

”آواہن! خدا تیرے اندر اڑا آیا۔“ (تذکرہ ص ۳۴۳ طبع سوم)

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے کہا:

انما امرک اذا اردت شيئاً ان تقول له كن فيكون. ”تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ فی الفور ہو

(حقیقت الوعی ص ۱۰۵ خرداد ۱۴۲۲ھ ص ۱۰۸)

جائی ہے۔“

مرزا قادیانی یہ بھی لکھتے ہیں:

”وانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں۔

خدا کی مانند۔“ (ضمیر تحدی کلادی ص ۲۱ حاشیہ خرداد ۱۴۲۱ھ ص ۶۱) دیکھئے عقیدہ توحید کہاں پاٹی رہا؟ پھر یہ بھی کہا:

”واعطیت صفة الافنان والاحیاء من الرُّبِّ الفعال“ (خطبہ الہامیہ خرداد ۱۴۲۱ھ ص ۵۵)

پھر یہ الہام بھی لکھا:

”اذا نبشرك بغلام مظہر الحق والعلیٰ کان اللہ نزل من السماء.“

(حقیقت الوعی ص ۹۵ خرداد ۱۴۲۲ھ ص ۹۸)

بیٹھے کے بارے میں یہ تصور کہ گویا خدا آسمان سے اترتا ہے۔ یہ عقیدہ کہاں تک توحید کے ساتھ جمع ہو

سکتا ہے۔

رسول کریم ﷺ حضور رسول کریم ﷺ کے بارے میں مسلمانوں اور قادیانیوں میں کیا اختلاف ہے؟

مسلمان آنحضرت ﷺ کو بہترین خلائق اور اولادِ آدم میں کامل ترین شخصیت مانتے ہیں ان کے ہاں ان

سے زیادہ کامل شخصیت کا تصور تک نہیں۔

قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود کو آنحضرت ﷺ کے عربی وجود سے زیادہ کامل مانتے ہیں۔ ان

کے ہاں حضور ﷺ کے دو ظہور تھے۔ ظہور عربی، ظہور ہندی۔ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود

آنحضرت ﷺ کا ہی ایک دوسرا ظہور تھا اور آپ ﷺ کا یہ ظہور آپ ﷺ کے پہلے ظہور سے زیادہ کامل تھا۔ اس کا

مطلوب اس کے سوا کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی بعثت عربی کو کامل اور مکمل نہیں مانتے بلکہ مسلمان

آپ ﷺ کی اسی شخصیت کریمہ کو اسوہ حسنہ اور انسانیت کا کامل ترین ظہور مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے

سامنے ان کے ایک پیرو نے حسب ذیل اشعار پڑھے اور مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کے (اخبار بدرو قادیان نمبر ۳۳

ج ص ۲۵۔ ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء) کی اشاعت میں شائع ہوئے:

غلام احمد رسول اللہ ہے برحق

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں

غلام احمد کو دیکھنے ہوں جس نے اکمل

مرزا غلام احمد نے خود بھی لکھا ہے:

”یہ خیال کہ گویا جو کچھ آنحضرت ﷺ نے قرآن کریم کے بارہ میں بیان فرمایا اس سے بڑھ کر ممکن

نہیں بدیہی المطلان ہے۔“

پھر مرزا غلام احمد نے ان قرآنی حقائق و معارف کا اپنے اوپر کھلتا ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”اگر یہ کہا جائے کہ ایسے حقائق و دقائق قرآنی کا نمونہ کہاں ہے جو پہلے دریافت نہیں کیے گئے تو اس کا

جواب یہ ہے کہ اس رسالہ کے آخر میں جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی ہے اس کے پڑھنے سے تحسیں معلوم ہو گا۔“

(کرامات الصادقین ص ۱۹ خرداد ۱۴۲۰ھ ج ۷ ص ۶۲)

مرزا غلام احمد قادریانی کے ان الفاظ کو بھی پیش نظر رکھیے:

روضۃ آدم کہ قا ناکمل اب تک
میرے آنے سے ہوا کامل بعملہ برگ و بار

(برائین احمدیہ حصہ بختم ص ۱۳۳، ج ۲۱، ص ۲۱)

قادیانیوں نے اس تصور کو پھر اور تکھارا اور مرزا غلام احمد قادریانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے یہ مانتے ہوئے بھی کہ کوئی شخص حضور سے آگئے نہیں بڑھا بر طلاقہا:

”یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے حتیٰ کہ محمد رسول اللہ ﷺ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔“
(الفضل قادریانی ج ۱، نمبر ۵، ۵، ۱۹۲۲ء)

مسلمان حضور ﷺ سے زیادہ کمالات کا تصور نہیں کر سکتا۔ سو مرزا غلام احمد قادریانی کا یہ کہنا کہ ان کی جماعت دوسرے مسلمانوں سے رسول کریم ﷺ کے بارے میں بھی مختلف ہے بالکل درست ہے۔ سو جب قادیانیوں کو مسلمانوں سے اللہ کی ذات اور رسول کریم ﷺ کی شان میں بھی بنیادی اختلاف خپرا تو کلمہ کی وحدت کہاں رہی؟ کلمہ شریف اسی اقرار تو توحید و رسالت پر ہی تو مشتمل ہے۔

کلمہ شریف میں اللہ کی ذات اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا ہی تو ذکر ہے۔ جب ان دونوں کے بارے میں مسلمانوں اور قادیانیوں میں اختلاف ہو گیا تو ان میں کوئی نقطہ اشتراك نہ رہا۔ توحید و رسالت کے اقرار میں بھی دونوں مختلف ہو گئے۔ اور کلمہ بھی دونوں کا مختلف ہو گیا۔ اس لیے کہ اس کے مصادق بدل گئے۔

قرآن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کی آخری کتاب قرآن کریم قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اور اس کی خفاخت خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے مگر قادریانیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم ۱۸۵۷ء میں اخالیاً گیا تھا اُرایا نہ ہوتا تو مرزا قادریانی کے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ مرزا غلام احمد قادریانی کے آنے پر ان کے عقیدہ میں قرآن گویا دوبارہ اترتا ہے۔ مرزا قادریانی نے اپنی کتابوں میں بعض آیات قرآنی مختلف بھی نقل کیں۔ ان کا بینا مرزا بشیر احمد ایم۔ اے لکھتا ہے:

”هم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبouth کر کے آپ پر قرآن اتنا راجائے۔“
(کلمہ الفصل ص ۲۷۴، اریو یو آف ریلیجنز)

قرآن کریم کی تفسیروں میں اختلاف بے شک انسانی اور علمی اختلاف ہے لیکن اسے قرآن کا اختلاف نہیں کہ سکتے یہ مفسرین کا اختلاف ہے جو آخر انسان ہی تھے تاہم یہ صحیح ہے کہ قرآن کی غلط تفسیریں کبھی چل نہیں سکتیں۔ صحیح تفسیر بہر حال موجود رہی اور الی حق اس کے ساتھ غلط تفسیروں کی تردید کرتے رہے لیکن قرآن کی اصلاحات کا نام اسے اب تک کسی نے نہیں دیا۔ اب مرزا غلام احمد قادریانی کی عبارت ذیل دیکھئے اور ان کی وہ تحریرات بھی سامنے رکھئے جن میں اس نے قرآنی آیات کو کچھ بدل کر لکھا ہے۔

”یہی اب جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ میں اتر کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔“

(ازال ادیم ص ۲۰۸، ج ۲۱، ص ۳۸۲)

کیا یہ الفاظ ایسے شخص کے قلم سے نکل سکتے ہیں جو قرآن کریم پر مسلمانوں کا سارا ایمان رکھتا ہو۔ جس طرح

قرآن پر مسلمان اور قادریانی اپنے بنیادی عقیدہ میں مختلف ہیں نماز میں بھی ہر دو نماہب کا بنیادی اختلاف ہے۔ نماز نماز مسلمانوں کو ایک صفت میں جمع کرتی ہے۔ اکٹھے نماز پڑھنا یا پڑھ کرنا مسلمانوں کو ایک امت بناتا ہے اور بھی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے اسلام کا نشان ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: من صلی صلوٰتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فدللک المسلم. (مکونہ ص ۲۲ کتاب الایمان عن المخاری) ”جو ہمارے جیسی نماز پڑھے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ حلال سمجھے وہ مسلمان ہے۔“

ہمارے جیسی نماز میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کی نماز الگ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت سے کلینچ کثا رہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہ سمجھا جائے گا۔ انہیں حکم لکھتے ہیں:

فَإِنْ صَلَّىٰ بِالْجَمَاعَةِ صَارَ مُسْلِمًا بِخَلَافِ مَا إِذَا صَلَّىٰ وَحْدَهُ إِلَّا إِذَا قَالَ الشَّهُودُ صَلَّىٰ صَلُوتُنَا وَاسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِذَا حَجَّ عَلَىٰ وَجْهِ الدُّّنْيَا يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُونَ يَحْكُمُ بِأَسْلَامِهِ
(ابن حجر الرائق ح ۵ ص ۵۷ کتاب السیر)

اب مرزا غلام احمد قادریانی کی نماز بھی دیکھئے کہ کس قدر وہ ہماری نماز جیسی ہے: مرزا غلام احمد لکھتا ہے: ”پس یاد رکھو کہ جیسا خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متعدد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔“

(ضمیر تحفہ گلزاری ص ۲۸ خزانہ ح ۷۴ ص ۶۳)

قادیانی اس باب میں بھی مسلمانوں سے جدا ہو گئے کہ قادریوں کے ہاں نماز مغرب میں تیری رکعت میں روئے کے بعد فارسی لفظ پڑھنے کی سنت ہے۔ یہ بات آپ مسلمانوں کی مساجد میں بھی نہیں دیکھیں گے۔
(سیرۃ الہمہدی ح ۳ ص ۱۳۸)

جب قادریوں کی نماز میں مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئیں تو وہ کس پہلو سے بھی حوزہ اسلام میں نہ رہے۔ مرزا غلام احمد قادریانی کا یہ کہنا کہ قادریوں کو مسلمانوں سے ایک ایک بات میں اختلاف ہے بالکل درست ہے: ”اللہ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، رکوۃ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔“ قوموں کے شعائر ان کے اندر وہی معتقدات کا ہی عملی پھیلاؤ ہوتے ہیں۔ ہمیں آدم میں خوف خداوندی اور تقویٰ ہی کا بیچ پھوٹتا ہے تو اس سے اسلام کے شعائر اُبھرتے ہیں اور مسلمان ان کی تعظیم کر کے وحدت امت میں نکھرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

وَمَنْ يَعْظُمْ شَعَارَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ (سورۃ الحج ۳۲) ”اور جو تعظیم کرتا ہے نشانہ اے الہی کی تو بلاشبہ یہ پر ہمیزگاری دلوں کی ہے۔“

جب قادریانی مسلمانوں سے اپنے معتقدات اور اعمال بلکہ ہر چیز میں جدا ہو گئے تو اب مشترکہ شعائر کا دعویٰ کسی طرح قرین النصف نہیں رہتا۔ شعائر میں اشتراک اب التباس و اشتباہ کے لیے تو باقی رکھا جاسکتا ہے معتقدات کے تعارف اور عقیدت کے استھاد کے لیے نہیں۔ کسی قوم کے ساتھ اس کے امتیازی نشانوں میں وہی لوگ جمع ہو سکتے ہیں جو ان کے معتقدات میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ایک ایک چیز میں اختلاف کرنے والے محض التباس و تفکیک کے لیے ایک سے شعائر کے مدعا ہو سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی نسبت نہیں۔ اختلاف پڑھنے کی صورت میں تاریخ فیملہ کرے گی کہ پہلے یہ نشان کس قوم کے تھے اور بعد میں انھیں کن لوگوں نے اختیار کیا اور کیا اس اختیار کا نشا پہلی قوم کے دینی شعائر میں التباس و اشتباہ کے سوا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ کسی

قوم سے ان کے شعائر چیننا اس سے بڑھ کر جاریت اور کیا ہو سکتی ہے؟ صدر پاکستان کا زیریحث آرڈننس اسی جاریت کو ختم کرنے کے لیے ہے یہ قادیانیوں پر کوئی زیادتی نہیں۔

قادیانی جب کلمہ اور نماز تک میں مسلمانوں سے کلیتہ جدا ٹھہرے تو اب ان میں مسجدوں اور اذانوں کا اشتراک محض التباس کی ختم کاری کے لیے ہے حق یہ ہے کہ مسجد صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے اور اذان انہی کی عبادت کا ایک بلداوا ہے جس پر مسلمان اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جو مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے وہ ان کی سی اذان بھی نہیں دے سکتے نہ ان جیسی عبادت گاہ بنائے ہیں۔

مسجد اور اذان مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے اور سب انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے وقت میں مسلم ہی تھے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام سب کا دین ایک رہا اور سب اپنے اپنے وقت میں مسلمان تھے۔ پیغمبروں میں شریعتیں تو بدلتی رہتی ہیں لیکن دین سب کا ہمیشہ سے ایک رہا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

الأنبياء أخوة لعلاتِ أمهاتِهم شُتّى وَ دِينُهُمْ وَاحِدٌ۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۰ کتاب الانبیاء)

”سب انبیاء آپس میں ان بھائیوں کی طرح ہیں جو مختلف ماؤں سے ہوں اور باپ ایک ہو۔ دین سب انبیاء کا ایک رہا ہے۔“ اس دین کا نام اسلام ہے اور ہر پیغمبر نے اسی کی طرف دعوت دی۔ حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب علیہما السلام نے اپنی اولاد کو اسلام پر رہنے کی تلقین فرمائی تھی۔

یا بابنی اَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ (آل عمران ۱۳۲) ”اے میرے بیٹو!“

پیغمبر اللہ نے تمہارے لیے یہ دین جتنی لیا ہے سوتھ ہرگز نہ مرنا مگر یہ کتنہ مسلمان ہو۔“

اس پر ان کے بیٹوں نے کہا: وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اللہ کے حضور میں مسلمان ہیں۔

قرآن پاک میں ارشاد ہوا:

مَا كَانَ ابْرَاهِيمَ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ (آل عمران ۶۷)

”ابراهیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی لیکن تھے وہ یک رخ مسلمان تھے۔“

قرآن کریم میں پہلے صحیح العقیدہ انسانوں کے لیے لفظ مسلم عام ملتا ہے۔

(دیکھئے البقرہ: ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۲۸، ۱۲۷، یوسف: ۱۰۱، اعراف: ۱۲۶، یوں: ۸۰، ۸۲، ۲۲، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، قصص: ۵۳)

حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام اور ان کے پیروں سب اپنے اپنے وقت میں مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد، المسجد الحرام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد، المسجد الاقصیٰ کہلائی۔ معلوم ہوا کہ مسجد ابتداء ہی سے مسلمانوں کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کا نام رہا ہے۔

مشرکین نے اپنے دور افتخار میں خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے مگر یہ مسجد چونکہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی تھی اس لیے ان بتوں کے باوجود اس سے مسجد کا نام جدا نہ ہو سکا۔ ایسا کہنا حدیث الاسلام یعلو ولا یعلیٰ علیہ کے

خلاف تھا سونام مسجد کا ہی غالب ہا۔ اسے مشرکین کی عبادت گاہ کا نام نہ دیا جاسکا۔ سکھوں نے اپنے دور حکومت میں شاہی مسجد لاہور میں گھوزوں کے اصطبلی بنائی تھے مگر مسلمانوں نے اس کا نام مسجد ہی رکھا۔ مسجد ابتدائی طور پر مسجد ہو تو مسجدیت کا حکم اس سے قیامت تک نہیں چھن سکتا۔ اسلام کی نسبت اور کفر کی نسبت کا آپس میں تکرار ہو تو اسلام کی نسبت ہی غالب رہے گی۔

قادیانیوں کا یہ کہنا کہ مشرکین کی عبادت گاہوں کا نام بھی مسجد رہا ہے اور اپنی تائید میں المسجد الحرام، المسجد القصی کو پیش کرنا بالکل بے محل ہے۔ غیر مسلم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کا نام بھی مسجد نہیں ہوا۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہی ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے مشرک حکومت سے فتح کر ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک طویل نیندوار دکروی۔ جب یہ اٹھے تو نظام حکومت بدل چکا تھا اب حکومت عیسائیوں کی آجھی تھی۔ یہ اس وقت کے مسلمان تھے مشرکین ماتحت تھے اور ان کا زور ٹوٹا ہوا تھا۔ اصحاب کہف کی خبر پھیلی تو لوگوں نے چاہا کہ اس جگہ ان کی کوئی یادگار قائم کریں۔ قرآن کریم میں ہے:

اذْيَنَازُونَ بِنَهُمْ امْرُهُمْ فَقَالُوا اهْنَا عَلَيْهِمْ بِنِيَانًا رَبُّهُمْ اعْلَمُ بِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ اغْلِبُوا عَلَى امْرُهُمْ لِتَتَخَذُنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً۔ (الکف ۲۱) ”جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ کہنے لگے بناؤ ان پر ایک عمارت۔ ان کا رب ہی ان کو بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگ جو غالب آپکے تھے ان کو کہنے لگے ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔“

مشرکین کا یہ کہنا کہ چونکہ وہ ہماری قوم میں سے تھے اس لیے ہم ان پر اپنے طریقے سے کوئی عمارت بنائیں گے اصولاً درست نہ تھا کیونکہ یہ موحد تھے اور عیسائیوں کا (جو اس وقت کے مسلمان تھے) کہنا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے کیونکہ وہ اعتقاد اتوحید پرست تھے بیکھ درست تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد بیشتر سے مسلمانوں کی ہی عبادت گاہ کا نام رہا ہے اور اس وقت کے مسلمان جو حضرت عیسیٰ ﷺ کی امت تھے وہاں مسجد ہی بناتا چاہتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اس آیت کے تحت بیان فرماتے ہیں:

فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ بَنِيَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا يَصْلِي فِيهِ النَّاسُ لَا نَهُمْ عَلَى دِينِنَا وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ بَنِيَّ بَنِيَّاً لَا نَهُمْ عَلَى مِلْتَنَا۔ (تفہیر خازن ج ۲ ص ۱۲۸، ۱۲۷) ”مسلمانوں نے کہا ہم ان پر مسجد بنائیں گے جہاں لوگ نماز پڑھیں گے کیونکہ یہ لوگ ہمارے دین پر تھے (موحد تھے) اور مشرکین نے کہا ہم ان پر یادگار بنائیں گے یہ ہماری قوم سے تھے۔“

علامہ نفعی مدارک التزلیل میں لکھتے ہیں:

لتَّخَذِلُنَ عَلَيْهِمْ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ مَسْجِدًا يَصْلِي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ۔ (مدارک التزلیل ج ۳ ص ۶)

اسی طرح تفسیر فتح البیان میں ہے:

(لتَّخَذِلُنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا) يَصْلِي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَ يَعْبُرُونَ بِحَالِهِمْ وَ ذِكْرُ اِنْخَادِ الْمَسْجِدِ يَشْعُرُ بِاِنْ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى امْرُهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ۔ (ج ۵ ص ۳۸۸ مطبع بولاق مصر)

”ہم ان پر مسجدیں بنائیں گے جن میں مسلمان نماز پڑھیں گے اور ان کے حالات سے سبق لیں اور مسجد بنانے کا ذکر کر پڑتا ہے کہ یہ لوگ جواب ان پر غالب آپکے تھے وہ مسلمان تھے۔“

اسلام اپنی کامل ترین مشکل میں حضور اکرم ﷺ کے عہد میں جلوہ گر ہوا۔ اب مسجد انہی کی عبادت ہے، کا نام نہ ہے۔ پھیل ملتیں جو گواپنے اپنے وقت میں اہل مساجد میں سے تھیں۔ اس آخری رسالت پر اگر ایمان نہ لا لائیں تو اب اہل صومعہ یا اہل بیعت بن گئیں۔ اب ان کی عبادت گاہوں کا نام مساجد نہ ہوگا۔ مساجد صرف مسلمانوں کی

عبدات گاہوں کو ہی کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرق قائم فرمادیا۔ اب جائز نہ رہا کہ اس کے بعد کسی اور قوم کی عبادت گاہ کو مسجد ہما جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع وصلوات و مساجد يذکر فيها اسم الله كثيرا۔ (الج ۳۰) ”اور اگر نہ روکتا اللہ بعض لوگوں کو بعض سے تو ذہادیے جاتے تھے اور گر جے اور عبادت خانے اور مسجدیں۔“

اب مسجدیں مسلمانوں کا شعار بن گئیں، جہاں مسجد نظر آئے یا اذان ہو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہاں کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں ہیں ہی مسلمانوں کی، کسی اور قوم کی عبادت گاہ نہیں بن سکتیں اگر ایسا ہو سکتا تو حضور اکرم ﷺ مسجد دیکھنے سے ہی چڑھائی کو روک دینے کا حکم نہ فرماتے۔

اذا رأيتم مسجداً أو سمعتم اذاناً فلا تقتلوا أحداً۔

(سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۳۵۵ باب فی دعاء المشرکین کتاب الخراج امام یوسف ص ۲۰۸ بولاق مصر فصل فی فتاویٰ اهل الشرک مشکوہ ص ۳۲۲ باب الكتاب الی الكفار و دعائهم الی الاسلام)

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اور اذان مسلمانوں کے شعائر ہیں۔ کوئی غیر مسلم قوم ان کو اپنا نہیں کہہ سکتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی اس حدیث پر لکھتے ہیں:

”مسجد شعائر اسلام میں سے ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب تم کسی مسجد کو دیکھو یا کسی موذن کو اذان کہتے سن تو کسی کو قتل نہ کرو۔“ (جیۃ اللہ بالغہ مترجم ص ۲۷۸ عربی ۱۹۲ بحث المساجد)

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کو مسجد میں عام آتے جاتے دیکھو تو اس کے مسلمان ہونے کی شہادت دو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدواه بالايمان فان الله يقول إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر۔ (رواہ ترمذی وابن ماجہ مکملہ ص ۲۹ باب المساجد ومواضع الصلاة)

”جب تم کسی شخص کو مسجد میں عام آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔“

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مساجد اسلام کے امتیازی نشان اور مسلمانوں کے شعائر ہیں۔ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ مسجد کہلانے تو مسلمان کس طرح وہاں آنے جانے والوں کو مسلمان کہہ سکے گا۔ قادیانیوں کو بھی اگر مسجد بنانے کی اجازت ہوتی تو اس صورت میں اس طرح کی احادیث کیا معمل ہو کر نہ رہ جائیں گی؟

یہ بات صحیح ہے کہ مسجدیں ملت اسلامیہ کا امتیازی نشان ہیں۔ جب تک کسی کا مسلمان ہونا ثابت نہ ہو اس کا مسجد میں کوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔ قادیانی جماعت کے چوہدری ظفر اللہ خان اپنی ایک تحریر میں اقرار کرتے ہیں: ”اگر احمدی مسلمان نہیں تو ان کا مسجد کے ساتھ کیا واسطہ۔“ (حدیث ثنت ص ۱۲۲ مطبع اول)

معلوم ہوا کہ چوہدری صاحب کے نزدیک بھی مسجدیں مسلمانوں کی ہیں اور مسلمانوں کی ہی عبادت گاہیں ہیں۔ غیر مسلموں کو ان سے کوئی واسطہ نہیں۔

مسجد بنانا امام کے ذمہ ہے اسلام میں مسجد بنانا شہر میں مسلمانوں کو یہ سہولت ہے، پہنچانا اسلامی سربراہ کے ذمہ ہے۔ امام یہ ذمہ داری ادا نہ کرے یا بیت المال میں اس قدر رقم نہ ہو تو یہ ذمہ داری مسلمانوں پر آئے گی۔ وہ امام

کی طرف سے نیابت مسجد بنائیں گے۔

پس جب مسجد بنانا اصولاً امام کے ذمہ تھرا اور وہ غیر مسلموں کو آرڈیننس کے ذریعے اس سے روکے تو غیر مسلم مسجد بنانے کا کسی طرح سے املا نہ رہا، نہ اس کی بنائی ہوئی مسجد امام کی نیابت میں ہوگی نہ مسجد کھلائے کی فقہ ختنی کی کتاب (درست رج ۳۹۲ ص ۳۹۲ کتاب الوقف) میں ہے:

”ووقف مسجد لل المسلمين فانه يجب ان يتخذ الامام لل المسلمين مسجداً من بيت المال.“

علامہ شامیؒ اس پر لکھتے ہیں:

اومن مالهم وان لم يكن لهم بيت المال.
(رواختارشای ص ۳۹۲ ح ۳)

اس اصول کی روشنی میں امام کی جگہ مسلمانوں کو مسجد بنانے سے روکے اور یہ روکنا کسی ملکی یا دینی مصلحت کے لیے ہوتا ہیں بھی وہاں مسجد بنانے کا حق نہیں رہتا تو غیر مسلم اقوام، صدر کے اس آرڈیننس کے بعد کس طرح حق رکھتی ہیں کہ مسلمانوں کے شعائر کا اس طرح بے جا اور بلا اجازت استعمال کریں۔ کافر تو عبادت کے املا ہی نہیں۔

علامہ ابن حام لکھتے ہیں:

ان الكافر ليس باهل للنية فما يفتقر اليها لا يصح منه وهذا الان النية تصير الفعل منتھضا سبباً للثواب ولا فعل يقع من الكافر. (فتح القدیر) ”کافرنیت کا املا نہیں سوجہن امور میں اسے نیت کی ضرورت ہو اس کا اس میں اعتبار نہیں، یہ نیت ہی ہے جو کسی کام کو ثواب کا موجب ہاتی ہے اور ایسا کوئی فعل (جو ثواب کا موجب ہو سکے) کافر سے صادر ہی نہیں ہوتا۔“

اس اصول کی تائید میں مندرجہ ذیل آیات سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے:

۱..... فَمَنْ يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفَّارَانِ لَسْعِيْهِ وَإِنَّهُ لِكَاتِبُوهُنَّ (الأنبياء: ۹۲) ”پس جو یہ عمل کرے گا اور وہ ہو مومن، سواں کی کوشش رہنے کی جائے گی اور پیش ہم (اس کے اعمال) لکھتے ہیں：“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہ ہو اچھے سے اچھے اعمال بھی قبولیت نہیں پاتے اور نہ وہ لکھتے جاتے ہیں جو عمل ایمان کے بغیر ہوں گے ان کا ہمارے ہاں کھلا انکار ہے گویا وہ وجود ہی میں نہ آئے یہ صرف ایمان ہے جو اعمال صاحبِ کوائق قبولیت بنتا ہے۔

قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ہے:

۲..... مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ مَنْ ذَكَرَ أَوْ اشْتَهَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْجِيْهِ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ وَلِنْجِيْنَهُمْ أَجْرٌ هُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (آل عمران: ۷۰) ”کوئی شخص مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے اور وہ ہو مومن پس ہم اسے پاکیزہ زندگی بخشیں گے اور ہم انھیں ان کے اعمال کی بہترین جزا مختیشیں گے۔“

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل لاائق قبول نہیں رہتا اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جہاں تک جزا کا تعلق ہے کافر کا کوئی عمل وجود ہی نہیں پاتا۔ یہی حیطہ اعمال کی حقیقت ہے کہ ان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہ ہوگا۔ لاقیم لہم یوم القيمة و زنا (کہف: ۱۰۵) معلوم ہوا کافر کی ہر عبادت بے وجود اور اس کی ہر پکار ضائع ہے۔

قرآن کریم میں یہ بھی ہے:

وما دعاء الكافرين الا في ضلال (الرعد: ۱۷) ”اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر ضائع۔“
کافر تو عبادت بلکہ نیت تک کا الہ نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی عمل ہی نہیں تو اس کی بنی عبادت گاہ
مسجد کیسے بن سکتی ہے؟ مسجد ایمان کے بغیر بننے یہ ناممکن ہے۔ مسجد بنانے کے لیے نیت ضروری ہے اور کافرنیت کا
الہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے:
انما يعمر مساجد اللہ من أمن بالله واليوم الآخر. (التوبہ: ۱۸) ”پیش کو ہی آباد رکھتے ہیں مسجدیں
اللہ کی جو ایمان لائے ہوں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔“

یہاں تک یہ معلوم ہوا کہ کافر کو مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں اور مسجدیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔
اب رہا ان کا مسلمانوں کی مسجد میں آنا جانا تو یہ اس کے بھی مجاز نہیں۔ ان کا یہ تعاہد ان کے مسلمان ہونے کا گمان
پیدا کرتا ہے۔ مسلمان مامور ہیں کہ مسجد میں عام آنے والے کو مسلمان سمجھیں جس طرح یہ مسجد بنانے کے لیے الہ
نہیں۔ انھیں مسجدوں میں عام داخلے کی بھی اجازت نہیں۔ حافظ ابو بکر بحاص الرازی لکھتے ہیں:

عمارة المسجد تكون بمعينين احدهما زيارته والكون فيه والآخر ببنائه وتجديده ما استرم منه فاقضت الآية منع الكفار من دخول المسجد ومن بناءها وتولى مصالحتها والقيام بها لا نظام اللفظ لامرین. (أحكام القرآن ج ۲ ص ۱۰۸) ”مسجد کو آباد کرنا و طرح سے ہے اس میں آنا جانا اور اس میں
رہنا اور دوسرا ہے بنانا اور اس کی مرمت وغیرہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ کافروں کو مسجدوں میں داخل ہونے،
بنانے ان کے امور کا متولی ہونے اور وہاں ٹھہرنے سے روکا جائے۔ کیونکہ آباد کرنے (عمارت) کا لفظ دنوں
باتوں کو شامل ہے۔“

تمام مساجد کا قبلہ مسجد حرام ہے وہاں مشرکوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ یہ حکم گو خاص ہے لیکن اس سے بھی
الکار نہیں ہو سکتا کہ فروع اپنی اصل سے کیتہ خالی بھی نہیں ہوتی۔

خاص خانہ کعبہ کے متعلق تواریخی بیانات کے ایمروں مولوی محمد علی بھی تسلیم کرتے ہیں:
”خانہ کعبہ کی تولیت کسی مشرک قوم کے پر نہیں ہو سکتی۔“ (بيان القرآن ص ۵۸۱)
پس اگر اس اصول کو جملہ مساجد عالم میں کار فرما مانا جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے اور نگزیب
عالیٰ کے استاذ شیخ ملا جیون جو پوری تقلیل کرتے ہیں:

ان المسجد الحرام قبلة جميع المساجد فعما ره كعما ره وهذا على القراءة المعروفة.
وحيثنة علينا الحكم الى سائر المساجد لان النص لا يختص بمورده. (تفیرات احمدی ص ۲۹۸ مطبع علی وہی)
”پیش کو مسجد حرام دنیا کی تمام مساجد کا قبلہ ہے سو اس کا آباد کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح ان دیگر مساجد کو
آباد کرنے والا۔ یہ معنی معروف قرأت پر ہے اور اسی لیے ہم نے مسجد حرام کے اس حکم کو تمام مساجد تک متعدد کیا
ہے کیونکہ نص اپنے موردنکیں ہوتی۔“

علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ المعروف بابن العربي بھی لکھتے ہیں:

فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصاً و منع من دخوله سائر المساجد
تعليقًا بالنجاشة ولو جوب صيانة المسجد عن كل نجس وهذا كله ظاهر لاختفاء فيه. (أحكام القرآن ص
۹۰۲ ج ۲) ”الله تعالیٰ نے مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے نصاروکا ہے اور دوسری تمام مساجد میں داخل

ہونے سے اس طرح روکا ہے کہ روکنے کی علت بیان کر دی اور وہ انھیں نجاست سے بچانا ہے کہ مسجد کو ہر ناپاکی سے بچانا واجب ہے اور یہ سب بات ظاہر ہے اس میں کوئی خناہیں۔“

اسلامی ملک میں آباد اہل ذمہ مسجد میں داخل ہونا چاہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک انھیں مسلمانوں کی اجازت کے بغیر اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے پوچھئے بغیر مسجد میں داخل ہو جائے تو حاکم شرع اسے تعریر (سزا) دے سکتا ہے۔ علامہ محمد بن عبد اللہ الترشی ۷۴۹ھ لکھتے ہیں:

فَلَوْ دَخَلَ بِغَيْرِ أَذْنٍ عَزَرَ الَا إِنْ يَكُونَ جَاهِلًا بِتَوْقِهِ عَلَى الْأَذْنِ فَيُعَذَّرُ۔ (السلام الساجد بالحكم المساجد ص ۳۲۰ م القاهرة) ”اگر کوئی غیر مسلم بغیر اجازت کے مسجد میں داخل ہو جائے تو اسے تعزیر دی جا سکتی ہے۔ مگر یہ کہ وہ اس سے بے خبر ہو کہ مسجد میں داخل ہونا مسلمانوں کے اذن پر موقوف تھا اس صورت میں اسے مغذور سمجھا جا سکتا ہے۔“

کافر اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دیں اس سے مسلمانوں کا تشخص بمرجوح ہوتا ہے۔ یمن میں مشرکین کا ایک عبادت خانہ تھا۔ جسے وہ کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ کعبہ مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی اور مشرکین اسی نام سے اپنی عبادت گاہ چلاتا چاہتے تھے۔ حضرت جرج حضور ﷺ کے حکم سے ڈیڑھ سو آدمی ساتھ لے کر اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کعبہ سے موسم ہونے والی نئی عبادت گاہ کو خارش زدہ اونٹ کی طرح کر دیا۔ حضور ﷺ کی خدمت میں واپس ہوئے اور صورت حال کی اطلاع دی۔ آپ ﷺ اس پر بہت خوش ہوئے اور انھیں دعا دی۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ (۱۸۲ھ) لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کارکردگی کی اطلاع حضور ﷺ کو ان الفاظ میں دی۔

وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا لَيْتَكَ حَتَّى تَرَكَنَا هَامِلَ الْجَمْلَ إِلَّا جَرَبَ قَالَ فَبِرَكَ النَّبِيُّ ﷺ۔

(کتاب الخراج ص ۲۱۰ نص فی ثال اصل اشرک، اصل انہی)

منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد ضرار پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جو عمل کیا اس کی تعریج اگر حدیث کی روشنی میں کی جائے تو بات لکھر کر سامنے آئے گی کہ کافر گروہ منافق کے درجے میں ہوں اپنی عبادت گاہ مسجد کے نام سے نہیں بنائے اگر بنائیں تو وہ ان کے ایک مجاز جنگ کے طور پر استعمال ہوگی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔

اذان کے بارے میں چند گزارشات یہ ہیں

قرآن کریم کی تین آیات میں نماز کے لیے بلاوے کا ذکر ہے:

۱..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْخُلُوا إِذْنَكُمْ هَزِوْا وَ لَعْبَاً مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارُ أُولَئِكَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . وَإِذَا نَادَيْتُمُ الْأَصْلُوَةَ اتَّخُذُوهَا هَزِوْا وَ لَعْبَا . (المائدہ ۵۸)

۲..... وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِنْ دُعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ أَنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . (حجہ ۲۳)

۳..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَوْدَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجَمْعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ . (الحجہ ۵۸)

ان تینوں آیات میں اذان کے بارے میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے چلی اور تیسری آیات میں ابتداء میں یا ایها الَّذِينَ آمَنُوا کا ذکر ہے دوسری آیت کے آخر میں اذان دینے والے کے مسلمان ہونے کا ذکر

اننى من المسلمين کے الفاظ میں مذکور ہے۔

قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے اذان دینا مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کریم اور حدیث میں کہیں ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں نماز کے لیے اذان کسی غیر مسلم نے دی ہو، پس اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔

نوٹ روايات میں ایک غیر مسلم بچے ابو محمد وردہ کا اذان دینا مردی ہے یہ اذان نماز کے لیے نہ تھی۔ بچے بھی مذاق میں کلمات اذان نقل کر رہے تھے۔ پھر حضور ﷺ نے جب اس سے اذان کہلوائی تو یہ بھی نماز کے لیے نہ تھی مخن تعلیماً تھی اور حضور ﷺ کی توجہ سے ایمان ابو محمد وردہ کے دل میں اتر رہا تھا چنانچہ وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔

حضرت اُنہیں کہتے ہیں آنحضرت ﷺ جب کسی قوم پر پڑھائی کرتے تو رات کے پچھلے حصے میں اذان کی طرف توجہ رکھتے اگر اذان سن لیتے تو ان پر حملہ نہ کرتے ورنہ غرباً جاری رکھتے۔ صحیح بخاری میں ہے:

فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمِعْ أَذَانًا غَارٌ عَلَيْهِمْ.

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۶ باب ما مکن بالاذان من الدمام)

اس سے پتہ چلا کہ اذان وہاں کے لوگوں کا انتیازی نشان ہے جہاں اذان سنی جائے گی وہیں کے لوگوں کو مسلم سمجھا جائے گا۔ اب اگر غیر مسلم کو بھی اذان دینے کی اجازت ہو تو اذان سننے ہی جنگ سے رک جانا اور ہتھیار پیچھے کر لینا اس پر عمل کیسے ہو سکے گا۔ قادیانیوں کو اذان کی اجازت دینے سے اس قسم کی احادیث عملاً معطل ہو کر رہ جائیں گی۔

اذان علمات اسلام میں سے ہے۔ علامہ ابن حامن الحنفی رحمہ اللہ (۲۸۱ھ) لکھتے ہیں:

الآذان من اعلام الدين. (فتح القدیر ج ۲۰۹ ح اباب الاذان) "اذان دین اسلام کی علمات میں سے ہے"

علامہ ابن حبیم "بھی" لکھتے ہیں "الآذان من اعلام الدين". (ابرارائق ج ۱۵۵ باب النذان)

علامہ شافعی "بھی" اذان کو شعائر اسلام میں سے کہتے ہیں "الاذان من اعلام الدين"

(رواہ حکیم رص ۲۸۳ ج اباب الاذان)

فقہ حنبلی کی معتبر کتاب المغني لابن قدامة (۲۲۰ھ) الحنبلی میں ہے:

ولا يصح الآذان الا من مسلم عاقل ذكر فاما الكافر والمجون فلا يصح منها لا نهما

(المغني مع شرح الکبیر ص ۲۲۹)

فقہ حنفی کی تعلیم بھی یہی ہے کہ کافر اذان نہ دے۔ علامہ شافعی لکھتے ہیں:

الله يصح اذان الفاسق وان لم يصل به الاعلام اي الاعتماد على قبول قوله في دخول

الوقت بخلاف الكافر وغير العاقل فلا يصح اصلاً. (رواہ حکیم رص ۲۸۹ ج اباب الاذان)

فاسق کی اذان معتبر ہے اگرچہ اس سے صحیح اطلاع نہ ہو پائے یعنی نماز کا وقت ہو جانے میں اس کے

قول پر اعتماد نہ ہے لیکن کافر کی اذان اور غیر عاقل کی اذان بالکل ہونہیں پاتی۔" (یعنی وہ اذان نہیں ہے)

فقہ شافعی میں بھی مسئلہ اسی طرح ہے:

ولا يصح الآذان الا من مسلم عاقل فاما الكافر والمجون فلا يصح اذانهما لأنهما ليسا

من اهل العبادات. (ابجوب شرح المهدب ج ۳ ص ۹۸) "مسلم عاقل کے سوا کسی کی اذان معتبر نہیں کافر اور پاگل کی

اذان معتبر نہیں کیونکہ یہ دنوں عبادت کے اہل ہی نہیں۔“

سورہ الجمعد کی آیت ۹ یا یہاں الدین امنوا اذانو دی للصلوٰۃ میں لفظ نودی مجہول کا صیغہ ہے جس کا فاعل مذکور نہیں۔ آیت کا حاصل یہ ہے۔ اے ایمان والو جمود کے دن جب بھی نماز کے لیے تحسین آواز دی جائے تم نماز کے لیے دوڑ کر آؤ۔ پس اگر غیر مسلموں کی بھی اذانیں ہوں اور ان کی بھی مسجدیں ہوں اور مسلمانوں پر اذان سنتے ہی اوھر آنا ضروری ٹھہرے کیونکہ یہاں نودی کا فاعل مذکور نہیں اور اس طرح مسلمانوں کی نمازیں ضائع ہونے کے موقع عام ہوں تو کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ غیر مسلموں کو اذان دینے کا اصولاً حق نہ تھا اور اگر مسلمان ان ندوں پر حاضر نہ ہوں تو اس طرح کیا یہ آیت اپنے عموم میں عملاً معطل ہو کر رہ جائے گی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اذان مسلمانوں کا شعائر ہے اور کسی مذهب کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ورنہ یہ شعائر اسلام نہ رہے گا۔ فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

الاذان سنة لادة المكتوبة بالجامعة عرف ذلك بالسنة واجماع الامة وانه من شعائر الاسلام حتى لو امتنع اهل مصر او قرية او محلة اجبرهم الامام فان لم يفعلوا فالله لهم.

(فتاویٰ قاضی خان، بحاشیہ فتاویٰ عالمگیرج ص ۲۹)

”اذان فرض نماز باجماعت پڑھنے کے لیے سنت ہے۔ یہ سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے اور یہ پیش شعائر اسلام میں سے ہے۔ اگر کسی شہر یا قبیلے یا محلے کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دیں تو امام انھیں مجبور کر کے اذان جاری کرائے گا پھر بھی نہ کریں تو ان سے جہاد کرے گا۔“

فقہاء نے تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ جہاں اذان ہوتی ہو وہاں ذمی لوگ برسراں ناقوس بجا کیں اور مسلمانوں سے ایک طرح کا مکراہ ہو۔ بلکہ انھیں ان کی عبادت گاہوں کے اندر محدود کیا گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اذانوں کے مقابلہ میں غیر مسلم اپنی اذانیں دیں اور مسلمانوں کے لیے التباہ پیدا کریں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمدؐ لکھتے ہیں:

وَكَذَلِكَ ضُرُبُ الناقُوسَ لَمْ يَمْنَعُوهَا إِذَا كَانُوا يَضْرِبُونَهُ فِي جَوْفِ كَنَاسِهِمُ الْقَدِيمَةِ فَإِنْ أَرَادُوا الضُّرُبَ بِهَا خَارِجًا فَلَيْسَ يَنْهَا إِنْ يَتَرَكُوا لِيَفْعُلُوا ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعَارِضَةِ اذانِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصُّورَةِ (سیر کیرج ص ۲۶۲ باب مالا یکون لاهل العرب الخ)

”اور اہل ذمہ کو اگر وہ ناقوس اپنے پرانے عبادت خانوں کے اندر ہی بجا کیں اس سے روکا نہ جائے گا اگر وہ باہر ناموں بجانا چاہیں تو انھیں ایسا کرنے نہ دیا جائیگا کیونکہ اس میں ظاہراً ان کا اذان سے معارضہ ہو گا۔“ اسلام کی امتیازی علامات ایک دو نہیں متعدد ہیں انھیں زمانی، مکانی، علماتی اور مررتی کئی جہات سے دیکھا جاسکتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ محدث دہلوی نے ایک بحث میں انھیں ذکر کیا ہے۔ اذان اور مسجد اس فہرست میں مذکور ہیں تاہم احاطہ ان میں بھی نہیں ہے۔

”شعائر اللہ در عرف دین مکانات و ازمنہ و علامات و اوقات عبادت را گویند اما مکانات عبادت پس مثل کعبہ و عرفہ و مزدلفہ و جمار ملائشہ و صفا و مردہ و منی و جمع مساجد اندو ما ازمنہ پس مثل رمضان و اشهر حرم و عید الفطر و عید الغدر و جمہ و ایام تشریق اندو اعلامات پس مثل اذان و اقامات وختنه و نماز بجماعت و نماز جمعہ و نماز عیدین اندو درہمہ ایس چیز ہا معنی علامت بودن مستحق است۔“ (تغیریق العزیز ص ۵۶۹ مطبوعہ دہلی)

مسجد اور اذان شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اس کا مرزا غلام احمد قادریانی نے بھی اقرار کیا ہے۔ مرزا قادریانی لکھتے ہیں:

”سکھوں کی مختلف حکومتوں کے وقت میں ہم پر اور ہمارے دین پر وہ مصیبیں آئیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور بلند آواز سے اذان دینا بھی مشکل ہو گیا اور پنجاب میں دین اسلام مرپکا تھا۔ پھر اگریز آئے اور انگریز کیا ہمارے نیک طالع پھر ہماری طرف واپس آئے اور انھوں نے دین اسلام کی حمایت کی..... اور پھر مدتِ دراز کے بعد پنجاب میں شعائر اسلام دکھائی دیئے۔“ (مفردات الامام ص ۲۳ خزانہ حج ۱۳ ص ۹۸)

اب اس سے زیادہ مسلمانوں کی مظلومی کیا ہو گی کہ خود دارالاسلام (پاکستان) میں شعائر اسلام خاصاً مسلمانوں کا نشان نہ رہیں اور غیر مسلم گروہ مسلمانوں کے ان شعائر میں شریک رہے۔ غیر مسلم قادریانی مسلمانوں کو کافر بھی کہیں اور ان کے شعائر میں التباس پیدا کریں اور خود انہی شعائر کو اپنا کیں اس سے بڑھ کر ان شعائر اسلام کی اور کیا بے حرمتی ہو گی؟ اب جبکہ صدر مملکت نے اس آرڈننس کے ذریعے مسلمانوں کے ان شعائر کو تحفظ دیا ہے تو ان کا بے جا استعمال کرنے والی غیر مسلم قوم محض اس لیے نالاں ہے کہ مسلمان انھیں اپنے ہاں گھنے کا موقع کیوں نہیں دیتے۔ مرزا محمود ایک اور بحث میں لکھتے ہیں:

”شعائر اسلام کی ہٹک کرنے والا شخص قابلِ حرم نہیں ہو سکتا۔“

(ملائکۃ اللہ ص ۸۰ تقریر مرزا محمود قادریانی ۲۷ دسمبر ۱۹۲۰ء قادریان)

لازم ہے کہ اسلامی سلطنت میں مسلمان سربراہ شعائر اللہ کی پوری حفاظت کرے۔

شعائر اسلام کی حفاظت امام کے ذمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلم سربراہ کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ منکرات کے خلاف آرڈننس نافذ کرے۔ ایسے ہی یہاں نبی عن المنکر سے ذکر کیا گیا ہے:

الذین ان مکناهم فی الارض اقامو الصلوة واتوا الزکوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبة الامور۔“ (انج ۳۱)

انہی ذمہ داریوں کو شرح موافق المرصد الرابع المقصد الاول کے تحت ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ہی خلافة الرسول فی اقامة الدين و حفظ حوزة الملة بحیث یجب اتباعه علی کافة الامة وبهذا القید الاخير یخرج من ينصبه الامام فی ناحية كالقاضی۔ (ص ۲۹۷) ”یہ رسول کریم ﷺ کی نیابت ہے اقامت دین میں حوزہ ملت کی حفاظت میں بائیں طور کہ اس کی اتباع ساری امت پر لازم آئے۔ اس قید اخیر سے وہ شخص نکل جاتا ہے جسے امام کسی علاقہ میں قاضی بنا کر سمجھے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی نیابت رسول کی بھی تعریف کی ہے:

ہی الیکسراۃ العالمة فی التصدی لاقامة الدين باحیاء العلوم الدينية واقامة اركان الاسلام ورفع المظالم والامر بالمعروف والنهی عن المنکر نیابة عن النبی ﷺ۔ (ازال الخفاء مقصد الاول ص ۲) ”یہ تمام سربراہی ہے اقامت دین کے لیے جو دینی علوم کے احیاء اور ارکان اسلام کے قائم کرنے کے لیے ہو اور رفع مظالم کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے اور نبی عن المنکر کے لیے بائیں طور کہ اس سے حضور ﷺ کی نیابت کرتا ہو۔“

امام جس طرح ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرے گا دین کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی

اس کے ذمہ ہوگی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسلام کی ان نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسیلمہ کذاب پر چڑھائی کی تھی۔ حالانکہ وہ رسول کریم ﷺ کی رسالت کا قائل تھا اور اس کی اذانوں میں حضور ﷺ کی رسالت کا اقرار پایا جاتا تھا۔

امام کے ذمہ حوزہ اسلام کی حفاظت اس طرح ہے کہ شعائر اسلام کے ساتھ تمام افراد اسلام کے دینی تحفظ کی بھی اس میں پوری ذمہ داری ہو۔ ان کے دینی تقاضوں اور دیگر اہل ذمہ کے مذہبی امور میں اگر کہیں تصادم ہوتا ہال ذمہ پر پابندی لازم آئے گی کہ وہ کھلے بندوں اپنے شعائر کا اظہار نہ کریں۔

اہل ذمہ کے مذہبی شعائر پر پابندی اسلامی سلطنت میں ذمی لوگوں کو اپنے مذہبی شعائر اپنی عبادت گاہوں تک محدود رکھنے کا حکم ہے۔ کھلے بندوں وہ ان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ امور ہیں جن میں مسلمانوں کے لیے کوئی وجہ التباس نہیں لیکن جو غیر مسلم مسلمانوں کی سی اذانیں دیں اور اس میں ہر لمحہ مسلمانوں کے لیے اشتباہ کا سامان ہو انھیں اس درجہ میں بھی اذان دینے کی اجازت دینا مسلمانوں کی عبادت اور ان کے شعائر کو خطرہ میں ڈالنا ہوگا۔ بخدا یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر عبدالکریم زیدان لکھتے ہیں:

للذميين الحق في اقامة شعائرهم الدينية داخل معابدهم و يمنعون من اظهارها في خارجها في أمصار المسلمين لأن أمصار المسلمين مواضع اعلام الدين و اظهار شعائر الاسلام من اقامة الجمع والاعياد واقامة الحدود ونحو ذلك فلا يصح اظهار شعائر تخالفها لما في هذا الاظهار من معنى الاستخفاف بال المسلمين والمعارضة لهم. (أحكام النكبات والمسايم في دارالاسلام ص ۱۹) ”زمیوں کو اپنی عبادت گاہوں کے اندر اندر اپنے مذہبی شعائر قائم کرنے کا حق ہے۔ باہر مسلمانوں کے علاقوں میں انھیں ان کے اظہار کی اجازت نہیں۔ مسلمانوں کے علاقے دین اسلام کے نشانوں کی جگہیں ہیں اور جمعہ و عیدین اور اقامت حدود وغیرہ شعائر اسلام کے اظہار کے مواضع ہیں۔ سو (اسلامی سلطنت میں) ایسے شعائر کا کھلا اظہار درست نہیں جو اسلامی شعائر کے خلاف ہو کیونکہ مسلمانوں کا استخفاف اور ان سے (ان کے شعائر میں) نکراؤ ہوگا۔“

مصالح عامہ کے لیے تعزیر کا اجراء شریعت کا عام ضابطہ تو یہی ہے کہ اسلامی سربراہ انہی کاموں پر تعزیر جاری کر سکتا ہے جو حرام لذاتہ ہوں اور ان کی حرمت منصوص ہو لیکن امام مصالح عامہ کے لیے اگر کسی ایسی چیز پر تعزیر کا حکم دے جس کی حرمت منصوص نہیں تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے اس سے زیادہ مصلحت عام کیا ہوگی کہ دارالاسلام میں عامۃ المسلمين کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور انھیں الحاد و ارتداء کے ہر مظہر التباس سے بچانے کے لیے اسلامی سربراہ آرڈیننس نافذ کرے۔

جناب عبدالقدار عووه لکھتے ہیں:

الشريعة تجيز استثناء من هذه القاعدة العامة ان يكون التعزير في غير معصية اى في ماله ينص على تحريمها للذاته اذا اقتضت المصلحة العامة التعزير والافعال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثناء ولا يمكن تعينها ولا حصرها مقدما لانها ليست محرومة للذاتها وانما تحرم لوصفها فان توفر فيها الوصف فهي محرومة وان تختلف عنها الوصف فهي مباحة والوصف الذى جهل علة للعقاب هو الاضرار بالمصلحة العامة او النظام العام فإذا توفر هذا الوصف في فعل او حالت استحق العجائبي العقاب. (لتشریع ابتعانی الاسلامی ص ۱۳۹ - ۱۵۰ طبعہ ۱۹۵۹ء) ”شریعت اس عام قاعدے استثناء کی اجازت دیتی

ہے کہ جب مصلحت عامہ کا تقاضا ہو تجزیر ان کاموں پر بھی لگ سکے گی جو مصحت نہیں یعنی ان کے حرام لذات ہونے پر نفس وار نہیں اور وہ افعال اور حالات جو استثناء کے ذیل میں آ سکتے ہیں ان کی گفتگی اور احاطہ پہلے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حرام بالذات نہیں اپنے وصف سے وہ حرام ہو رہے ہیں۔ ان میں چتنا یہ وصف زیادہ ہو گا اتنی ہی ان کی حرمت ہوگی۔ یہ وصف نہ پایا جائے تو وہ کام مباح ہوں گے جو وصف سزا دینے کی علت تھا ہر ایسا گیا ہے وہ مصلحت عامہ یا ملک کے نظام عام کو نقصان پہنچانا ہے کسی کام یا حالات میں یہ صورت ہو تو قصور و ارسا کا مستحق ہے۔“
مولانا عبدالجی لکھنؤی بھی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

دررسال جامع تجزیرات از بحر الرائق منقول است السياسة فعل ينشأ من الحكم لمصلحة يراها وان لم يرد بذلك دليل جزئي. جامع تجزیرات میں البحر الرائق سے منقول ہے کہ سیاست (سزادینا) ایک فعل ہے جو حاکم سے صادر ہو اسکی مصلحت کے لیے جس کو وہی جانتا ہو۔ گواں کے لیے کوئی جزئی وارونہ ہوئی ہو۔“
(مجموعہ فتاویٰ عبدالجی جلد ۲ ص ۳۲۷ علی حاشیہ غلام صفت القاتل کتاب المحدود)

اور اسی میں یہ ہے:
”سیاست نوع از تجزیر است کہ در عقوبات شدیدہ مثل قتل و جسیں مبتدا و اخراج بد مستعمل می شود۔“
(مجموعہ فتاویٰ عبدالجی علی حاشیہ غلام صفت القاتل ج ۳ ص ۳۳۸)
”سیاست ایک طرح کی تجزیر ہے یہ لفظ سخت سزاوں جیسے قتل بھی قیدیں اور جلاوطن وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔“

سربراہ سلطنت اسلامی جو ایسا کرنے کا مجاز ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ بطور غیفہ منتخب ہوا ہو۔ ہر وہ سربراہ جس کو تسلط اور غلبہ حاصل ہو وہ ایسے احکامات جاری کرنے کا مجاز ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں:
”معتبرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو تسلط حاصل ہو خواہ بادشاہ اسلامی ہو یا صوبیدار وغیرہ۔“

(حاشیہ غاییۃ الادوار ج ۲ ص ۸۳)

جب یہ معلوم ہو گیا کہ مسلم سربراہ سلطنت بعض ان کاموں سے بھی روک سکتا ہے جو اپنی ذات میں تو ناجائز ہوں لیکن اپنے کسی خاص وصف یا حالت میں مصالح عامہ کے خلاف ہوں اور ان تجزیر کی لگاسکتا ہے تو اب ان چند کاموں کا بھی جائزہ لیں جو اپنی ذات میں نیکی ہیں مگر اپنے وصف میں مقارن بالمحضیت ہو جاتے ہیں کیا ان سے روکا جاسکتا ہے؟

جو نیکی مقارن بالمحضیت ہو اس سے روکنا اس کے لیے مندرجہ ذیل آیات قرآنی اور احادیث مقدسہ سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے:

۱..... نماز پڑھنا اپنی ذات میں اطاعت ہے لیکن یہ مقارن بالمحضیت ہو (کہ نشے کی حالت میں پڑھی جائے) تو اس سے روکا جاسکتا ہے۔ لا تقربوا الصلوٰة و انتم سکاری حقی تعلموا ماتقولون۔ (النساء ۳۳) ”اے ایمان والوزد یک نہ جاؤ نماز کے اس حالت میں کتم نشہ میں ہو تو فتنیکم جان لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔“

۲..... قرآن پاک کو چھوٹا نیکی ہے لیکن نایا کی کی حالت میں اسے چھوٹے سے روکا جاسکتا ہے۔ لا یمسه الا المطهرون (الواقفہ ۹۷) ”نہیں چھوٹے اسے مگر پاک۔“

۳..... آنحضرت ﷺ حضرت عمرو بن حزم کے نام جو تحریر بھی اس میں رقم تھا:
لایمس القرآن الا طاهر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے بغیر وضو مجده کرنے سے منع فرمایا حالانکہ خدا کو

مجده کرتا اپنی ذات میں ایک بڑی نیکی تھی۔ عن ابن عمر انه کان يقول لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن الا وهو ظاهر قال محمد ولهمَا اكله ناخذ و هو قول أبي حنيفة۔ (مَوْلَانَا مُحَمَّد ص ۱۲۳ باب مِنَ الْقُرْآن بِغَيْرِ طَهَارَة)

”حضرت عبد اللہ بن عمرؓ رکتے تھے کہ آدمی نہ فضو کے بغیر مجده کرنے نہ بغیر طهارت قرآن پڑھے امام محمد کہتے ہیں کہ ہم اس پر ہی فتویٰ دیتے ہیں اور یہی امام ابوحنینؓ کا فیصلہ ہے۔“

۳.....حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

لا صلوٰۃ بعد الصلوٰۃ العصر حتی تغرب الشمسم ولا صلوٰۃ بعد صلوٰۃ الفجر حتی تطلع

(صحیح مسلم ص ۵۷۴ ج ۱ باب الاوقات التي تحيى عن الصلوٰۃ)

۵.....مرزا غلام احمد قادریانی سے پوچھا گیا کہ کیا ہم غیر احمدیوں کے ساتھ مل کر تبلیغ اسلام کر سکتے ہیں؟ تبلیغ اسلام بلاشبہ ایک نیکی اور اطاعت ہے مگر اس اشراک میں چونکہ مرزا غلام احمد قادریانی کی نبوت نہ آتی تھی مرزا قادریانی نے اس کی اجازت نہ دی۔ (دیکھئے ذکر حبیب ص ۱۳۷ امؤلفہ منظی محمد صادق قادریانی)

اس میں شبہ نہیں کہ نفل نماز اپنی جگہ ایک بڑی نیکی ہے لیکن بعض دوسری مصالح کے پیش نظر اس سے ان خاص حالات میں روکا گیا۔ ان اوقات میں نماز پڑھنا فی نفسہ کوئی عیب بھی نہ تھا لیکن کسی درجہ میں سورج پرست قوموں کے قرب کا سبب ہو سکتا تھا اس لیے یہ حالت جو کسی مھصیت کا سبب ہو سکتی تھی۔ اس میں نماز سے بھی روک دیا گیا جو اپنی ذات میں بڑی نیکی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نیکی مقارن بالمحصیت ہو وہ اس حالت کی وجہ سے برائی قرار دی جا سکتی ہے اور مصالح عامہ کا تقاضا ہو تو اس پر تعریر بھی جاری کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کا اشهاد ان لا الہ الا اللہ کہنا یا اشهاد ان محمدًا رسول اللہ کہنا یا اذان دینا اگر مسلمانوں میں التباس پیدا کرنے کا موجب ہو تو قرآن بالمحصیت کے باعث یہ کلمات کہنا بھی نیکی نہ رہا۔ اس صورت میں اسلامی مملکت کے سربراہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اسے جرم قرار دے اور مصالح عامہ کے لیے اس پر تعریر بھی جاری کرے۔

۵.....قرآن پھیلانا اور اس کی دعوت کافروں تک پہنچانا اپنی ذات میں ایک بڑی نیکی ہے:

واوحقى الى هذا القرآن لا نلر كم به ومن بلغ۔ (الانعام ۱۹) لیکن ایسے حالات ہوں کہ غیر مسلم اقوام کی طرف سے مصحف پاک کی توہین کا مظہر ہو تو قرآن ان کے ہاں لے کر جانا منوع ٹھہرا۔ حالانکہ ایسے حالات میں بھی صحابہ تعلیم قرآن جاری رکتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ رکتے ہیں۔

ان رسول اللہ ﷺ نہی انسافر بالقرآن الى ارض العدو۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۲۰ باب کراهة السفر بالمحاصف الى الارض العدو)

۶.....کعبہ شریف میں حطیم پر چھت نہیں حالانکہ وہ کعبہ کا جزو ہے بناء ابراهیم میں یہ جگہ بھی چھت میں تھی حضور ﷺ کی پسند تھی کہ حطیم بھی کسی طرح چھت کے نیچے آجائے۔ تعمیر کعبہ سے زیادہ اور نیکی کیا ہو سکتی تھی۔ لیکن محض اس لیے کہ اسلام میں نئے نئے آئے ہوئے لوگ اسے توہین کعبہ نہ سمجھ لیں اور اسلام سے برگشت نہ ہو جائیں۔ آپ ﷺ نے کعبہ کی تعمیر جدید کا اقدام نہ فرمایا۔ کیونکہ یہ نیکی اس صورت میں مقارن بالمحصیت ہو سکتی تھی۔ آپ ﷺ نے اپنی خواہش کا حضرت عائشہ صدیقہؓ سے اظہار فرمایا اور تعمیر کعبہ کو بناء ابراهیم پر نہ لوٹانے کی یہی وجہ بیان فرمائی۔

لولا حداثة عهد قومك بالكفر لتفصت الكعبة ولجعلتها على أساس ابراهيم.

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۹ باب نقض الكعبة وبناها)

”اگر تیری قوم نبی کفر سے نہ لکھی ہوتی تو میں کعبہ کی عمارت گرا کر اسے اساس ابراہیم پر لوٹا دیتا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کے مقابل بالمعصیت ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو اسے عمل میں لانے کا جواز نہیں رہتا۔ اس سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔

..... حضرت عمرؓ نے مسلمانوں کے دین اور اسلامی تہذیب کو غیر اسلامی اثرات سے بچانے کے لیے ال ذمہ پر جو شرطیں عائد کیں ان میں یہ شرط بھی تھی:

ولا يعلم اولادنا القرآن. (أحكام الـ ذمـةـ لـ ابنـ الـ قـيـمـ جـ ۲ صـ ۶۶۱ـ کـنزـ الـ عـالـمـ جـ ۲ صـ ۵۰۲ـ نـبـرـ ۱۱۳۹۳ـ شـرـوطـ الصـارـىـ) تعلیم قرآن نیکی ہے اس کے نیکی ہونے میں شبہ نہیں مگر اس پہلو سے کہ ذمی بچے اسے سیکھ کر مسلمان بچوں سے بحث و مباحثہ کرتے پھریں گے یا ذمیوں کے بچے کہیں اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اُسیں قرآن سیکھنے سے منع کر دیا گیا۔

علامہ ابن حزم اس شرط کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: ولا يعلم اولادنا القرآن. (الجھلی ج ۷ ص ۲۵۶) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیکی مقابل بالمعصیت ہونے کا احتمال بھی رکھتی ہو اس سے منع کرنے میں کوئی حرج نہیں اور امام اگر اس روکنے میں مصلحت عامہ سمجھے تو اس کے مرتكب پر تحریک بھی جاری کر سکتا ہے۔

شعار مرتبی کا تحفظ جس طرح شعائر مکانی (جیسے کعبہ اور مسجدیں) شعائر زمانی (جیسے رمضان اور جمعہ) شعائر عملی (جیسے نماز کے لیے اذان دینا) کی تقطیم و توقیر مسلمانوں پر واجب ہے۔ مسلمانوں کے شعائر مرتبی کا تحفظ و اکرام بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ مسلمانوں کے نام جوان کے دین کا پتہ دیں اور ان کے اعتقادی اور انتظامی مدارج و مراتب (جیسے صحابہ اور ام المؤمنین اور اہل بیت جیسے القاب اور امیر المؤمنین جیسے مراتب) جوان کی تاریخ اور اقتدار کے امتیازی نشان ہوں ان سب کا اکرام و احترام مسلمانوں کے ذمہ ہے اور مسلم سربراہ کے ذمہ ہے کہ وہ ان شعائر مرتبی کو غیر مسلم اقوام میں بے آبرو نہ ہونے دے۔ حضرت عمرؓ نے ماتحت غیر مسلم لوگوں سے جو عہد لیا اس میں یہ الفاظ بھی ملئے ہیں۔

ولا ينكحوا بكتاهم (الجھلی ج ۷ ص ۲۵۷) مسلمانوں کی کنیتیں اختیار نہ کریں گے۔ کنیت کا لفظ کنایہ سے ہے اور اس سے نسبتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اس اصولی شرط کو اگر کچھ وسعت نظری سے دیکھیں تو اس سے مسلمانوں کے تمام شعائر مرتبی کا تحفظ لازم آتا ہے اور اسلامی سربراہ کے ذمہ ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے آرڈی نیس جاری کرے۔ اسی طرح جو نام شخص بالسلیمین ہیں غیر مسلموں کو وہ نام رکھنے کی اجازت نہیں۔ فھدا لا يمكرون من التسمى به۔ (البطحاوی ج ۲ ص ۲۷۲ فصل فی المجزیہ)

قرآن کریم میں امام المؤمنین کا اعزاز صرف حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کو دیا گیا ہے۔ دنیا کی کسی اور عورت کو نہیں۔ حقیقت میں حضور ﷺ کا اعزاز ہے کہ ان کی ازواج امہات المؤمنین سمجھی جائیں۔ یہ اعزاز دنیا میں کسی اور شخص کا نہیں اور اس کی نسبت سے اس کی بیوی کو امام المؤمنین کہا جاسکے۔ مسلم عوام کسی دوسری محترمہ کو مادر ملت اور دلیل تو ان کا یہ احترام کسی کی بیوی ہونے کے پہلو سے نہیں۔ بیوی ہونے کے پہلو سے یہ اعزاز صرف حضور نبی اکرم ﷺ کا ہے کہ ان کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جائے۔

قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو مرزا کی نبوت کی نسبت سے ام المؤمنین کہتے ہیں اور یہ اسلام کے شعائر مرتبی کی ایسی بے حرمتی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اس کی نظر نہ ملے گی۔ نبوت کی نسبت سے حضور ﷺ کی ازواج کے سوا آج تک کسی کو ام المؤمنین نہیں کیا گیا اور نہ اسے کبھی کسی نے گوارا کیا ہے۔ قادیانیوں نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو نبوت کی نسبت سے ہی ام المؤمنین کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیراؤں میں مرزا قادیانی کی نبوت کے بارے میں ۱۹۳۷ء میں راولپنڈی میں ایک مباحثہ ہوا تھا جسے قادیانی سے مباحثہ راولپنڈی کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس میں قادیانی گروہ نے مرزا قادیانی کے لاہوری پیراؤں کو کہا تھا۔

”فرمائیے آپ لوگ بھی حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین کہتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ نے عقیدہ میں تبدیلی کر لی اگر کہتے ہیں تو حضرت اقدس کے ارشاد کے ماتحت کہ قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کو موننوں کی ماں میں قرار دیا گیا ہے آپ کے لیے ضروری ہو گا کہ اب حضرت اقدس کو نبی تسلیم کر لیں۔“

(مباحثہ راولپنڈی میں ۱۹۳۷ء)

اسی طرح صحابہ کا لفظ بھی جب مطلقًا بولا جائے تو یہ اپنے اندر نبوت کی نسبت رکھتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ لفظ صرف حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کا اعزاز ہے۔ نبوت نسبت سے کسی شخص کو صحابی کہنا حضور ﷺ کے صحابہ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت نہیں۔ قادیانی بھی اسی نسبت سے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھیوں کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حکیم نور الدین یا مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھیوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے یہ تابیٰ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ حضور ﷺ کے صحابہؓ اور تابعینؓ سے صریح معارضہ نہیں؟

اسی طرح رضی اللہ عنہ کا اعزاز بطور طبقہ صرف صحابہ کرامؓ کی ہی شان ہے امت کے کسی بڑے سے بزرگ کے بطور طبقہ کہیں رضی اللہ عنہ نہیں کہا گیا۔ بعض بزرگوں کے لیے جو کہیں کہیں رضی اللہ عنہ کے الفاظ ملتے ہیں وہ ان پر بطور طبقہ نہیں بولے گئے ان کے شخصی مقام و احترام کے باعث ایک ملکہ دعا ہے لیکن مرزا قادیانی کے پیروز مرزا قادیانی کے ساتھیوں کے لیے مرزا قادیانی کی نبوت کی نسبت سے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے ہاں رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز حضور ﷺ کی نسبت سے بطور طبقہ آپ ﷺ کے صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی درحقیقت حضور ﷺ کا اعزاز ہے کہ آپ ﷺ کی محبت پانے والا ہر موسوٰ (گواں نے ایک محمد ایمان کے ساتھ آپ ﷺ کا دیدار کیا ہو) رضی اللہ عنہ کی شان پا سکے۔

اسی طرح امیر المؤمنین یا امام اسلامین ایسے انتظامی مراتب ہیں کہ سوائے مسلمان کے انھیں کوئی نہیں پا سکتا۔ کسی غیر مسلم سربراہ پر ان مراتب کا اطلاق قرآنی آیت لن یجعل اللہ للكافرین علی المؤمنین سبیلا (الناء، ۱۹۳۷ء) کے خلاف ہے۔

فقہاء کرام نے ان ناموں کی بھی نشاندہی کر دی ہے جو مسلمانوں کے شعائر ہیں علامہ طحاؤی درختار کی شرح میں لکھتے ہیں:

فی جواز تسمیتهم باسماء المسلمين تفصیل ذکرہ ابن القیم فقسم يختص بالمسلمین
فلا ول کمحمد واحمد وابی بکر وعثمان وعلی وطلحة والزبیر لهذا لا يمكنون من
السمی به (طحاؤی ج ۲ ص ۲۳، فصل فی الجزیہ) ”اہل ذمہ مسلمانوں کے سے نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں اس کی تفصیل

بہے جو ان قسم نے ذکر کی ہے۔ کچھ وہ نام ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص ہیں جیسے محمد، احمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، علجر اور زیریہ نام رکھنے کی انھیں (غیر مسلموں کو) اجازت نہ دی جاسکے گی۔“

اسلام ایک بسیط حقیقت ہے کسی چیز کے بسط ہونے سے مراد اس کا ناقابل تقسیم ہوتا ہے۔ لفظ بساط ترکیب کے مقابلہ میں ہے۔ اسلام ایک بسیط حقیقت ہے یہ ہوگا تو پورا ہوگا، نہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص پورا اور کوئی آدھا مسلمان ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام ناقابل تقسیم ہے۔ اسلام کے مقابلے میں کفر ہے۔ یہ درست نہیں کہ کوئی شخص آدھا مسلمان ہو اور آدھا کافر۔ اسلام کسی پہلو سے قابل تقسیم نہیں۔ ایک شخص پورا مسلمان ہونے کے باوجود یہکہ یا گھنگھار ہو سکتا ہے لیکن اس کے پورا مسلمان ہونے میں کوئی شک نہ کیا جاسکے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
..... هو اللہی خلقکم فمنکم کافرو و منکم مؤمن۔ (التحان: ۲) ”وہی ہے جس نے تھیس پیدا کیا سوتھ میں کافر ہیں تم میں سے مؤمن ہیں۔“

اس آیت کی رو سے انسان یا مؤمن ہوں گے یا کافر۔ دونوں کے میں میں کوئی تیسری قسم نہیں۔ مافق کافروں کے ہی ایک طبقے کا نام ہے الٰل کتاب بھی کافروں کی ہی ایک قسم ہے۔ مرتد اور زندقی بھی کفار ہیں۔ کفر کسی رنگ اور میرایہ میں ہو کفر ہی ہے اور تمام الٰل کفر درحقیقت ایک ہی ملت ہیں۔ الکفر ملة واحدة شہر میں ہے۔

۲..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي الْسَّلَمِ كَافِةً وَلَا تَتَّبِعُوا حَطَوَاتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُم عَذَابٌ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِنَ ۝ (البقرہ: ۲۸۸)
”اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بیٹک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔“

۳..... اگر کوئی شخص بعض ایمانیات کا اقرار کرے اور بعض کا انکار تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اس کچھ ایمان کا اعتبار ہوگا؟ کیا یہ نہیں کہ اس کے اس کچھ کفر کی وجہ سے اس کے کچھ ایمان کا کچھ لحاظ کیا جائے یا اسے پورا کفر ہی سمجھا جائے گا۔ اور اس کے بعض ایمانیات کا ہرگز کوئی اعتبار نہ ہوگا؟
اس سلسلہ میں اس آیت سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

وَيَقُولُونَ نَؤْمِنُ بِعِصْمٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَتَخَلَّلُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اولنک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا یماہ (الہماء: ۱۵۰) ”اور کہتے ہیں ہم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیچ کی راہ نکالیں۔ ایسے لوگ یقیناً ”کافر ہیں۔“

معلوم ہوا کہ اسلام میں کچھ مومن ہوتا اور کچھ کافر ہوتا اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں اس بیچ کی راہ کی کوئی قیمت نہیں ایسے لوگ پورے کے پورے کافر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آدمی مسلمان ہوں اور آدمی کافر، اسلام واقعی ایک بسیط حقیقت ہے جو قابل تقسیم نہیں۔

۴..... مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو مان کر اس کے ماتحت دیگر معبودوں پر ایمان رکھتے تھے۔ مسلمان صرف اللہ رب العزت کو مانتے تھے اور دیگر معبودوں کی خدائی کے مکر تھے۔ دونوں قوموں میں اللہ رب العزت نقطہ اشتراک تھا۔ مگر ان مشرکانہ اسلام میں کچھ اعتبار نہ کیا گیا اور حضور اکرم ﷺ نے بامر اللہی انھیں صاف کہہ دیا۔
لا اعبد مَا تَعْبُدُونَ (الكافرون). ”میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔“ کیا

حضور اکرم ﷺ اس معبودِ حقیقی کی عبادت نہیں کرتے تھے جسے وہ مشرکین بھی براخدا مانتے تھے؟ حضور ﷺ کا معبود تو پیش کر دیتے تھے لیکن ان کافروں کا معبود وہ نہ رہا۔ جب انھوں نے اس کے ساتھ اور کوئی خدائی میں شریک کر لیا۔ اب ان کفریات کے ہوتے ہوئے ان کے اقرار سے خداوند اکبر کا بھی اعتبار نہ رہا۔ اور وہ لوگ پورے کے پورے کافر قرار پائے۔ معلوم ہوا کہ اسلام ایک بسیط حقیقت ہے اور دین میں مسلمانوں اور کافروں کے مابین کوئی نقطہ اشتراک نہیں۔ اس اسلامی اشتراک کے باوجود انھیں اپنے سے کلی علیحدہ کر دیا گیا اور لكم دینکم ولی دین (تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین) کہہ کر تعبدی امور میں سے ہر قسم کی علیحدگی اختیار کر لی گئی۔

قرآن کریم کی یہ آیات تعبدی امور میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہر نقطہ اشتراک کا انکار کرتی ہیں مگر قادریانی لوگ اپنے لیے ایک نیا دائرة کھینچنا چاہتے ہیں کہ وہ بعض ضروریات دین کے انکار کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ ایک دائرة اسلام میں شریک رہیں۔ اپنے سوابا پاٹی کل مسلمانوں کو کافر سمجھنے اور کہنے کے باوجود مسلمان انھیں کسی نہ کسی پہلو سے دائرة اسلام میں اپنے ساتھ شریک رکھیں۔

قادریانی اپنے اس مفروضہ کے لیے درج ذیل آیات پیش کرتے ہیں۔

۱..... قالَ الْأَعْرَابُ أَهْمَا قَلَ لَمْ تَؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا إِسْلَمَنَا وَلَمَا يَدْخُلَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ . (الجراثیم ۱۲) ”اعرب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے آپ ان سے کہیں تم ایمان نہیں لائے البتہ تم یہ کہو ہم نے فرمان برداری قبول کر لی اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔“

۲..... قل يا اهل الكتاب تعالوا الى الكلمة سواء بنتنا و بينكم ان لانعبد الا الله . (آل عمران ۶۵) ”آپ کہیں اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلے کی طرف جو تمہارے اور تمہارے درمیان برادر ہے وہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔“

یہ آیات ان آیات کے خلاف ہیں جو اسلام کو ایک بسیط حقیقت کے طور پر پیش کرتی ہیں۔

پہلی آیت میں اعراب سے مراد جنگلوں میں رہنے والے وہ بدھیں جو تہذیب و تمدن سے دور اور ظاہری علم سے بے بہرہ تھے۔ یہ قحط زده ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں امداد کے لیے حاضر ہوئے اور اپنے اسلام لانے کا اخبار کیا۔ اور اپنے دعویٰ ایمان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ اعمال بھی مسلمانوں جیسے کرنے لگے تھے۔

یہ اس درجے کے نو مسلم تھے کہ ظاہری طور پر انتیاد کر کے ایمان کی سرحد پر آچکے تھے لیکن ایمان کا کل ابھی ان کے دل میں داخل نہ ہوا تھا۔ اس لیے اعمال میں وہ لوگ صادق عمل تھے۔

قرآن کریم نے شہادت دی ہے کہ وہ ایمان کی سرحد پر آچکے تھے۔ حضور ﷺ کی مخالفت کے ارادے ان کے دلوں میں نہ تھے اور امید کی جاسکتی تھی کہ آئندہ ایمان کا کل ان کے دلوں میں آ جگہ لے گا۔ صرف اتنا کہا گیا کہ ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ان کے ایمان کی سرحد پر آئنے کی شہادت اسی سورت کی آیت میں ہے:

يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ اسْلَمُوا قَلْ لَا تَعْمَلُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلَ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ . (الجراثیم ۱۷) ان ہذا کم لایمان کی روشنی میں لما یدخل الایمان کا مطلب ان سے ایمان کا کل کی لفی ہوگی۔ ایمان مطلق کی نہیں۔ اس تفسیر کی روشنی میں ان لوگوں کو کافرنہ کہا جائے گا۔ نفاق کا نقطہ کہیں ملے تو اس سے مراد نفاق عملی ہوگا جو ابتدائی درجے کے مسلمان میں بھی ہو سکتا ہے۔ پس اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ کافر

اور بے ایمان مسلمانوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں جمع ہو سکتے ہیں۔ صحیح نہیں۔ آیت کی ایک تفسیر موجود ہے جو اسلام کے ایک بسیط ہونے سے معارض نہیں اس کے لیے درج ذیل تفاسیر سے مزید راہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے:

جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کے کلبیۃ الشریعہ کے استاذ محمد علی الصابوی و لما یدخل الایمان (ابن تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا) کے لفظ لما (ابن تک) کے بارے میں لکھتے ہیں:

ولفظة لما تفيد التوقع كأنه يقول يحصل لكم الایمان عند اطلاعكم على محاسن الاسلام وندو فكم حلاوة الایمان قال ابن كثير هؤلاء الاعراب المذكورون في هذه الآية ليسوا منافقين وانماهم مسلمون لم يستحكم الایمان في قلوبهم فادعوا الانفسهم مقاماً على مما وصلوا اليه فاء بوافي ذلك.

(صغرة التفاسير حصہ ۱۶ ص ۲۳۲ طبع پشاور)

”اور لفظ لما امید کا پتہ دیتا ہے۔ گویا کہا گیا ہے کہ جب تم محاسن اسلام پر اطلاع پاؤ گے اور ہم تمھیں ایمان کی حلاوت پچھائیں گے۔ این کثیر نے کہا ہے کہ یہ اعراب جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ منافقین نہ تھے۔ یہ وہ مسلمان تھے کہ اسلام نے ابھی ان کے دلوں میں جڑنے پڑی تھی سوانحوں نے اپنے لیے اس سے اوپر درجے کا دعویٰ کیا جس مقام پر کہ وہ تھے سوان کی تاریخ کی گئی۔“

جامعہ ازہر مصر کے کلیی اصول الدین استاذ شیخ محمد محمود الجازی لکھتے ہیں:

قالت الاعراب امنا بالله ورسوله وهم في الواقع لم یؤمنوا ايماناً كاملاً خالصاً لوجه الله..... ثم عاد القرآن فجبر خاطرهم في نفي عنهم الایمان مع ترتيب حصوله لهم وقال لم یدخل الایمان قلوبكم اى الآن لم یدخل ولكن سيد خل فيها وهذا تشجيع لهم على العمل والدخول حقاً في صفو المؤمنين.

(الشیر الواضح ج ۲۲ ص ۶۷)

”یہ جنکی عرب کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور واقع میں وہ پورا ایمان جو خالصاً اللہ کے لیے ہو وہ نہیں لائے..... قرآن پھر اس مضمون کی طرف لوٹا اور ان کے دلوں پر ضرب لگائی اور ان سے ایمان کی نفی اس طرح کی کہ اس کے حاصل ہونے کی امید ساتھ ساتھ بندگی رہے۔ اور کہا کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا یعنی اب تک لیکن عقرب یہ (تمہارے دلوں میں) اتر جائے گا۔“

یہ ہیرا یہ بیان انھیں عمل پر ابھارنے کے لیے ہے اور مومنین کی صفوں میں حقیقی طور پر داخل ہونے کے لیے ہے۔ شیخ الاسلام پاکستان علامہ شیر احمد عثمانی اس آیت پر لکھتے ہیں:

ایمان ولیقین جب پوری طرح دل میں راخ ہو جائے اور جڑ پکڑ لے اس وقت غیبت اور عیب جوئی وغیرہ کی خصلتیں آدمی سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور آزار پہنچانے میں بتلا ہو سکھ جو کہ ابھی تک ایمان اس کے دل میں پوری طرح پیوست نہیں ہوا۔

اور آگے ہداکم للایمان پر لکھتے ہیں:

اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا رستہ دیا اور دولت اسلام سے سرفراز کیا۔

مرزا غلام احمد قادریانی کے پیرواؤں میں محمد علی لاہوری بھی لکھتے ہیں:

”مسلم تو ہر وہ شخص ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا خواہ ابھی اسلام کے احکام پر پورے طور پر عالی ہے یا نہیں اور خواہ دل میں وساوں بھی پیدا ہوتے ہیں..... یہاں ایمان کا مل یعنی اس کے تینوں پہلوؤں کا ذکر ہے۔“

(یہاں القرآن محمد علی لاہوری ص ۱۲۹۰)

محمد علی لاہوری نے یہاں ان نو مسلموں میں اسلام کے ساتھ کی عمل یا وساوس کو توجیح کیا ہے لیکن یہ انھوں نے بھی نہیں کہا کہ اسلام کے ساتھ صریح کفر بحث ہو سکتے ہیں۔

پھر یہ بات ایک وقتی بات تھی اور محض آئی تھی۔ اس لیے ان کا انقیاد ظاہری میں آنا لفظ اسلامنا سے بیان ہوا جو جملہ فعلی ہے تبلہ اسمیہ نہیں جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ پوری طرح مسلمان ہونے سے پہلے وہ اسلامنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر انھوں نے اپنے آپ کو بچالیا۔ جملہ اسمیہ میں محن مسلمون نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کی چودھ سو سالہ تاریخ میں ایک جزئیہ ایسا نہیں ملے گا جس میں کسی فرد یا طبقے کو اس کے کھلے کفری اعتقدات کے باوجود ظاہری اقرار شہادتیں (اظہار کلمہ توحید و رسالت) پر مسلم کہا گیا ہو۔ سو قادیانی حضرات کو اس آیت کی راہ سے داخل دائرہ اسلام ہونا قطعاً درست نہیں۔

اس دوسری آیت کو مجھے ہے قادیانی مسلمانوں کے ساتھ تبیدی امور میں شامل ہونے کے لیے دلیل اشتراک بتاتے ہیں۔ تعالوٰ الی کلمة سواء بیننا و بینکم۔ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہاں دو وال سامنے آتے ہیں۔

..... وہ کلمہ سواء کہ ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کیا اس وقت کے عیسائی اسے مانتے تھے یا وہ حضرت مسیح کو ابن اللہ کہہ کر تین خداوں کی خداوندی کے قائل تھے؟

۲۔ اگر وہ اس وقت توحید خاص کے مدعا نہ تھے تو قرآن نے اسے کلمہ سواء (مشترکہ بات) کیے کہہ دیا۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے قرآن پاک کی آیات صریحہ (المائدہ ۱۸) (آیت: ۴۳۔ ۴۶۔ ۱۱۶۔ التوبہ ۳۱۔ ۳۰۔) اس کی تردید کر رہی ہیں اور بتارہی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ ﷺ کو خدا کی خدائی میں شریک کرتے تھے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے۔ ایک خدا کی عبادت کو ان قوموں کے انبیاء کی اصل دعوت کے لحاظ سے کلمہ سواء (مشترکہ بات) کہا گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے کہ اے الٰ کتاب اس بات کی طرف آؤ جو تمام انبیاء ﷺ کی مشترک دعوت رہی ہے کہ ہم ایک خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں۔ سو یہ دعوت اپنی اصل کے لحاظ سے اور الٰ کتاب کے اس وقت کے حالات کے پیش نظر دعوت اسلام ہے۔ مشرک عیسائیوں سے دعوت اشتراک نہیں۔

آنحضرت ﷺ نے روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دے کے جو والا نامہ ارسال فرمایا اس میں آپ نے **اسْلَمُ يُؤْتَكَ اللَّهُ اجْرُكَ مَرْتَبِينَ** کے ساتھ یہ آیت بھی لکھوائی۔

تعالوٰ الی کلمة سواء بیننا و بینکم۔ (صحیح البخاری ج ۵ باب کیف کان بدالوی)

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اس آیت کو دعوت اسلام کے طور پر پیش کیا ہے دعوت اشتراک کے طور پر نہیں۔

تفیری سراج منیر میں ہے۔

بان دعاهم الی مافق علیہ عیسیٰ ﷺ والانجیل وسائر الانبیاء والكتب۔ (ج ۱ص ۲۱۹)

شرک اور کفر الٰ کتاب کے اصل دین میں نہ تھا سو اس آیت میں انھیں اپنے اصل دین کی طرف لوٹنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ حقیقت میں دعوت اسلام ہے ان کے انزواعی دین میں اشتراک نہیں۔

تفیری المراغی میں ہے:

اما اهل الكتاب فالشرك والكفر قد عرض للكثير منهم عروضاً وليس من اصل دينهم.

(ج ۶ ص ۱۳۶) اسلام خود ایک کامل دین ہے۔ اس میں تجدی امور میں کوئی اور دین سے سمجھوٹ کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ دوسرے ادیان کو دعوت اشتراک دینے کی ابتداء میلکہ کذاب سے ہوئی ہے۔ آنحضرت ﷺ سے نہیں۔ میلکہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں دعوت اشتراک ان لفظوں میں سمجھی تھی۔

”من مسلیمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فان الارض نصفها لی ونصفها لک۔“
(صفرۃ التاہیر ج ۱ ص ۳۵۰ حاشیہ)

”یہ خط میلکہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام ہے۔ زمین آدمی میرے نام رہے اور آدمی آپ کے نام۔“

آنحضرت ﷺ نے اسی دعوت اشتراک کو اور اس کے دعوے رسالت کو دونوں کو رو فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کسی نئے مدعی نبوت کے پیروؤں کے ساتھ کسی بات میں اشتراک نہیں کر سکتے۔

۳۔ افراد امت کا تحفظ شعائر اسلام کی حفاظت اور ان کا ہر آمیزش سے تحفظ یہ عظمت شعائر کے پیش نظر تھا لیکن اسلام میں جملہ افراد امت کی ہر دنیوی اور دینی فتنے سے حفاظت یہ بھی حکومت اسلامی کے ذمہ ہے کسی غیر مسلم اقیلت کی نہیں آزادی اگر افراد امت محمدیہ ﷺ کے لیے کسی فتنے کا دروازہ کھولتی ہو تو مسلم سربراہ پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا آرڈی نیس نافذ کرے جس سے اسباب کی حد تک جملہ افراد امت کا پورا تحفظ ہو جائے۔

۴۔ حوزہ امت کا تحفظ امت محمدیہ کی سائیئت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے جس طرح ملکت اسلامی کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت لازمی سمجھی جاتی ہے۔ اس امت کی نظریاتی سرحدوں پر بھی پوری فکری کاوش سے پہرہ دیا جائے۔ قادریانی لٹریچر کی اشاعت اگر عام رہے اور ان کے مبلغین کھلے بندوں مسلمانوں میں اپنے نظریات کی تبلیغ کرتے رہیں تو اس حوزہ امت کا کسی طرح تحفظ نہ رکھ سکے گا۔ اور حکومت کے لیے نت نئے مسائل ائمۃ رہیں گے۔ سو ضروری ہے کہ قادریانیوں کی تبلیغ ان کے اپنے محدود حلقوں میں محدود کی جائے۔ اور انھیں کھلے طور پر اپنے خیالات پھیلانے کی اجازت نہ ہو۔ ان کے لٹریچر کی محلی اشاعت خلاف قانون قرار دیجائے تاکہ امت کی نظریاتی سرحدیں پوری طرح محفوظ رہ سکیں۔

قادریانی لٹریچر کس طرح کی الحادی اور غیر اخلاقی فضا پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے ان کے لٹریچر کا ایک محقر خاکہ پیش کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان آیات اور احادیث کی ایک تاخیص بطور مقدمہ پیش کی جاتی ہے۔ جس میں اسلامی حکومت کی اس فمدہ داری کا بیان ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ ممکرات کو روکنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش رہے ممکرات کو روکنے اور ختم کرنے کے بغیر اسلامی ملکت میں معروفات کا قیام بہت مشکل ہے۔

اسلامی سلطنت میں قادریانی تبلیغ پر پابندی

قادریانی تبلیغ کے نام پر کس طرح کا لٹریچر پیش کرتے ہیں اور عامتہ اسلامیہ کے ذہنوں پر اس کا کس قدر مہک اور خرب اخلاق اثر پڑ سکتا ہے۔ اسے پیش کرنے سے پہلے ایک اصولی بات گزارش ہے۔ اسلامی سلطنت کے سربراہ کا فرض ہے کہ ان تمام ممکرات کا سد باب کرے جس سے مسلمانوں کے عقائد اور اخلاق پر براثر پڑے۔ اس باب میں درج ذیل آیات و احادیث سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

اَللّٰهُمَّ إِنَّ مَكْنُومَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوهُمَا الصَّلَاةَ وَأَتُوْزُ الْزَكْوَةَ وَأَمْرُوهُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

(انج ۲۳)

۲..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا قُوَّةً الْقَسْكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَفُوْدُكُمُ النَّاسُ وَالْجِعَارَةُ عَلَيْهَا مَلِيْكَةٌ غِلَاظٌ شَدَادًا .
(تحریم) ۲۰

۳..... عن ابن عمر عن النبي ﷺ انه قال الا كلکم راعٍ وكلکم مسئول عن رعيته فالامير الذي على الناس راعٍ وهو مسئول عن رعيته .
(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۲ باب فضیلۃ الامیر عادل)

۴..... عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال من رأى منكم منكراً فليهirona بيه فلان لم يستطع فلبسايہ فلن لم يستطع لفقيه وذلك أضعف الإيمان . (مکملۃ ص ۳۳۶ باب الامر بالمعروف بحوالہ مسلم)
ان آیات اور احادیث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان اقتدار پر آنے کے بعد مکرات کو روکتے ہیں اور ہر سربراہ کا فرض ہے کہ اپنے عیال کو کفر اور بدی کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ عامۃ اسلامیں اسلامی سربراہ کے عیال اور عایا ہیں۔

پاکستان ایک اسلامی سلطنت ہے۔ اس میں عامۃ اسلامیں کی دینی اور اخلاقی قدرتوں کی صیانت اور حفاظت کرنا اور اس کے لیے فرائیں جاری کرنا اور آرڈی نیشن بنا کر سربراہ اسلامی سلطنت پر ایک بڑا فرض ہے۔ ایک اسلامی سلطنت میں الحاد و زندق پھیلانے والا خلاف اسلام لشیج پر اور بے جایی پھیلانے والا خوب اخلاق لشیج پھیلے۔ قادریانوں کی محلی تبلیغ پر کسی قسم کی پابندی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس غلط لشیج پر سے مسلمانوں میں اس قسم کے عقائد و نظریات پیچ کھیلتے رہیں اور مسلمانوں کو اس سے عام اور کھلے بندوں الحاد و ارتداوی دعوت ملتی رہے۔ اس باب میں مرتضیٰ احمد قادری اور اس کے تبعین کی مندرجہ ذیل تحریرات لائق توجہ ہیں۔ کیا یہ مکرات نہیں؟ کیا انھیں پھیلئے دینا چاہیے۔ اور کیا مسلمانوں میں ان کی اشاعت عام کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ آئیے پہلے یہ دیکھئے کہ قادریانوں میں نبوت کا تصور کیا ہے اور ان کے ہاں کس قسم کا آدمی نبی ہو سکتا ہے۔

مرزا قادری کہتے ہیں ”مشائلاً إِنْ كُفُوسْ جَوْقَمْ كَأَجْزَءِ بَرْجَرَهْ لِيْمِيْ بَحْكَىْ ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی تیس چالیس سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ دو وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پاخانوں کی نجاست انجاتا ہے اور ایک دو دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا ہے اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو جکے ہے اور چند سال جبل خانہ میں قید بھی رہ چکا ہے اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جو تے بھی مارے ہیں اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی جنس کام میں مشغول رہی ہیں اور سب مردار کھاتے اور گوہ انجاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے مگن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا افضل اس پر ہو کر وہ رسول اور نبی بھی بن جائے اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آئے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا۔ خدا سے جنم میں ڈالے گا۔“ (تریاق القلوب ص ۲۷۶ خزانہ ج ۱۵ ص ۲۹۰-۲۸۰)

ایک اور گستاخی ملاحظہ کیجئے حضور ﷺ پر اپنی فضیلت جتنا ان کے لشیج پر میں عام ملتا ہے اس قسم کا

لشیج پھیلنے سے عام لوگوں کا ایمان کیسے فکلتا ہے۔ یہ الیہ از خود واضح ہے۔

۱... ”بُسْ یہ خیال کہ گویا جو کچھ آنحضرت ﷺ نے قرآن کریم کے پارہ میں بیان فرمایا اس سے بڑھ کر ممکن نہیں بدیکی المطلاں ہے۔“
(کرامات الصادقین ص ۱۹ خزانہ ج ۷ ص ۶۱)

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ بہت سے معارف قرآن سے محروم رکھے گئے

اور وہ حقیقتیں مرزا قادیانی پر کھلیں مرزا قادیانی کہتے ہیں۔

۲..... ”ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ پر این مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نے موجود ہونے کی نمونہ کے موبہوم شخص نہ ہوئی ہوا اور نہ دجال کے ستر باع گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یا جو جو ماجون کی عین تھیں تک وہی انہی نے اطلاع دی ہوا اور نہ دلیل الارض کی ماہیت کماہی ہی ظاہر فرمائی گئی اور صرف امثلہ قریبہ اور صور تشبیہ اور امور متشاکلہ کے طرز یہاں میں جہاں تک غیب محض کی تفصیل پذیریہ انسانی قوی کے ممکن ہے ابھائی طور پر سمجھایا گیا ہوتا کچھ تجھ کی بات نہیں۔“ (ازالہ ابہام حصہ دوم ص ۶۹۱ خزانہ حج ۳۲ ص ۲۲۳)

۳..... لہ خسف القمر المنیر وان لی غسا القمران المشرقان اندرکر۔ اس کے (حضور ﷺ) لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو انکار کرے گا۔“

(اعجاز الحمدی ص ۱۷ خزانہ حج ۱۹ ص ۱۸۳)

اب ان کے دوسرے سر برہ مرزا بشیر الدین محمود سے بھی سن سمجھے۔

۴..... ”یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے حتیٰ کہ محمد ﷺ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔“ (ڈاکٹری مرزا محمود احمد، مطبوعہ روز نامہ الفضل ح ۱۰ ج ۵، ۱۷ جولائی ۱۹۶۲ء)

مرزا قادیانی نے پھر یہ بھی لکھا ہے۔

۵..... واعطانی مالم یعط احمد من العالمین۔ (آئین کمالات اسلام ص ۲۳۷ خزانہ حج ۵ ص ۱۱۰)

یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو تمام چہانوں میں کسی کو نہ دیا گیا تھا، کیا یہ کل انبیاء و مرسیین اور اولاد آدم پر فضیلت کا دعویٰ نہیں اور کیا اس قسم کا لذتیجہ پھیلنے سے عامۃ اسلمیین کا ایمان حفظ رہ سکتا ہے؟

۶..... آسمان سے کئی تخت اترے۔ پر تیرا تخت سب سے اوپر بجا یا گیا۔

(تذکرہ ص ۶۳۳ حجۃۃ الوفی ص ۸۹ خزانہ حج ۲۲ ص ۹۲)

۷..... فھلنا ک علی مساواک: یعنی تیرے سوا جتنے ہیں ان سب پر ہم نے تجھے بزرگی دی۔ (تذکرہ ۱۳ طبع سوم)

۸..... روضہ آدم کہ قادہ ناکمل اب تک میرے آنے سے ہوا کامل نبھلہ برگ و بار۔

(بایں احمدی حصہ فوج ص ۱۱۳، خزانہ حج ۱۲۱ ص ۱۳۳)

..... ۹ محمد ﷺ پھر اتر آئے ہیں ہم میں

اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں

محمد ﷺ دیکھنے ہوں جس نے اکمل

غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(”بدر“ قادیان حج ۲ شمارہ نمبر ۱۲۵، ۲۳ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۱۳)

اس لذتیجہ کے عام پھیلنے سے مسلمانوں پر کیا اثر پڑے گا اور ان کی اعتقادی سطح کس طرح متزلزل ہو گی یہ بات از خود واضح ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ ﷺ کی توبہ، کس خلاف تہذیب انداز میں کی ہے اسے دیکھئے۔

حضرت عیسیٰ ﷺ پر اپنی فضیلت

”اوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ جو کوئی این مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین سے ہے اور اگر کوئی اور امر میری نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں جو خدا

تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے اوپر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا۔“

(حقیقت الحقیقی ص ۱۵۲۰ تا ص ۱۵۲۹ ج ۱۴ خزانہ)

۲..... اس سچ کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا۔ خدا نے اس امت میں سے ممکن مخصوص، بھیجا ہوا اس پہلے صحیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے صحیح کا نام غلام احمد رکھا تاکہ یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا صحیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنیٰ غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی کیسا صحیح ہے جو اپنے قرب اور شفاقت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔“ (دافت الباء ص ۱۳ ج ۱۸ ص ۲۲۰)

۳..... ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ (دافت الباء ص ۲۰ ج ۱۸ ص ۲۲۰)

شراب پینا ”یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔“ (حاشیہ کشی نوح ص ۲۵ ج ۱۹ ص ۱۷)

گالیاں دینا ”ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بذبانبی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ ادنیٰ بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ اپنے لفڑیں کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کرنکال لیا کرتے تھے۔“ (ضیغمہ انجام آئتم ص ۵ حاشیہ خزانہ ج ۱۱ ص ۲۸۹)

جھوٹ اور چوری کی عادت ”یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی جن جن پیشگوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا ہے ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو گئیں اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پیاری تعلیم کو جو انجیل کا مغز کھلاتی ہے۔ یہودیوں کی کتاب طالمود سے چاکر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے گویا میری تعلیم ہے۔ لیکن جیسے یہ چوری کپڑی گئی۔ عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے یہ حرکت شاید اس لیے کی ہو گی کہ کسی عمدہ تعلیم کا خونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں۔ لیکن آپ کی اس بیجا حرکت سے عیسائیوں کی سخت رو سیاہی ہوئی اور پھر افسوس یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی کچھ عمدہ نہیں۔ عقل اور کاشش دنوں اس تعلیم کے منہ پر تناقض مار رہے ہیں۔ آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبقاً سبقاً پڑھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیریکی سے کچھ بہت حصہ نہ دیا تھا اور یا اس استاد کی یہ شرارت تھی کہ اس نے آپ کو حسن سادہ لوح رکھا بہر حال آپ علمی اور عملی قوی میں بہت کچھ تھے۔ اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔“ (ضیغمہ انجام آئتم ص ۵۔ ۶ خزانہ ج ۱۱ ص ۲۸۹۔ ۲۹۰)

آپ کا کوئی مججزہ نہ تھا ”عیسائیوں نے بہت سے آپ کے مجرمات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مججزہ نہیں ہوا اور اس دن سے کہ آپ نے مججزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کا اور حرام کی اولاد نہیں ہے اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ مججزہ مانگ کر حرام کا اور حرام کی اولاد نہیں۔“ (ضیغمہ انجام آئتم ص ۶ خزانہ ج ۱۱ ص ۲۹۰)

آپ کے ہاتھ میں سوا مکرا اور فریب کے کچھ نہ تھا ”ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کو وغیرہ کو اچھا کیا ہو، یا کسی بیماری کا علاج کیا ہو۔ مگر آپ کی بد قسمی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے اسی تالاب سے آپ کے مجرمات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ

سے کوئی مجرہ بھی ظاہر ہوا تو وہ مجرہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا مجرہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکار اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔” (ضیغمہ انجام آقتم ص ۷۶ خراں ج ۱۱ ص ۲۹۱)

تین دادیاں اور نانیاں زنا کار اور کسی عورتیں تھیں ”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ زنا کار اور کسی عورتیں نہیں جن کے خون سے آپ کا وجود نہ ہو پڑی رہا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہو گی۔ آپ کا بھرپور سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پرہیز گار انسان ایک جوان بھرپور کو یہ موقعہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے ناپاک ہاتھ کا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے ہیروں پر ملے سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“ (ضیغمہ انجام آقتم ص ۷۶ خراں ج ۱۱ ص ۲۹۱)

حضرت عیسیٰ ﷺ پر طعن کرنے میں قرآن سے استدلال ”ہمارے مخالف اور خدا کے مخالف نام کے مسلمان وہ اگر ان کو اور پر اخلاقی اخلاقیت آسان پر چڑھا دیں یا عرش پر بٹھا دیں یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کو اختیار ہے انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے۔ لیکن سچ کی راستہ اسی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ سچی نبی کو اس پر ایک خصیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں ناگیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا۔ یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے پدن کو چھوڑا تھا یا کوئی بے علق عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں سچی کا نام حصور رکھا مگر سچ کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قسمے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔“ (حاشیہ دفعہ البلاہ ص ۳، ۲ خراں ج ۱۸ ص ۲۱۰-۲۲۰)

صحابہ کرامؓ کی توہین ”من دخل فی جماعتی دخل فی صحابة سیدی خبر المرسلین۔“ بُنْ وَ جُو میری جماعت میں داخل ہوا درحقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔“ (خطبہ الہامیہ ص ۲۵۸ خراں ج ۱۲ ص ایضا)

۲.....”بعض نادان صحابہ جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا.....“ (ضیغمہ برائیں احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۴۰ خراں ج ۲۱ ص ۲۱۵)

۳.....”حق بات یہ ہے کہ ان مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ایک معنوی آدمی تھا۔“ (از الہ اوہم ص ۵۹۶ خراں ج ۳ ص ۳۲۲)

۴.....”ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے قول کو ایک روی متابع کی طرح پھیک دے۔“ (ضیغمہ برائیں احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۲۵ خراں ج ۲۱ ص ۳۱۰)

۵.....”بعض کم تدریک نہیں والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی۔ جیسے ابو ہریرہ۔“ (حقیقت الوقی ص ۳۲۲ خراں ج ۲۲ ص ۳۶)

۶.....”معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھے صحابہ کو جن کی درایت عمدہ نہیں تھی عیسائیوں کے اقوال سن کر جو ارد گرد رہتے تھے پہلے کچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ آسان پر زندہ ہے جیسا کہ ابو ہریرہ جو غنی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔“ (اعجاز احمدی ص ۱۸ خراں ج ۱۹ ص ۱۲۷)

آل بیت نبوی کی توہین ”ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نش سے مشاہدہ ہی ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے ایک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی۔ جیسے برعut پلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزہ کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت پانچ آدمی نہایت وحیجه اور

متقول اور خوبصورت سامنے آگئے۔ یعنی چیغیر و حضرت علی و حسین و فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا جمعین اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سراپائی ران پر رکھ لیا۔” (تذکرہ ص ۲۰۰ طبع سوم)

۲..... ”اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں حق کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔“ (داغی البلاء ص ۱۳ اخزانی ج ۱۸ ص ۲۳۳)

۳..... وشتان مابینی و بین حسینکم۔ فانی اوپر دکل ان و انصر۔ ”اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد اور دل رہی ہے۔“

واما حسین فاذکروا دشت کربلا۔ الی هده الايام تبكون فالاظرو۔ ”مگر حسین پس تم دشت کربلا کو یاد کر لواب تک تم روتے ہو پس سوچ لو۔“

اواني ورلت العال مال محمد۔ فما انا الا الله المتخير۔ ترجمہ: اور میں محمد ﷺ کے مال کا وارث بنا یا کیا ہوں۔ پس میں اس کی آں بر گزیدہ ہوں جس کو ورش کنچ گئی۔

طلبتم فلا حامن قتيل نجيبة۔ فحييكم رب غيري معتبر، ترجمہ: تم نے اس کشته سے نجات چاہی کہ جو نو عیدی سے مر گیا پس تم کو خدا نے جو غیر ہے ہر ایک مراد سے نو مید کیا وہ خدا جو ہلاک کرنے والا ہے۔

ووالله ليست فيه مني زيادة و عندي شهادات من الله فالاظرو۔ اور بخدا اسے مجھ سے کچھ زیادت نہیں اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں تم دیکھ لو۔ وانی قتيل الحب لكن حسینکم۔ قتيل العدو والفرق اجلی واظہر: ترجمہ: اور میں خدا کا کشته ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشته ہے۔ پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔ نسيتم جلال الله والمجد والعلى وما وردكم الا حسین التکر، تم نے خدا کے جلال اور مدد کو بھلا دیا اور تمہارا اور وصرف حسین ہے کیا تو انکار کرتا ہے۔

فهذا على الاسلام احدى المصائب لدى نفحات المسك قدر مقتطع۔ ترجمہ: پس یہ اسلام پر ایک مصیبہ ہے۔ کستوری کی خوبیوں کے پاس گودہ کا ذمیر ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۶۹ ۸۲ خزانی ج ۱۹ ص ۱۸۱ ۱۹۲۳)

مسلمانوں کے اسلام پر لعن فالقی اللہ فی قلبی ان المیت هو الاسلام۔

(آنینہ کمالات اسلام ص ۵۳۹ ۵ خزانی ج ۵ ص ایضاً) ۱..... حضرت صاحب (مرزا غلام احمد قادریانی) نے فرمایا کہ کیا مجھے چھوڑ کر تم مردہ اسلام دنیا کے سامنے چیش کرو گے۔

۲..... چوہدری ظفر اللہ خاں کی تقریر اگر نتوڑ بالش آپ (مرزا غلام) کے وجود کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا زندہ نہ ہب ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اسلام دیگر مذاہب کی طرح ایک خلک درخت شمار کیا جائے گا۔ (ذکر جیبی ص ۱۷۷ امطبوعہ قادریان)

۳..... چوہدری ظفر اللہ خاں کی تقریر اگر نتوڑ بالش آپ (مرزا غلام) کے وجود کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا زندہ نہ ہب ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اسلام دیگر مذاہب کی طرح ایک خلک درخت شمار کیا جائے گا۔ (افضل لاہور ج ۲۵ ۸۵ شمارہ نمبر ۱۳۰ ص ۵، ۳۱، ۱۹۵۲)

مرزا قادریانی کی زبان، اخلاقی طور پر کن قدر وہ کام مظاہرہ کرتی ہے اس کے لیے ان کی ان تحریروں کا

جاگزہ پڑھئے۔

اخلاقی بے حیائی کا فروغ ”میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جو قوم کی چوہڑی یعنی بھکن تھیں جن کا پیشہ مردار کھانا اور ارٹکاب جرام کام تھا انہوں نے ہمارے رو برو خوابیں بیان کیں اور وہ سچی لکھیں۔ اس سے بھی

عیب تر یہ کہ بعض زانیہ عورتیں اور قوم کے تجربہ جن کا دن رات زنا کاری کام تھا۔ ان کو دیکھا گیا کہ بعض خواہیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں۔ (حقیقت الہی ص ۳ خزانہ ج ۲۲ ص ۵)

۲..... ”اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفہ کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے بلکہ تعلق کے لیے عینہ آثار اور علامات ہیں۔ پس یادِ الہی میں ذرہ شوق جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں۔ نطفہ کی اس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت ازاں پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ جسمانی عالم میں ایک کمال لذت کا وقت ہوتا ہے لیکن تاہم نطفہ اس قطرہ منی کا اندر گرنا اس بات کو ستلزم نہیں کہ رحم سے اس نطفہ کا تعلق بھی ہو جائے اور وہ رحم کی طرف کھینچا جائے۔ پس ایسا ہی روحانی شوق ذوق اور حالت خشوع اس بات کو ستلزم نہیں کہ رحیم خدا سے ایسے شخص کا تعلق ہو جائے اور اس کی طرف کھینچا جائے۔ بلکہ جیسا کہ نطفہ کبھی حرام کاری کے طور پر کسی رثی کے اندام نہانی میں پڑتا ہے تو اس میں وہی لذت ڈالنے والے کو ہوتی ہے۔ جیسا کہ اپنی بیوی کے ساتھ پس ایسے ہی بت پرستوں اور حقوق پرستوں کا خشوع اور خضوع اور حالت ذوق اور شوق رثی بازوں سے مشابہ ہے یعنی خشوع اور خضوع مشرکوں اور ان لوگوں کا جو بھنگ اغراض دنیویہ کی ہا پر خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس نطفہ سے مشاہدہ رکھتا ہے جو حرام کار عورتوں کی اندام نہانی میں جا کر باعث لذت ہوتا ہے بہر حال جیسا کہ نطفہ میں تعلق پکڑنے کی استعداد وہی حالت خشوع میں بھی تعلق پکڑنے کی استعداد ہے۔ مگر صرف حالت خشوع اور رفت اور سوز اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ تعلق ہو بھی گیا ہے۔ جیسا کہ نطفہ کی صورت میں جو اس روحانی صورت کے مقابل ہی مشاہدہ ظاہر کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کرے اور منی عورت کے اندام نہانی میں داخل ہو جائے اور اس کو اس فعل سے کمال لذت حاصل ہو تو یہ لذت اس بات پر دلالت نہیں کرے گی کہ حمل ضرور ہو گیا ہے۔“

(ضمیرہ بر این الحمد یہ حصہ آنحضرت ص ۲۷ خزانہ ج ۲۱ ص ۱۹۲-۱۹۳) نوٹ..... قادیانی لشیخ پیر میں اس قسم کی فحش باتیں بھی نقل کی گئی ہیں۔ جن کے نقل کرتے ہوئے بھی شرافت لرزتی ہے۔ ملاحظہ فرماؤں ایک مخالف کی بات کو کن گندے الفاظ میں نقل کیا ہے۔

۳..... دیکھو بھی مرزا رات کو لگائی سے بدکاری کرتا ہے اور صبح کو بے غسل لوڑا بھرا ہوا ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے اور وہ الہام ہوا۔ میں مہدی ہوں میں صبح ہوں۔

(تذکرہ المهدی ۱۹۱۵ء مولفہ میر سراج الحق قادیانی مطبوع جون ۱۹۱۵ء)

نوٹ..... میر سراج الحق کون ہیں؟ یہ مرزا غلام احمد کے امام نماز ہیں۔ مرزا قادیانی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔

۴..... مرزا غلام احمد وید پر تعمید کرتے ہوئے آریوں کے خدا کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”پر میشر ناف سے دس انگلی پیچے ہے سمجھنے والے سمجھ لیں۔“ (چشمِ معرفت ص ۱۰۶ خزانہ ج ۲۳ ص ۱۱۲)

اس زبان کے لشیخ کو کھلے بندوں شائع ہونے دیا جائے تو یہ عامۃ الناس کے لیے نہایت محب اخلاق اور حیاء سوز ہو گا۔ اس لشیخ پر پابندی لگتی چاہیے۔

بدزبانی کا فروغ ”اے بذات فرقہ مولویان! تم کب تک حق کو چھپاؤ گے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑو گے۔ اے ظالم مولویو! تم پر افسوس! کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہ ہی عوام کا لامانع کو بھی پلایا۔“ (انعام آنحضرت ص ۲۱ خزانہ ج ۱۱ ص ۱۱۱)

۲..... ”وَيَا مِنْ سَبْ جَانِدَارُوں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی چھپاتے ہیں۔“

”اے مردار خور مولوی! اور گندی رو حتم پر افسوس۔“ (ضیغم انجام آئکھم ص ۲۱ خزانی ج ۱۱ ص ۳۰۵ ماشیر) ۳..... ”یہ سب کچھ ہوا مگر اب تک بعض بے ایمان اور انہی مولوی اور غبیث طبع عیسائی اس آفتاب ظہور حق سے منکر ہیں۔“ (ضیغم انجام آئکھم ص ۲۲ خزانی ج ۱۱ ص ۳۰۶ ماشیر)

عام مسلمانوں کے متعلق ۱..... ”ہمارے دشمن جنگلوں کے خزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔“ (جمیل الہدی ص ۵۲ خزانی ج ۱۲ ص ایضا)

۲..... ”تلک کتب ینظر اليها کل مسلم بعین المحبة والمودة و يستفع من معارفها و يقبلني ويصدق دعوتي الا ذرية البغایا الدین ختم اللہ علی قلوبهم فهم لا يقبلون. ترجمہ: میری مذکورہ بالا کتابوں کو ہر مسلمان محبت اور پیار کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے۔ سوائے تجھریوں کی اولاد کے جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگادی ہیں وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔“ (آنیہ کمالات اسلام ص ۵۲۷ خزانی ج ۵ ص ایضا)

ذریۃ البغایا کا معنی مرزا قادریانی نے خود یہ کیا ہے۔ من هومن ولدا طلال وليس من ذریۃ البغایا۔ اور اس کا اردو ترجمہ یہ کیا ہے ”ہر ایک شخص جو ولد حلال ہے اور خراب عورتوں کی نسل سے نہیں۔“ (نور الحق ص ۱۲۳ خزانی ج ۸ ص ۹۶)

۳..... ”اور بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی رو سے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی سے باز نہ آئے گا اور ہماری فتح کا مقابل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ حرام زادہ کی بھی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔“ (انوار اسلام ص ۳۰ خزانی ج ۹ ص ۳۱) اس قسم کی تحریریات اور بذریعاتی انسانی شرافت پر بہت گران ہے۔ ایک اسلامی ملک میں اس قسم کا لٹریچر عام میں اور اس پر کسی قسم کی پابندی نہ ہو بلکہ کچھ لوگ اس کی تبلیغ و اشاعت میں زندگیاں وقف کیے ہوئے ہوں تو اس سے نہ صرف اسلامی عقائد کو سخت و چکا لگے گا بلکہ ان مغرب اخلاق تحریروں سے انسانی شرافت بھی بری طرح پامال ہوگی۔ ان حالات میں سربراہ ملکت اسلامی پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اس قسم کی تبلیغ کو خلاف قانون قرار دیں اور اس مغرب اخلاق لٹریچر کی طباعت اور اشاعت اس ملک میں خلاف قانون قرار پائے۔ صدر پاکستان نے اس آرڈی نیشن کے ذریعہ اپنا ایک بڑا فرض سرانجام دیا ہے۔

قادیانی لٹریچر ہی اسلام کے جذبہ جہاد کی روک تھام

یہ ملک اسلام کے نام پر ہنا ہے اور اسلام سے ہی اس کی بقاء و استہانے اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی دراصل اسلام ہی کے گرد ایک خانقہ پھرہ ہے سو اس ملک میں عامۃ اسلامیں ہی عموماً انوجہوں میں خصوصاً جذبہ جہاد اور احسان قربانی کی آیاری بہت ضروری ہے اور قادیانیوں کے خلاف جہاد لٹریچر کا پوری طرح سد بباب ہونا چاہیے۔ قادیانیوں کے خلاف جہاد لٹریچر کا ایک نمونہ عرض خدمت ہے۔

”آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لیے توار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔“ (اشتہار پندرہ منارۃ اسحیضہ خطبہ الہامیہ خزانی ج ۱۶ ص ۷)

مرزا غلام احمد قادریانی نے صرف ہندوستان میں ہی انگریزوں کو اپنا اولی الامر نہیں بنا لیا بلکہ اس کی تحریک پورے عالم اسلام میں انگریزوں کے اجنبت کے طور پر ان کی سیاسی خدمات بجالانے کے لیے، کی مرزا قادریانی کی مندرجہ ذیل تحریر اس پر گواہ ہے۔

”میں نے بیسیوں کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محمد (برطانیہ) سے ہرگز جہاد درست نہیں۔ بلکہ پچھے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے چنانچہ میں نے یہ کتابیں بصرف زرکشیر چھاپ کر بلاد اسلام میں پہنچائی ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سا اثر اس ملک پر بھی پڑا ہے۔“ (تبلیغ رسالت جلد ششم ص ۲۵ مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۹۶-۳۹۷)

مرزا قادریانی نے اپنی نبوت اور سلطنت برطانیہ کی خیر خواہی کو کس انداز میں جوڑا ہے اس کے لیے ان کی درج ذیل تحریر بڑی واضح ہے۔

”آج کی تاریخ تک تین ہزار کے قریب یا کچھ زیادہ میرے ساتھ جماعت ہے جو برٹش ائمیا کے متفرق مقامات میں آباد ہے اور ہر شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو کچھ موعود مانتا ہے۔ اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعا حرام ہے کیونکہ سچ آچکا۔ خاص کر میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیر خواہ اس کو بننا پڑتا ہے۔“ (گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۶ خواہیں ج ۱ ص ۲۸)

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں۔

”دوسرا امر قبل گزارش یہ ہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریبا ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں۔ اپنی زبان اور قلم سے اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیویہ کی کچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پہنچوں۔ اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے خلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں۔ جو دلی صفائی اور خلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔“ (تبلیغ رسالت ج ۷ ص ۱۰ مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۱)

مرزا غلام احمد کی یہ تحریک صرف مقامی نہ تھی عالمی تھی اس باب میں ان کی مندرجہ ذیل تحریر ان کے سیاسی مقاصد کو پوری طرح اپنے داشت میں لیے ہوئے ہے۔

”اس سترہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتابیں تالیف کیں ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لیے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں نہایت موثر تقریریں لکھیں اور پھر میں نے قرین مصلحت سمجھ کر اسی امر ممانعت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے کے لیے عربی اور فارسی میں کتابیں تالیف کیں۔ جن کی چھوٹی اور اشاعت پر ہزار ہارو پیچھے خرچ ہوئے اور وہ تمام کتابیں عرب اور بلاد شام اور روم اور مصر اور بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہو گا۔“

(کتاب البریہ ص ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸)

مرزا قادریانی نے جہاد کو مسلمانوں کے عام حالات کے پیش نظر یا اپنی ایک وقت گلرے سے بند نہ کیا۔ انگریزوں کی اس خدمت کو خدا کا نام لے کر آسمانی دعوؤں کے سہارے سرانجام دیا۔

”آج سے انسانی جہاد جو تکوار سے کیا جاتا تھا۔ خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تکوار اٹھاتا ہے اور اپنا نام عازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرمادیا ہے کہ کچھ موعود کے آنے پر تمام تکوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سواب میرے ظہور کے بعد

تکوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جنہاً بلند کیا گیا ہے۔“

(خطبہ الہامیہ ص ۲۸، ۲۹ خرداد ج ۱۶ ص ۲۷)

سلطنت برطانیہ کی ان خدمات پر اب کچھ مراعات کی طلب ہے۔ اس کا ایک نمونہ درج ذیل تحریر میں

لائق توجہ ہے:

گورنمنٹ کا یہ اپنا فرض ہے کہ وہ اس فرقہ احمدیہ کی نسبت تدبیر سے زمین کے اندر ولی حالات دریافت کرے..... ہمارے امام (مرزا قادیانی) نے ایک بڑا حصہ عمر کا جو بائیس برس ہیں، اس تعلیم میں گزارا ہے کہ جہاد حرام اور قطعاً حرام ہے۔ بھاول تک کہ بہت سی عربی کتابیں بھی مضمون مماثلت جہاد لکھ کر ان کو بلا واسطہ عرب، شام، کامل وغیرہ میں تضمیں کیا۔ (رسالہ ریو یو آف ریپورٹ، مولوی محمد علی قادریانی پابت فروری ۱۹۰۲ء ج ۱۹ ص ۳۰)

مرزا قادیانی کے دل و دماغ میں جہاد سے کس قدر نفرت سا چکی تھی۔ اس کے لیے ان کی مندرجہ ذیل تحریرات دیکھئے۔ ان تحریرات کی محلی اشاعت سے کیا اس ملک کے نوجوانوں کے لیے فکری اور عملی زندگی کا کوئی پہلو زخمی ہوئے بغیرہ رکتا ہے؟

”یہ وہ فرقہ ہے جو فرقہ احمدیہ کے نام سے مشہور ہے..... یہی وہ فرقہ ہے جو دن رات کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بیہودہ رسم کو اخحادے۔“

(فرمان مرزا مندرجہ ریو یو آف ریپورٹ پابت ماہ دسمبر ۱۹۰۲ء ج ۱۲ ص ۲۹۵)

”یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کا خدا نے مجھے امام اور پیشواؤ اور رہبر مقرر فرمایا ہے۔ ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اس فرقہ میں تکوار کا جہاد بالکل نہیں اور نہ اس کی انتظار ہے بلکہ یہ مبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔ اور قطعاً اس بات کو حرام جانتا ہے۔“ (اشتہار واجب الالہار تیاق القوب ص ۲۸۹ خرداد ج ۱۵ ص ۱۷)

”جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ ﷺ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچانہیں سکتا تھا اور شیرخوار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی ﷺ کے وقت میں بچوں اور بڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا..... اور سچ موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔“ (اربعین نمبر ۱۳ ماشیہ خرداد ج ۷ ص ۳۳۳)

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دین کے لیے حرام ہے اب جگ اور قل
اب آ گیا سچ جو دین کا امام ہے
دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے
اب جگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
مکر نبی کا ہے جو یہ رکتا ہے اعتقاد

(ضمیر تحد کوڑا یہ ص ۷۷ خرداد ج ۷ ص ۷۸، ۷۹)

”میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں

کے چونکہ مجھے مسک اور مہدی مان لیتا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرتا ہے۔ ”تبیغ رسالت حج ۷ ص ۱۷۴ مجموع اشتبہات ن ۳ ص ۱۹)“ اور جو لوگ مسلمانوں میں سے ایسے بد خیال جہاد اور بغاوت کو دلوں میں مخفی رکھتے ہیں میں ان کوخت نداد ان بد قسمت ظالم بتا ہوں۔“ (تربیق القلوب ص ۱۵ اخراج ن ۱۵ ص ۱۵۶)

اس قسم کے خیالات اور ایمان سوز حرکات جس ملک میں کھلے بندوں پھیلتے رہیں وہ ملک اسلامی بنیادوں پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کو ایک زندہ قوم کے طور پر امتحانے کے لیے قادیانیوں کا اس قسم کا لٹریپر کلی طور پر خلاف قانون ہونا چاہیے۔ صدر پاکستان نے اس زیر بحث آڑوئی نینس میں قادیانیوں کی محلی تبلیغ پر پابندی عائد کر کے تحفظ پاکستان کی طرف ہی قدم بڑھایا ہے اور یہ اقدام کسی پہلو سے بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین۔ (آلہ ۲۲) اسلامی مملکت میں مسلمانوں میں خلاف اسلام تعلیم و تبلیغ کی کیا کھلی اجازت ہے؟

سوال..... اگر سربراہ مملکت اسلامی اس پر پابندی لگائے اور اسے بذریعہ آڑوئی نینس خلاف قانون قرار دے تو کیا یہ پابندی قرآنی ارشاد قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین (اگر تم پچھے ہو تو اپنے جواب پر دلیل لاؤ) کے خلاف نہیں؟ کیا اس سے ایک گروہ کی شخصی آزادی تو سلب نہیں ہوتی؟ قرآن کریم تو اپنے نہ ماننے والوں کو یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے سب حلقوں کو بے شک بلا لیں۔ وادعوا شهداء کم من دون اللہ ان کنتم صادقین اگر وہ اپنے حلقوں کو گواہ بنا کر ساتھ لائیں تو ان کی یہ گواہی کیا خلاف اسلام ایک شہادت نہ ہوگی؟

جواب یہ آیت وادعوا شهداء کم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ (آلہ ۲۲) کس سابق میں آری ہے؟ قرآن پاک کے مجرہ ہونے کے بارے میں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن پاک کو الٰہی کلام نہیں سمجھتے، اسے انسانی کلام سمجھتے ہو تو تم بھی تو انسان ہو ایسا ایک قطعہ کلام تم بھی بنا لاؤ اور بے شک اس پر تم اپنے سب مددگاروں کو بھی بلا لو..... یہ انھیں اپنے عقائد کی تبلیغ کا موقع نہیں دیا جا رہا انھیں قرآن کریم کی مثل لانے سے عاجز ثابت کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے مجرہ ہونے کا بیان ہی اسی لیے ہے کہ اس کی مثل لانے سے ہر ایک عاجز ٹھہرے اور کوئی انسانی کلام ایسی کلام کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آگے ولن ت فعلوا کہہ کر بتلایا گیا کہ تم ایسا کبھی نہ کر سکو گے۔

اسی طرح آیت قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین بھی یہود و نصاری سے صحیح نقل کا مطالبہ کر رہی ہے انھیں اپنے نظریات کی تبلیغ کا موقع نہیں دے رہی یہود و نصاری نے کہا تھا جنت میں ہمیں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو کہا کہ ان سے کہیں کہ اس پر حوالہ پیش کریں صحیح نقل کا مطالبہ اور بات ہے اور انھیں آزادی دینا کہ خلاف اسلام جو چاہیں کہتے رہیں یہ امر دیگر ہے۔

اسی طرح آیت (۱)..... قل ارایتم ماندھون من دون اللہ اروني ماذا خلقوا من الارض۔ (الاحقاف ۲) اور آیت (۲)..... قل ارایتم شر کائكم الذين تدعون من دون اللہ اروني ماذا خلقوا من الارض۔ (الفاٹر ۲۰) میں مشرکین سے ان کی حقانیت کی دلیل نہیں پوچھی جا رہی ان سے ان کے غلط معبدوں کی تخلیق کا کام مانگا جا رہا ہے ان سے طلب کیا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی تخلیق تائیں کسی کی چیز کی سند اور حوالہ مانگنا اور بات ہے اور انھیں اس میں بحث کا حق دینا یہ امر دیگر ہے اور پھر یہ سب باتیں وہاں ہو رہی ہیں۔ جہاں اقتدار مشرکین کا تھا..... اس سے یہ بات نہیں تکلی کر کی کو مسلمانوں میں خلاف اسلام تبلیغ کرنے کا حق دیا جا رہا ہے یہ اسلامی

سلطنت کی بات نہیں ہے مشرکین سے برابری سُلْطَنَتِ کی ایک بات ہے۔

قرآن پاک میں ایسے مفہائم ان مشرکین کی تجھیز و تجہیز کے لیے آئے ہیں انھیں مسلمانوں میں اپنے عقائد کفریہ کی تبلیغ کا حق دینے کے لیے نہیں..... (قادیانی مبلغین نے اپنی ایک میں ان آیات کو بالکل بے محل نقل کیا ہے۔ سورہ نمل کی آیت قل هاتوا برهانکم ان کتم صادقین کے سلسلہ آیات میں فضیلۃ الاستاذ احمد مصطفیٰ الرائی لکھتے ہیں:

”لَمْ يَنْتَقلْ مِنَ التَّوْبِيْخِ تَعْرِيْضًا إِلَى التَّبْكِيْتِ تَصْرِيْحًا“۔ (تفیر المراعی ج ۲۰ ص ۷)

مشرکین کے پاس اس پر کیا دلیل ہو سکتی تھی جوان سے طلب کی گئی؟ پچھلے نہیں۔

تفیر جلالین میں ہے قل هاتوا برهانکم علی ذلک ولا سبیل الیه۔ (تفیر جلالین ص ۲۷۱) سوجہ اس پر کوئی استدلال ممکن نہیں تو یہ محض جبکیت اور تجھیز ہے ان سے مناظرہ میں طلب دلیل نہیں۔ امیل کنندگان نے اپنے اس استدلال میں قل هاتوا برهانکم (الانبیاء، آیت ۶۳، ۲۲) ام لکم سلطان مبین۔ (الصافات ۱۵۶) قل هل عبدکم من علم فتخربجوه لنا (الانعام ۱۳۸) ان الدین يجادلون في آیات الله (المون ۵۶)

اور دیگر چند آیات بھی پیش کی ہیں اور یہ بات انھوں نے بالکل غلط نظر انداز کر دی ہے کہ یہ بات کہاں کی جا رہی ہے؟ اسلامی مملکت میں یا اقتدار مشرکین میں؟ سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورۃ الصافات، سورۃ الانعام، سورۃ المؤمن سب کی صورتیں ہیں جن سے یہ آیات لی گئی ہیں ان سے یہ استدلال کرتا کہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کو مسلمانوں میں خلاف اسلام نظریات کی تبلیغ کا حق دیا جا رہا ہے کسی طرح لا تَقْتَلُمْ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں خلاف اسلام تبلیغ کی راہ کھولنے کے لیے ان حضرات نے یہ آیات بالکل بے محل نقل کی ہیں۔

ایک ضروری بات پھر یہ بھی دیکھئے کہ کافروں کو اپنے نظریات پر دلیل پیش کرنے کی دعوت کون دے رہا ہے؟ وہ جوان کے مقابلے کو پوری طرح سمجھ سکے اور عملی پہلو سے اسے توڑ کے کوئی عام آدمی ان غیر مسلموں کو دلیل پیش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ اس کے لیے غیر مسلموں کی یہ تبلیغ اچھا خاصاً فتنہ بن سکتی ہے۔

کسی کافر یا بدمنصب کو کسی عالم کے سامنے اٹھا بروئی خیال کا موقع دینا اور اس سے اس کے معتقدات پر دلیل طلب کرنا یہ اور بات ہے، اور اسے عامۃ المُسْلِمِين میں اپنے خیالات پھیلانے کی صورتیں مہیا کرنا یہ امر دیگر ہے، ان آیات کی پیشکش کا تعلق پہلی صورت سے ہے دوسری صورت سے نہیں۔ قل هاتوا برهانکم ان کتم صادقین میں خطاب خود حضور ﷺ سے ہے جن کے سامنے ان میں سے کسی کی کوئی بات نہ جل سکتی تھی سو ان آیات میں عامۃ المُسْلِمِين میں خلاف اسلام نظریات کی تبلیغ و اشاعت کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔

پھر اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کی رو سے کافروں کے پاس جا کر کہیں ان سے ان کی حقانیت کی دلیل نہیں مانگی قرآن کریم کا یہ جملہ قل هاتوا برهانکم ان کتم صادقین ان غیر مسلموں کو تبلیغ کا موقعہ دینے کے لیے نہیں تھا ان کی تجہیز اور تجھیز کے لیے تھا اسلوب عرب میں اس تم کے الفاظ دوسروں کے بیگز کو نہیاں کرنے اور ان کے بے دلیل چلنے کو بے نقاب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

ارشادِ نبوی ﷺ ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فلبسانه۔ (مک浩ۃ ص ۲۳۶ باب الامر بالمعروف) جہاں تک تم بدی کو ہاتھ سے روک سکو رکوز بان سے روکنے کا درجہ دوسرا ہے اب اگر کوئی

غیر مسلم گروہ مسلمانوں میں خلاف اسلام تبلیغ کر رہا ہے حکومت مسلمانوں کی ہے اور وہ ایسا کرنے سے بذریعہ آرڈی نہیں بھی روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ان کی اس خلاف اسلام تبلیغ کو صرف تقریروں اور مناظروں سے بے اثر کرتے ہیں تو یہ صورت عمل کیا اس حدیث کے صریح خلاف نہیں؟ یہ صورت عمل یقیناً قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی۔

میلے کذاب نے جب حضور ﷺ کو اپنی بنت کا خط لکھا تو حضور ﷺ نے اس سے دلائل طلب نہ فرمائے اسے استدلال اور مناظرے کا موقع نہ دیا اسی طرح حضرت صدیق اکبرؑ نے اس سے غیر تشریعی بنت جاری رہنے کے دلائل نہیں پوچھنے نہ اسے تقریر و تحریر کی آزادی دی بلکہ من رای منکم منکراً فلیغیرہ بیده کے تحت ان مکرات کا بزور سلطنت ازالہ کیا۔ بعض ائمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی دعویٰ بنت کرے اور کوئی شخص اس سے مجرہ طلب کرے (بشرطیکہ یہ طلب تجیز و تجہیز کے لیے نہ ہو) تحقیق کے لیے ہو تو وہ شخص خود کافر ہو جائے گا یہ طلب دلیل ہٹلاتی ہے کہ ابھی تک اسے حضور ﷺ کی ختم بنت پر یقین نہ تھا۔
(تحقیق از اکفارالمحمدین عربی ص ۵۷)

علامہ ابوالحکور الاسلامی نے کتاب التمجید میں اس کی تصریح کی ہے۔

اسلامی سلطنت میں اگر اس قسم کے لوگ پائے جائیں تو حکم شریعت یہ نہیں کہ انھیں اس قسم کے خلاف اسلام نظریات پھیلانے کی آزادی دی جائے بلکہ اس صورتو حال میں سربراہ مملکت اسلامی کے ذمہ ہو گا کہ وہ ایسا آرڈی نہیں نافذ کرے جس کی رو سے ان مکرات پر پوری پابندی لگ جائے۔ یہ آرڈی نہیں غیر مسلم اقلیتوں کی اپنے طقوں میں تبلیغ و تعلیم کی آزادی سے متصادم نہ ہو گا۔ یہ آرڈی نہیں اسلامی مملکت میں ہنسنے والی غیر مسلم اقوام کی اپنے طقوں میں تقریر و تحریر کی آزادی کے خلاف نہیں مسلمانوں کو غیر مسلم ہونے سے بچانے کے لیے افراد امت اور حوزہ امت کی حفاظت کے لیے ہے۔

قادیانی حضرات نے اپنی اس اپیل میں بھی سات آیات کے ساتھ ان آیات کو بھی پیش کیا ہے جن میں مسلمانوں کو غیر مسلموں میں تبلیغ کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ مسلمان اپنا حق تبلیغ کس طرح استعمال کریں یہ اس کا بیان ہے غیر مسلموں کو اسلامی سلطنت میں مسلمانوں میں خلاف اسلام باتوں کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(المؤمنون ۹۶)

۱..... ادفع بالتي هي احسن السيفه لعن اعلم بما يصفون.

(المکبوت ۳۶)

۲..... ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن.

(انجل ۱۳۶)

۳..... ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

سورہ انجل، سورہ المؤمنون اور المکبوت بھی کی سورتیں ہیں ان میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ سلطنت اسلامی میں غیر مسلموں کو مسلمانوں میں خلاف اسلام تبلیغ کی آزادی ہونی چاہیے۔ پس یہ آیات کسی صورت بھی صدر پاکستان کے جاری کردہ آرڈی نہیں کے خلاف نہیں ہیں۔

(اشراء ۳۱)

آیت اولو جنتک بخشی مہین۔

یہ فرعون کے دربار میں موئی ﷺ کا سوال تھا دارالکفر میں یہ ایمان کی ایک صدائی اس سے یہ تبیہ نکالنا کہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو مسلمانوں میں خلاف اسلام تبلیغ کا پورا حق ہے یہ بات اس آیت سے نہیں نکلتی

قادیانیوں نے اسے بھی بے محل پیش کیا ہے۔

قادیانی مبلغ بے موقع آیات لانے اور ان سے قلط استدلال کرنے میں اس حد تک آگے کلچے ہیں کہ مشرکین سے جو سوال آخرت میں پوچھے جائیں گے اور انھیں جواب دینے کا موقع دیا جائے گا کہ وہ جان سکیں کہ ہمیں کن اعمال کی سزا دی جانے والی ہے اس سے بھی انھوں نے استدلال کیا ہے وہاں مشرکین کو جواب دینے کا موقع ملنے سے یہ استدلال کرنا کہ اسلامی مملکت میں مسلمانوں میں خلاف اسلام تبلیغ کرو کنا قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے نہایت ہی بے محل بات ہے۔ قادیانیوں نے مسلمانوں میں تبلیغ کا حق مانگنے کے لیے یہ آیت پیش کی ہے۔

ونزعنًا من كُل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا
يفترون۔ (القصص ۲۷) ”اور کالیں گے ہم ہر ایک امت سے ایک احوال ہتلانے والا بھر کیں گے، ہم، لا ڈاپی سندا۔

تب جان لیں گے کہ حق بات ہے اللہ کی اور کوچو جائیں گے ان سے وہ باتیں جو وہ اپنی طرف سے گھڑتے تھے۔“

یہ آیت سرے سے اس دنیا کے پارے میں ہی نہیں آخرت کے پارے میں ہے ان لوگوں کو جھوٹوں نے اللہ پر افتراہ باندھا مثلاً کہا کہ ان پر وحی اترتی ہے حالانکہ ان پر کوئی وحی نہ آئی تھی مخفی افتراہ تھا انھیں جواب دینے کا موقع فراہم کیا جائے گا اس موقع کے فراہم ہونے سے یہ استدلال کرنا کہ دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمانوں میں خلاف اسلام تبلیغ کرنے کی پوری آزادی ہوئی چاہیے۔ نہایت ہی بے جوڑ بات ہے اس آیت سے پہلی آیت صاف بتارہی ہے کہ ہاتوا برهانکم کی یہ بات قیامت کے دن ہو گی فرمایا۔

و يوم يناديهم فيقول اين شركاني الدين كتم تزععون. (القصص ۲۵)

قادیانیوں کی پیش کردہ تیرہ آیات کی یہ تفصیل کردی گئی ہے کہ ان میں سے ایک آیت بھی موضوع سے تعلق نہیں رکھتی اور کسی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کو مسلمانوں میں خلاف اسلام نظریات کی تبلیغ کا حق دیا گیا ہے یہ لوگ اپنے قلط موقف پر آیات پیش کرتے یوں معلوم ہوتے ہیں گویا آیات قرآنی سے کھیل رہے ہوں۔ صدر پاکستان نے اپنے آرڈی نیٹس میں ان پر جو پابندیاں لگائیں ان آیات میں سے کوئی آیت اس آرڈی نیٹس کے خلاف نہیں ہے تحفظ افراد امت کا تقاضا ہے کہ اسلامی سربراہ مملکت اپنے ملک میں مسلمانوں میں کسی قسم کے خلاف اسلام نظریات پھیلانے کی کسی طبقے یا فرد کو اجازت نہ دے اور تحفظ حوزہ امت کے لیے مسلمانوں کی اعتقادی سرحدوں کی حفاظت کرے۔

ارشاد قرآنی قول انسکم و اهلیکم ناراً (آل عمرہ ۶) کا یہ صریح تقاضا ہے۔

مسلمانوں کے ان دینی حقوق کے اس مختصر جائزہ (وحدت امت کا تحفظ، افراد امت کا تحفظ، شعارات کا تحفظ اور حوزہ امت کا تحفظ) کے بعد اب اصل سوال کی طرف رخ کیا جاتا ہے کہ مملکت اسلامی میں قادیانی غیر مسلم اقلیت کو کیا کیا نہیں؟ حق حاصل ہو سکتے ہیں؟

اس سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے ایک اور مرحلہ مقابی عبور ہے اس سے گزرے بغیر آگے بڑھنا مفید نہ ہو گا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں لیکن یہ غیر مسلموں کی کون سی قسم ہیں یہ بات پہلے طے ہوئی چاہیے۔ غیر مسلم لوگ کو اپنی تمام اقسام کے ساتھ امت واحدہ ہیں تاہم اسلام میں ان اقسام کے دنیوی احکام کچھ مختلف ہیں گو آخرت میں سب کا انجام ایک سا ہو گا حشر کے دن مومنوں اور مسلمانوں کے سوا کوئی فلاج نہ پا سکے گا جو اپنے پروردگار کے ہتھیارے ہوئے صحیح راستے پر ہیں وہی اس دن فلاج پائیں گے۔

اولنک علیٰ هدى من ربهم و اولنک هم المفلحون (آل عمرہ ۵) میں فلاج پانے کا بیان ہے۔

کافر سب ایک ملت ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ ایک مقام پر (یہود و صائبین، نصاریٰ و مجوس اور مشرکین) مختلف قسم کے کفار کا ذکر فرمایا ہے اور پھر ان تمام کو (مومنین اور جمیع کفار کو) دو فریق قرار دیا ہے۔ ۱..... مومن ۲..... کافر۔ پہلے یوں ذکر فرمایا۔

ان الذین امنوا والذین هادوا والصائبین والنصاریٰ والمجوس والمعجوس والذین اشروا۔ (ان ۱۷) اور کافروں کو ایک ملت قرار دیتے ہوئے مومنوں کے مقابلہ میں یوں ذکر فرمایا۔ هدایا خصماء اختصموا فی رہبهم یہ دو مدعا ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں جھکڑ رہے ہیں۔ (ان ۱۹)

علوم ہوا کہ کافر سب ایک ملت ہیں الکفر ملة واحدة گر قرآن و حدیث کی رو سے دنیا میں ان کے احکام مختلف ہیں۔ ۱..... دھریہ مکرین خدا۔ ۲..... مشرک ہندو۔ ۳..... مکرین بیوت فلاسفہ۔ ۴..... اہل کتاب، یہود و نصاریٰ۔ ۵..... مجوس آتش پرست۔ ۶..... منافق اعتمادی۔ ۷..... ملحد۔ ۸..... مرتد اقراری۔ ۹..... مرتد تاویل۔ ۱۰..... زنداقی باطنیہ وغیرہ پھر ان میں جو مطلق کافر ہیں ان میں کچھ حربی کافر بھی ہوتے ہیں۔

مومنوں کے مقابلہ میں یہ سب ایک ہیں ہو الہی خلقکم فمنکم کافر و منکم مومن۔ (الغایب ۲) قرآن کریم میں ملدين کا ذکر آرڈننس زیر بحث کے موضوع میں کافروں کی دیگر اقسام سے بحث نہیں البتہ ملدين کا ذکر کیا جاتا ہے قادیانی افکار و نظریات اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔

ان الذین يلحدون فی ایاتنا لایخفون علیہنَا افمن یلقی فی النار خيراً من یاتی امنا يوم القيمة اعملوا ما شتمتم انه بما تعلمون بصيره ان الذين كفروا بالذکر لما جاءه هم وانه لكتب عزيزه لا يأبه بهما الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميده (حمد الحمد ۳۲۶، ۳۴۰) "جو لوگ ہماری آیات میں الحاد (ثیڑھاپن) سے چلتے ہیں وہ ہم سے چھپنہیں رہتے بھلا وہ جو پڑتا ہے آگ میں بہتر ہے یادہ جو قیامت کے دن امن میں ہو گا کیے جاؤ جو چاہو پیٹک وہ محارے کیے کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ کافر ہو گئے قرآن سے جب وہ آچکا ان کے پاس اور وہ کتاب عزیز ہے۔ اس میں جھوٹ جمل نہیں سکتا نہ سیاق میں نہ سابق میں۔ اتنا رہا ہے سب حکتوں والے کا سب تریقوں والے کا۔"

ان آیات نے ایک ایسے گروہ کا پتہ دیا۔ ۱..... جو آیات قرآنی میں الحاد کی راہ اختیار کریں گے۔ ۲..... وہ چھپے چھپے یہ کام کریں گے لیکن ہم پر تخلی نہ رہیں گے۔ ۳..... قیامت کے دن انھیں امن حاصل نہ ہو گا وہ آگ والے ہوں گے۔ ۴..... الحاد کے ساتھ وہ قرآن سے کافر ہو جائیں گے (کل طور پر نہ کہیں گے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے) ۵..... ان کا کفر الحاد قرآن کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ قرآن میں باطل کو کوئی راہ نہ ملے گی (یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی خواصت کے ایسے اساباب کھڑے کر دیں گے جو ان طبقین کی تاویلات بالظہ کو بالکل کھول کر رکھ دیں گے)

قرآن و حدیث کا ظاہری انکار کیے بغیر ایسے معنی اختیار کرنا کہ اصل معنی کا انکار ہو جائے زندقا اور باطنیہ کہلاتا ہے پہلے دو میں بھی ایک فرقہ باطنیہ ہو گزرہ ہے جو ظواہر نصوص سے کھلیتے تھے اور انھیں کچھ باطنیہ تاویل سہیا کرتے تھے۔

قادیانیوں کے عقائد و نظریات پر تفصیلی اور تحقیقی نظر کرنے سے قادیانی کافروں کی بھی وہ قسم غیرتے ہیں جنہیں ملدين، زناوقد یا جدید باطنیہ سے تبیر کر سکتے ہیں۔

ملد سے مراد وہ شخص ہے جو حق سے روگردانی کر کے الفاظ شریعت کو ایسے معنی پہنانےے جو ان کی حقیقی مراد نہ ہوں زنداقی بھی وہی ہے جو الفاظ شریعت پر ایمان ظاہر کرے اور ان میں ایسے معانی داخل کرے جس سے اصل

کا انکار ہو جائے اور تاویل کا یہ کھیل ضروریات دین سے بھی کھلا جائے۔

الملحد العادل عن الحق المدخل فيه مالبس منه يقال الحد في الدين والعدى حاد عنه.

(سان العرب س ۲۳۹ ج ۱۲ الفظ خد)

المراد من الالحاد تغیرها عن وضعها وتبديل احكامها. (مختارات ۲۸۱ ص ۲۸۱ انتظار)

الزنديق في عرف الفقهاء من يطن الكفر مصرًا عليه ويظهر الإيمان نقية ونقل عن شرح المقاصد ان الكافران كان مع اعتقاده بنبوة النبي ﷺ واظهاره شرائع الإسلام يطن عقائد هي الكفر بالاتفاق خص باسم الزنديق. (شيخ زاده بحاشية تفسير بيضاوي ج ۲ ص ۱۳۲)

فما المراد بابطان الكفر ليس هو الكتمان من الناس بل المراد ان يعتقد بعض ما يخالف عقائد الإسلام مع ادعائه اياه. (آثار المحدثين عربي ص ۱۳)

ان تصریحات کی روشنی میں فرقہ باطنیہ زناوقد اور محدثین کی حقیقت ایک سی ہے عنوان اور پیرائے ان کے مختلف ہیں لیکن حکم ان سب کا ایک ہے اور وہ یہ کہ یہ سب کافر ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

تفسیر الزندقة والالحاد والباطنية و حکمها واحد و هو الكفار. (آثار المحدثین عربي ص ۱۲)

یہ کتاب آثار المحدثین شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد عثمانی " کی صدقہ ہے اور مولانا عثمانی " کے اس پر دستخط موجود ہیں۔

مرزا غلام احمد قادریانی نے علی اور بروز کے پردے میں فرقہ باطنیہ کی تکمیل جدید کی ہے کسی عبارت میں دوسرے معنی داخل کرنے تو درکنار اس نے ایک شخصیت میں دوسری شخصیت اتنے کا جو قلفہ پیش کیا ہے اس میں کوئی بات بھی اپنی جگہ نہیں رہ جاتی جملہ شرائع الإسلام کی بنیادیں مل جاتی ہیں۔ مثلاً مرزا غلام احمد نے حضرت عیسیٰ ﷺ کی شخصیت کے تین ظہور بتلاتے ہیں۔

۱.....حضرت عیسیٰ ﷺ کا پہلا ظہور جو سچ ناصری کی شکل میں ہوا۔

۲.....حضرت عیسیٰ ﷺ کا دوسرا ظہور جو حضور علیہ السلام کی شکل میں عرب میں ہوا۔

۳.....حضرت عیسیٰ ﷺ کا تیسرا ظہور جو غلام احمد کی شکل میں ہوا۔

۴.....حضرت عیسیٰ ﷺ کا آخری ظہور جو قبری صورت میں ہوا۔

مرزا غلام احمد قادریانی نے اس بارے باطنیہ کے لیے بروز اور حلول وغیرہ کے سب الفاظ استعمال کیے ہیں جو باطنیہ کی ایجاد تھے قرآن و حدیث میں یہ الفاظ کہیں نہیں ملتے۔ یہ غالباً غیر اسلامی اور اخادی اصطلاحات ہیں جنہیں کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں اور قرآن و حدیث اور فقہ میں ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔

پھر مرزا غلام احمد نے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ حضرت ابراہیم ﷺ نے حضور ﷺ کی صورت میں دوسرے ظہور چاہا اور پھر اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں حضور ﷺ کا بروز ہوں۔

قرآن و حدیث میں بروز و کون کے ان باطنی سلوکوں کا کہیں ذکر نہیں یہ یہ وہی فکر اسلام میں داخل کی گئی ہے اس بیان کی تائید میں مرزا غلام احمد قادریانی کی یہ تحریرات گزارش کی جاتی ہیں۔

۱.....حضرت ابراہیم ﷺ نے اپنی خوطیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد پھر عبد اللہ پر عبد المطلب کے گھر میں حنم لیا اور محمد ﷺ کے نام سے پکارا گیا ﷺ۔

(حاشیہ تریاق القلوب ص ۵۶ اخراجی ج ۱۵ ص ۷۷)

۲.....”حضرت سُقیفۃ الرؤوفین کو دو مرتبہ یہ موقع پیش آیا کہ ان کی روحانیت نے قائم مقام طلب کیا اذال جب ان کے فوت ہونے پر چھوپر سرگیا اور یہودیوں نے اس بات پر حد سے زیادہ اصرار کیا کہ وہ نعمۃ باللہ مکار اور کاذب تھا.....تب باعلام الہی مسیح کی روحانیت جوش میں آئی اور اس نے ان تمام الراہوں سے اپنی برائت چاہی اور خدا تعالیٰ سے اپنا قائم مقام چاہا تب ہمارے نبی ﷺ میں مبوث ہوئے.....مسیح ناصری کی روحانیت کا یہ پہلا جوش تھا جو ہمارے سید ہمارے سُقیفۃ الرؤوفین کے ظہور سے اپنی مراد کو پہنچا فائدہ اللہ پھر دوسری مرتبہ مسیح کی روحانیت اس وقت جوش میں آئی اور انہوں نے دوبارہ مثالی طور پر دنیا میں اپنا نزول چاہا.....وہ نمونہ سُقیفۃ الرؤوفین کا روپ بن کر مسیح موعود (مرزا) کہلایا کیونکہ حقیقت عیسیٰ کا اس میں حلول تھا.....یہ وہ دلیل معرفت ہے جو کشف کے ذریعہ اس عابز پر کھلی ہے.....جب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلدی طور پر اپنا نزول چاہے گی تب ایک تہری ہمیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمه ہو جائے گا۔تب آخر ہوگا اور دنیا کی صفائض دی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتلوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے بھی مقدر تھا کہ تین مرتبہ دنیا میں نازل ہو۔“

مرزا غلام احمد قادریانی نے اپنے میں صرف حضرت عیسیٰ کے نزول کا دعویٰ ہی نہیں کیا اپنے آپ کو حضور ﷺ کا بھی دوسرا بروز بتلایا مرزا غلام احمد قادریانی نے لکھا:

”وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے۔“

”اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد پر اپنی نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی محمد کی چیز محمد کے پاس نہیں رہی۔“

مرزا غلام احمد قادریانی کے بیروقداریانی گروپ ہو یا لا ہوئی مرزا غلام احمد کو حضور ﷺ کا ہی بروز سمجھتے ہیں اور آپ نے جو عرب میں ظہور کیا وہ اس سے اس قادریانی ظہور کو کامل جانتے ہیں۔

مرزا قادریانی کی زندگی میں (البر قادریان ج ۲ شمارہ نمبر ۲۵، ۳۳ اکتوبر ۱۹۰۶ء) میں ان کے حق میں یہ اشعار شائع ہوئے۔

محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل
غلام احمد کو دیکھے قادریان میں
مرزا غلام احمد قادریانی نے اپنے لیے اوتار ہونے کا بھی دعویٰ کیا یہ خالصہ ہندوؤں کی ایک اصطلاح تھی
مرزا غلام احمد لکھتے ہیں:

”اس وقت خدا نے جیسا کہ حقوق عباد کے تلف کے لحاظ سے میرا نام مسیح رکھا اور مجھے خوار بر اور رنگ اور روپ کے لحاظ سے حضرت مسیح کا اوتار کر کے پہنچا ایسا ہی اس نے حقوق خالق کے تلف کے لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے توحید پھیلانے کے لیے تمام خوار بر اور رنگ اور روپ اور جامد محمدی پہننا کہ حضرت محمد ﷺ کا اوتار بنا دیا سو میں ان معنوں میں عیسیٰ مسیح بھی ہوں اور محمد مہدی بھی.....یہ وہ طریق ظہور ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں۔“

بروز ہرگز ہرگز کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے نہ احادیث نبویہ اور آثار صحابہ میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے
مگر مرزا غلام احمد اس بروز میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ وہ اس کے بغیر اسلام کو تکمیل نہیں جانتے۔

مرزا قادیانی ایک بحث میں لکھتے ہیں:

”اس خیال سے مسئلہ بروز کا انکار لازم آتا ہے اور وہ انکار ایسا خطرناک ہے کہ اس سے اسلام ہی ہاتھ سے جاتا ہے تمام ربانی کتابیں اس مسئلہ بروز کی قائل ہیں (کیا یہ قرآن پر افترا نہیں) خود حضرت سعیج نے بھی سبی تعلیم سکھائی اور احادیث نبویہ میں بھی اس کا بہت ذکر ہے اس لیے اس کا انکار سخت جہالت ہے اور اس طرح سے خطرہ سلب ایمان ہے۔“ (تریاق القلوب ص ۱۵۸، خزانہ حج ۱۵ ص ۲۸۱)

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قادیانی تحریک باطنیہ کے خلاف اسلام حلول و بروز کے تصورات پر بنی ہے اگر اسے قانونی ٹھکل نہ دی جاتی تو اس کی بعض صوفیوں کی واردات کے انداز میں تاویل کر لی جاتی لیکن مرزا قادیانی نے اپنے تصورات پر نہ صرف ایک نئی امت کی تکمیل کی بلکہ خدا تک کو اپنے اندر اترا بٹایا اپنے زمین و آسمان نئے پتا نے اور اس الحادی راہ سے ایک پورے کا پورا نیام درب بنا ڈالا۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے:-

”وَجَدْتُ قَدْرَتَهُ وَقُوَّتِهِ تَفُورَ فِي نَفْسِي وَالْوَهْيَةِ تَسْرُجَ فِي رُوحِي وَضَرِبَتْ حَوْلَ قَلْبِي سُوَادَ قَاتِ الْحُضْرَةِ..... دَخَلَ رَبِّي عَلَى وَجُودِي وَكَانَ كُلُّ غُصْبِي وَحَلْمِي وَحَلْوِي وَمَرِي وَ حَرْكَتِي وَسَكُونِي مِنْهُ وَبَيْنَمَا إِنَّمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَنْتُ الْقَوْلَ إِنَّا نَرِيدُ نَظَاماً جَدِيداً سَمَاءً جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً فَخَلَقْتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ.“ (آنیت کمالات اسلام ص ۵۶۵، ۵۶۲، خزانہ حج ۵ ص ایضاً)

”اور میں نے دیکھا اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے اور اس کی الوہیت مجھ میں موجود ہے حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے..... خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غصب اور حلم اور تختی شیر نئی اور حرکت و سکون سب اسی کا ہو گیا اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔“

(کتاب البر یہ ص ۸۲، خزانہ حج ۱۳ ص ۱۰۴)

مرزا غلام احمد قادیانی نے علی و بروز اور تخلی و حلول کے انہی سایوں میں اپنے مدھب کا ایک پورا نظام جدید ترتیب دیا پرانے باطنیہ کی طرح نئے ملاحدہ میدان میں آئے اور انہوں نے ضروریات دین میں وہ تاویلیں کیں جن سے ان کے اصل اسلامی معنی کا انکار ہو گیا۔ یہ لوگ بایس طور کر عنوan اسلام کا کھلا انکار نہیں کرتے لیکن بعض ضروریات دین کو جدید معنی پہنانتے ہیں اور ان کے اصل معنی کا انکار کرتے ہیں مسلمانوں سے کھل گئے قادیانیوں کے مسلمانوں سے جملہ اختلافات سب اسی الحاد کے سایہ میں مرتب ہوئے ہیں اور اسی لیے جسیع اہل اسلام انھیں اپنے سے جدا ایک علیحدہ امت سمجھتے ہیں اور یہ بھی اپنے آپ کو مسلمانوں سے ہر بات میں علیحدہ جانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر محمد لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا:-

”یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات سعیج یا چند اور مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔“

(روزنامہ الفضل قادیانی حج ۱۹ نومبر ۱۹۳۱ء، ج ۱۲، ص ۳۰)

مدد و زنداق کا وجود کھلے کافروں اور دیگر اہل ذمہ سے زیادہ خطرناک ہے ان کے الحاد کا تختہ مشق قرآن و حدیث ہوتے ہیں انھیں احسان و مرقت کے طور پر اگر کچھ حقوق دیے جائیں تو ان کی تعین میں یہ باشیں الامم فالاهم کے طور پر رحمتی ہوں گی۔

۱..... قرآن و حدیث کو ان کا تختہ مشق بننے سے کیسے بچایا جاسکتا ہے۔
 ۲..... مسلمانوں کو ان کے عقائد و نظریات کے زیر اثر آنے سے کیسے بچایا جاسکتا ہے۔
 ۳..... یہودی ملک دشمن اسلام طاقتوں سے ان کی دوستی کو کیسے روکا جاسکتا ہے اور اس کے خطرناک نتائج سے ملک کو کیسے بچایا جاسکتا ہے۔

ان تین مشکلات پر قابو پانے کے بعد ان کے دینوی اور مذہبی حقوق طے کیے جاسکتے ہیں اور اگر یہ مسلمانوں کی عائد کردہ شرطوں کو تسلیم کر لیں تو مسلمان انھیں ان کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دے سکتے ہیں اس صورت میں انہیں کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی۔ باسیں یہاں یہاں مذہب کے سے پورے حقوق نہ پاسکیں گے دوسرے الہ ذمہ اپنے مذہبی معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ کسی مقام اشتباہ میں نہیں نہ وہ اپنی تبلیغ و اشاعت میں قرآن و حدیث پر کوئی تهدانہ مشق کرتے ہیں لیکن قادریٰ الحادی ضرب بر او راست مسلم معتقدات پر آتی ہے اس لیے ان میں اور عام الہ ذمہ میں فرق کرنا ضروری ہے۔

اسلام میں لحد کی سزا اسلامی سوسائٹی میں زندیق اور طحہ کا وجود ناقابل برداشت ہے مسلمانوں کے لیے زنداق کا وجود ایک مستقل خطرہ اور مسلمانوں کے دین و ایمان پر ایک ہمیشہ کے لیے لٹکنے والی تکوar ہے۔

ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے مشتبہ ماحول میں ہمیشہ کی زندگی بترنیں کر سکتا حضرت علیہ کی خدمت میں کچھ زندیق لائے گئے تو آپؐ نے ان پر سزاۓ موت کا حکم دیا اور انھیں آگ میں ڈلوایا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان کے اس طریق سزا سے اختلاف فرمایا۔ (مکہوہ ص ۷۴ باب قتل الہ الردة عن المخاری)

قادیانیوں کو اگر الہ ذمہ کے سے حقوق دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ سلطنت اسلامی عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت کرے اور یہ اس پر فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیدہ انکار ختم نبوت کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لے اور یہ کھلا تعارض ہے ہاں اگر انکار ختم نبوت کا عقیدہ ان کے اپنے دائرے کا رنگ محدود رہے اور اس کے عام ہونے کے جملہ اخلاقات و مواقع سب بند کر دیے جائیں تو پھر اس میں تعارض نہیں رہتا۔ سربراہ ملکت اسلامی کے اس آرڈننس کے باوجود اگر لوگ اپنی الحادی تبلیغ مسلمانوں میں جاری رکھیں اور قرآن و حدیث ان کے فاسد نظریات کا برابر تھوت مشق بنے رہیں تو پھر یہ حرbi کافر قرار پائیں گے اور انھیں ان کے غلط نظریات کی حفاظت کا ذمہ نہ دیا جائے گا قرآن کریم میں حرbi کافروں کی سزا یہ بیان کی گئی ہے۔

انما جزاء الـدین يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوها او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوا من الارض۔ (المائدہ ۲۳) ”بے شک ان لوگوں کی سزا جو لای کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور دین میں فساد پھیلانے کی سعی کرتے ہیں یہ ہے کہ انھیں قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا انھیں اس (اسلامی) زمیں سے جلاوطن کر دیا جائے گا۔“

امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کفار و مرتدین کے بارے میں ہے مگر حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں ذهب جمهور الفقهاء الى انها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض فسادا و يقطع الطريق وهو قول مالك والشافعى والوكوفيين..... عن اسماعيل القاضى ان ظاهر القرآن وما مضى عليه عمل المسلمين يدل على ان العحدود المذكورة في هذه الآية نزلت في المسلمين.

”جمهور فقهاء اس طرف گئے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مسلمانوں میں سے لکھی اور مسلمانوں میں فساد پھیلانے اور راہ کائیتے کے لیے خروج کیا۔ امام مالک، امام شافعی اور اہل کوفہ کی بھی یہی رائے ہے..... اسمبلی قاضی کہتے ہیں کہ ظاہر قرآن اور جس پر مسلمانوں کا تعامل رہا۔ یہی ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہی اتری ہے۔“

خدائی احکام سے براہ راست مکمل لینے کو قرآن کریم نے البقرہ ۲۷۹ میں فاذنوا بحرب من اللہ و رسولہ کے الفاظ میں ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں صرف میدانی بغاوت مراد نہیں عقائد کی میلانی بغاوت بھی اس میں شامل ہے۔ مبانی میں فساد پھیلانے والوں اور معانی میں فساد پھیلانے والوں ہر دو طبقوں کو یہ آیت شامل ہوگی۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی ”فرماتے ہیں۔“ الفاظ کو عموم پر رکھا جائے تو مضمون زیادہ وسیع ہو جاتا ہے آیت کی جو شان نزول احادیث صحیح میں بیان ہوئی ہے وہ بھی اسی کو مقتضی ہے کہ الفاظ کو عام رکھا جائے اللہ اور اس کے رسول سے جگ کرنا زندگی میں فساد اور بدائی پھیلانا یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں کفار کے حملے و ارتکاد کا قصہ، رہنمی اور ڈیکٹیٹ ناقص قتل، نہب، مجرمانہ سازشیں مخفیانہ پر اپیکنڈہ سب داخل ہو سکتے ہیں اور ان میں سے ہر جرم ایسا ہے جس کا ارتکاب کرنے والا چار سو اؤں میں سے جو آگے مذکور ہیں کسی نہ کسی سزا کا ضرور مستحق ہوتا ہے۔ (حاشیہ ترجیح شیخ الہند میں ۱۳۶ سورہ المائدہ مطبوعہ الحج ایم سعید عینی)

صدر پاکستان کے جاری کردہ اس آرڈیننس کے باوجود جو قادیانی اپنے خلاف اسلام نظریات و عقائد کی کھلی تبلیغ سے نہ رکیں اور مسلمانوں میں ان خلاف اسلام نظریات کا برابر پر چار کرتے رہیں وہ حرbi کافر ہیں اور جو ایسا نہ کریں اپنے نظریات و عقائد کو اپنے تک محدود رکھیں وہ ملحد ہیں اور زنا و قہقہہ ہیں اور حکم دونوں کا ایک نہیں جو ملحد ہیں اپنے نظریات اپنے تک محدود رکھیں انھیں احسان اور مرمت کے طور پر کچھ حقوق دیے جاسکتے ہیں۔

زندیق اور مرتد میں فرق جس زندیق اور ملحد پر پہلے ایسا وقت گزرا ہو جب وہ مسلمان تھا اور اس کے بعد وہ اسلام کے ان عقائد سے پھرا اور زندقا و الحاد کا مرکب ہوا تاہم اس نے اسلام کا کھلا انکار نہیں کیا کفر تاولیل کی راہ سے وہ حدود اسلام سے لکھا ایسا شخص زندیق ہی ہے اور مرتد بھی اور اگر اس پر دور اسلام کچھ بھی نہیں گزرا وہ زندیق ہو گا مرتد نہیں۔ اور اگر تباخ ہو تو والدین کے نہب پر ان کے حکم میں آئے گا۔

زندیق اور ملحد کا حکم امام ابوحنیفہ کے ہاں تو ملحد و زندیق اس درجہ مجرم ہے کہ اگر وہ پکڑا گیا اور پھر وہ توبہ کرنے کا تو اس کی توبہ قول نہ کی جائے گی حضرت امام فرماتے ہیں:

اقلووا اللذين يدعونا ممن لا يحيى من أهلكم (احکام القرآن لابی الحجاج ص ۱۵)

زندیق اور مرتد کا حکم شرعاً ایک ہے جو لوگ پہلے مسلمان تھے اور پھر قادیانی ہوئے تو وہ مرتد بھی ہیں اور زندیق بھی اور جو لوگ ان زنا و قہقہہ و ملحدین کے ہاں پیدا ہوئے یا وہ پہلے ہندو یا یوسیائی تھے اور پھر قادیانی ہوئے تو وہ زندیق و ملحد تو ہیں لیکن مرتد نہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہیں تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے۔ وہ قطعاً اہل قبلہ میں نہیں رہتے۔ امام محمدؐ فرماتے ہیں:

من انکر هنیا من شرائع الاسلام فقد بطل قول لا اله الا الله۔ (شرح سیر کیرج ص ۳۶۸)

”جس نے شرائع اسلام میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا اس نے اپنے کلمہ گو ہونے کو باطل کر لیا۔“

قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا۔ قادیانی جب شرعاً زندیق اور مرتد ہیں اور اسلام مرتد اور زندیق کے وجود کو برداشت نہیں کرتا تو سوال یہ ہے کہ انھیں غیر مسلم اقلیت قرار دے کر انھیں جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دینا شرعاً کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصلاً تو یہ لوگ واقعی مرتد اور زندیق ہیں لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شخص اگر یہی مردت کے زیر سایہ ان میں ملے اور وہ اسلام کے متواتر تقاضوں سے ناواقف یا غافل تھے۔ پھر اگر یہی اقتدار کے زیر سایہ ان کی مقدار اور برهنی کمی اب انھیں اسلامی مروت و احسان کے تحت ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر اگر برداشت کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے انھیں پھر سے اسلام اور قادیانیت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے اور کچھ لوگ ان میں سے پھر صرف اسلام میں لوٹ آئیں۔ مسلم سربراہ یا مسلمانوں کی قومی اسمبلی اس تالیف قلب پر اگر انھیں مزائے موت نہ دے اور کچھ وقت کے لیے ان کو موقع دے کر وہ پھر سے اسلام یا قادیانیت میں سے کسی ایک کا اپنے لیے انتخاب کر لیں تو اس عبوری دور میں ان پر حکم زندیق جاری نہ کرنے کی بھی اسلام میں گنجائش ہے۔

حضرت امام بخاریؓ نے خوارج کو اس بات کا ملزم ٹھہراتے ہوئے کہ وہ متواترات اسلام سے نکل گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں اس پر یہ باب باندھا ہے۔ قتل من ابی قبول الفراض و ما نسبوا الی الردة اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جو شخص فرائض اسلام میں سے کسی کا انکار کر دے اس پر حکم قتل دیا جائے۔ اس کے ایک باب کے بعد پھر یہ باب باندھا ہے۔ باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامۃ الحجۃ علیم۔ اور پھر اس کے ایک باب بعد یہ باب باندھا ہے۔

باب من ترك قتال الخوارج للتحالف وان لا ينفر الناس منه حافظ ابن حجر عسقلاني اس کے تحت تلخیت ہیں۔

قال المهلب التالف انما كان في اول الاسلام اذا كانت الحاجة ماسة اليه لدفع مضرتهم فاما اليوم فقد اعلى الله الاسلام فلا يجب التالف الا ان ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك فلاما ذلك الوقت ذلك.

”مهلب کہتے ہیں کہ یہ تالیف قلب ابتدائے اسلام میں تھا جب مسلمانوں کو دفع مضررت کے لیے اس کی ضرورت تھی لیکن اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندی بخشی ہے۔ یہ تائف واجب نہ رہا (جو اس میں بحث نہیں ہے) مگر جبکہ تمام لوگ اس کی ضرورت محسوس کریں پھر امام وقت ایسا کر سکتا ہے۔“
بعض علماء نے اس ترک قتال کو منفرد سے خاص کیا ہے اور لکھا ہے۔

والجمع اذا اظهر وارا لهم ونصبو للناس القتال وجب قتالهم وانما ترك النبي ﷺ قتال المذكور لانه لم يكن ظهر ما يستدل به على ماوراء خلو قتال من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام امر الاسلام ورسوخه في القلوب لتعزهم عن الدخول في الاسلام وما بعده فلا يجوز ترك قتالهم.

”اور وہ جب گروہ کی صورت میں ایک رائے دیں اور لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں تو ان سے قتال واجب ہے اور آنحضرت ﷺ نے جب اسے قتل نہ کیا تو یہ اس لیے تھا کہ جو لوگ اس کے پیچے تھے ان کے سامنے بات ظاہر نہ ہو سکتی تھی کہ وہ کس لیے مارا گیا۔ اگر کوئی ایسا شخص استحکام اسلام اور اسلام کے دلوں میں راغب ہونے سے پہلے مارا جائے کہ اس کا ظاہر لوگوں کے ہاں اچھا ہو تو یہ بات ان دوسرے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے

سے روک بنتے گی لیکن ان حالات کے بدلنے کے بعد ان کا ترک قیال پڑھتی کہ اس کی طاقت ہو جائز نہیں۔ اگر وہ اپنے عقائد کا کھلا اقرار کرتے ہوں جماعت مسلمین کو چھوڑ پکے ہوں اور آئندہ کرام کی کلی خالفت کر رہے ہوں۔ اس کے بعد علامہ میتی لکھتے ہیں۔

قلت وليس في الترجمة ما يخالف ذلك الا انه اشار الى الله لموافقت حالة مثل حالة المذكورة فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلا ولم ينصروا حرباً انه يجوز الامام الاعراض عنهم اذا رأى المصلحة في ذلك.

(عمدة القاري بشرح صحیح البخاری ج ۱۵ ص ۲۲۵)

”میں کہتا ہوں امام بخاری کے ترجمہ الباب میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس کے خلاف ہو۔ ہاں ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی حالت اتفاق آئیں آجائے جو ان حالات سے ملتی جلتی ہو اور ایک طبقہ خوارج جیسے عقائد اختیار کر لے اور مسلمانوں سے نہ لڑے تو ان سے امام وقت کو اگر اس میں وہ مصلحت دیکھے زندگی کرنا اور درگز کرنا جائز ہوگا۔ ان مصالح کے پیش نظر پاکستان کی قومی اسلامی کے فیض سے سر برہا مملکت اسلامی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ تالیف قلب کے طور پر ترک قیال کی پالیسی کو اپنا کیں اور انھیں زندگی کا حق دیں اور انھیں اقلیت تسلیم کر لیں۔ لیکن یہ رعایت ان کے ساتھ اسی حد تک برقراری جاسکتی ہے کہ وہ جاریت نہ کریں۔ مسلمانوں میں اپنے عقائد و نظریات کی تبلیغ نہ کریں۔ مسلمانوں کے شعائر اسلام میں دھل نہ دیں اور انہیں مہبی آزادی کو اپنے گھروں اور اپنے حقوقوں تک محدود رکھیں جب تک وہ ان باتوں کی پابندی نہ کریں۔ مسلمانوں پر ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوگی۔“

زنادقة و مخدیں کو موقع دینا کہ وہ پھر اسلام کی طرف لوٹ سکیں۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ ان کے مسلمان ہونے کی کچھ امید بندگی ہو اس کے سوا مرتدین سے مصالحت کی کوئی صورت نہیں۔ علام ابن جبیر لکھتے ہیں:

إِنِّي نَصَّالِحُ الْمُرْتَدِينَ حَتَّى نَظُرُّ فِي أَمْوَالِهِمْ لَانِ إِلَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ مَرْجُوُهُمْ فَجَازَ تَخْيِيرُ قِنَالِهِمْ طَعَمًا لِيَ اسْلَامُهُمْ وَلَا نَأْخُذُ عَلَيْهِ مَالًا لَاهُ لَا يَجُوزُ اِخْدَالُ الْجُزِيَّةِ مِنْهُمْ وَلَا اَخْلَدُهُمْ لِمَ يَرِدُهُ لَاهُ مَالٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ.

(الحضرات ج ۵ ص ۸۰ کتاب السیر)

”مرتدین سے مصالحت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ان کے محاملات کا جائزہ میں ان سے اسلام لانے کی امید ہو تو اس صورت میں ان کے قیال میں تاخیر روا ہوگی کہ ان کے مسلمان ہونے کی امید ہو، ہم ان سے کوئی رقم بھی نہ لیں گے کیونکہ مرتدین سے جزیہ یہ جائز نہیں۔ اور اگر لے لیا ہو تو اسے واہیں نہ کیا جائے گا کیونکہ مرتد کا مال غیر معصوم ہے (اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں)“

مرزا غلام احمد اور اس کے پیروؤں کی تحریروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قادری (لاہوری گروہ ہو یا قادری) زنادقة و مخدیں ہیں اور کچھ مرتدین بھی ہیں۔ مگر مسلمانوں کو پھر بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ احسان و مروءۃ برستے ہوئے ان پر ان کی اصل سزا نافذ نہ کریں اور دیگر دینی اور ملکی مصالح کے پیش نظر انھیں عبوری طور پر غیر مسلم اقلیت کے حقوق دیں اور امید رکھیں کہ شاید وہ آہتہ آہتہ اسلام کی طرف جگنے لگیں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ اس اجازت سے نہ کتاب و سنت کی عظمت پامال ہو اور نہ مسلمانوں کے شعائر و افراد کو کسی حشر کا کوئی خطرہ ہو یا نقصان پہنچے۔ اگر یہ مسلمانوں کو اپنے عقائد پر لانے میں برابر کوشش رہیں اور ان کا کھلا اظہار کریں۔ کفر کی کلی تبلیغ کریں تو پھر یہ کافر جنگی کے حکم میں ہوں گے اور اس صورت میں یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔

اللهم إني أسألك لائحة بعثتك

گستاخ رسول کی سزا قتل

مولانا سید احمد سعید کاظمی

بسم الله الرحمن الرحيم

بسملة شریعت پیش در توہین رسالت

بعدالت جناب چیف جسٹس، وفاقی شرعی عدالت پاکستان
بیان مکن جانب: سید احمد سعید کاظمی صدر مرکزی جماعت المسنون،
پاکستان و شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ اسلامیہ انوار العلوم ملکان

محترم محمد اعلیٰ قریشی سختیر ایڈووکیٹ پریم کورٹ پاکستان لاہور، نے ہمام اسلامی جمہوریہ پاکستان، تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر ۲۹۵ الف اور دفعہ ۲۹۸ الف کے خلاف شرعی عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ جہاں تک اہانت رسالت اور توہین و تنقیص نبوت سے اس درخواست کا تعلق ہے، میں اس سے پوری طرح تنقیص ہوں اور دلائل شرعیہ (کتاب و سنت، اجماع امت اور تصریحات علماء دین) کے مطابق میں اس کی مکمل تائید اور حمایت کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں میرا تقاضی بیان درج ذیل ہے:

کتاب و سنت، اجماع امت اور تصریحات ائمہ دین کے مطابق توہین رسول کی سزا صرف قتل ہے۔ رسول کی صریح مخالفت توہین رسول ہے۔ قرآن مجید نے اس جرم کی سزا قتل بیان کی ہے۔ اسی پناپ کافروں سے قاتل کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے۔

ذلک يأْتُهُمْ هَالُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ (انفال ۱۳) یہ (یعنی کافروں کو قتل کرنے کا حکم) (دارک التغییر ۲ ص ۷۴ خازن ج ۲۲ ص ۱۸۲) اس لیے ہے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی صریح مخالفت کر کے ان کی توہین کا ارتکاب کیا۔ توہین رسول کے کفر ہونے پر بکثرت آیات قرآنیہ۔ شاہد ہیں مثلاً وَلَيْسَ سَالْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخْوَضَ وَنَلْعَبُ فُلْ أَبِيلَهُ وَأَبِيهِ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهِنُونَ لَا تَعْتَلِبُو وَأَلَذْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (توبہ ۶۵-۶۶) ”اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف اُنیں مذاق کرتے تھے۔ آپ (ان سے) کہیں، کیا تم اللہ اور اس کی آئینوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں مذاق کر تھےو۔ کوئی عذر نہ کرو۔ بے شک ایمان کے بعد تم نے کفر کیا۔“ مسلمان کہلانے کے بعد کفر کرنے والا مرتد ہوتا ہے اور از روزے قرآن مرتد کی سزا صرف قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ لِلْمُخْلَفِينَ مِنَ الْأَغْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَىٰ قُرْبٍ أُولَئِي نَأْمَسِ فَهَدَيْنَاهُمْ تَقْاتِلُونَهُمْ أُولَئِنَّمُؤْمِنُونَ (آل عمران ۱۶) ”اے رسول اللہ یا کچھ رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرمائیجئے، عقریب تم سخت جگ کرنے والوں کی طرف بلاعے جاؤ گے۔ تم ان سے قاتل کرئے رہو گے یادہ مسلمان ہو جائیں گے۔“ یہ آیت مرتدین الہی یامد کے حق میں بطور اخبار بالغیب نازل ہوئی۔ اگرچہ بعض علانے اس مقام پر فارس و روم وغیرہ کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن حضرت رافع بن خدنعؓ کی حسب ذیل روایت نے اس آیت کو مرتدین علی خینہ (اللہ یامد) کے حق میں تنقیص کر دیا۔

عن رافع بن خديج انا کنا فقراء هذه الابة فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا ابو بکر[ؓ]
الی قتال بنتی حنیفہ فعلمتنا انهم اربدوا بہا۔ (روح العالی ج ۲۶ ص ۹۳) "حضرت رافع
بن خدنجؓ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ہم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ کون لوگ
ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے (مرتدین) بنتی حنیفہ (آل یمامہ) کے قال کی طرف مسلمانوں کو
بلایا۔ اس وقت ہم سمجھے کہ اس آیت کریمہ میں یہ مرتدین ہی مراد ہیں۔"

ثابت ہوا کہ اگر مرتد اسلام نہ لائے تو از روئے قرآن اس کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں۔ قتل مرتد کے
بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ اختصار کے پیش نظر صرف ایک حدیث بیش کی جاتی ہے:

اللّٰهُ عَلٰى بِزَدْنَاللّٰهِ فَاحْرِقُهُمْ (وفی روایة ابی داؤد) ان علیاً احرق ناساً ارتد واعن الاسلام
فبلغ ذلک ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لتهی رسول الله ﷺ لا تعلدوها بعد اذاب الله
ولقتلهم لقول رسول الله ﷺ من بدل دینه فاقتلوه۔ (بخاری ج ۲ ص ۱۰۲۳ ابی داؤد وج ۲ ص ۱۳۸) "حضرت علیؓ
کے پاس (مرتد ہو جانے والے) زندیق لوگ لائے گئے تو آپ نے انھیں جلا دیا۔ اس کی خبر حضرت عبد اللہ بن
عباس کو پہنچی، تو انھوں نے فرمایا، اگر (آپ کی جگہ) میں ہوتا، تو انھیں نہ جلاتا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ
کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو، اور میں انھیں قتل کر دیتا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو (مسلمان)
اپنے دین سے پھر جائے، اسے قتل کر دو۔"

قتل مرتد کے بارے میں صحابہ کا طرز عمل

صدیقؓ اکبرؓ نے مند خلافت پر بیٹھنے ہی جس شدت کے ساتھ مرتدین کو قتل کیا، محتاج بیان نہیں۔ صحابہ
کرامؓ کے لیے مرتد کو زندہ دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ حضرت ابو موسی اشرعیؓ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما
دوноں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یمن کے مختلف حصوں پر حاکم تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل حضرت
ابو موسی اشرعیؓ سے ملاقات کے لیے آئے۔ ایک بندھے ہوئے شخص کو دیکھ کر انھوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ابو
موسی اشرعیؓ نے فرمایا:

کان یہودیا فاسلم ثم تھود قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث
مرات فامر به قتل۔ (بخاری باب حکم المرتد ج ۲ ص ۱۰۲۳ ابی داؤد و کتاب الحدود ج ۲ ص ۱۳۸)

"یہ یہودی تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر یہودی (ہو کر مرتد) ہو گیا۔ حضرت ابو موسی اشرعیؓ نے
حضرت معاذ بن جبلؓ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ انھوں نے تمن بار فرمایا: جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے، میں نہیں
بیٹھوں گا۔ (قتل مرتد) اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے چنانچہ حضرت ابو موسی اشرعیؓ کے حکم سے اسے اسی وقت
قتل کر دیا گیا۔"

گستاخ رسول کا قتل غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے تو ہیں رسول کے مرکب مرتد کو سجد حرام میں قتل کرنے کا حکم
رسول اللہ ﷺ نے دیا۔ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ قع مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ کے مکرمہ میں
تشریف فرماتے۔ کسی نے حضور ﷺ سے عرض کی، حضور ﷺ! (آپ کی شان میں تو ہیں کرنے والا) ابن حلل
کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "قتلوا" اسے قتل کر دو۔"

(بخاری باب دخل الحرم ج ۱ ص ۲۳۹ بخاری باب این رکن النبی ﷺ ج ۲ ص ۶۱۳)

یہ عبد اللہ بن خطل مرتد تھا۔ ارتداد کے بعد اس نے کچھ ناقن قتل کیے، رسول اللہ ﷺ کی بھوئیں شعر کہہ کر حضور ﷺ کی شان میں توپین و تنقیص کیا کرتا تھا۔ اس نے دو گانے والی لوٹیاں اس لیے رکھی ہوئی تھیں کہ وہ حضور ﷺ کی بھوئیں اشعار کایا کریں۔ جب حضور ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا تو اسے غلاف کعبہ سے باہر نکال کر باندھا گیا اور مسجد حرام میں مقام ابراہیم اور زم زم کے درمیان اس کی گردان ماری گئی۔

(فتح الباری ج ۸ ص ۱۳ باب این رکن النبی الرایہ یوم الفتح)

یہ صحیح ہے کہ اس دن ایک ساعت کے لیے حرم مکہ کو حضور ﷺ کے لیے حلال قرار دے دیا گیا تھا، لیکن بالخصوص مسجد حرام میں مقام ابراہیم اور زم زم کے درمیان اس کا قتل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ گستاخ رسول باقی مرتدین سے بدر جہا بدر و بدحال ہے۔

اجماع امت ۱..... قال محمد بن سخنون اجمع العلماء ان شاتم النبي ﷺ المتقصص له کافر والوعید جار عليه بعذاب الله له و حكمة عند الامة القتل ومن شك في كفره وعداته كفر. (الشفاء باب ما هو في حقه ح ۲ ص ۱۹۰) ”محمد بن سخنون نے فرمایا، علماء امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم ﷺ کو گماں دینے والا حضور ﷺ کی توپین کرنے والا کافر ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید جاری ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے۔ جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے، کافر ہے۔“

۲..... وقال ابو سليمان الخطابي لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله اذا كان مسلماً. (النصارى المسلمون باب قتل ساب النبي ﷺ ح ۲ ص ۱۹۰) ”امام ابو سليمان الخطابي“ نے فرمایا، جب مسلمان کہلانے والا نبی ﷺ کے سب کا مرکب ہو تو میرے علم میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس نے اس کے قتل میں اختلاف کیا ہو۔“

۳..... واجمعت الامة على قتل متقصصه من المسلمين وسائمه.

(الشفاء باب فیمن متقصصه او سبه عليه السلام ح ۲ ص ۱۸۲)

”اور امت کا اجماع ہے کہ مسلمان کہلا کر حضور ﷺ کی شان میں سب اور تنقیص کرنے والا قتل کیا جائے گا۔“

۴..... قال ابوبکر بن منذر اجمع اهل العلم على ان من سب النبي ﷺ يقتل قال ذلك مالک بن انس والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعی قال القاضی ابو الفضل وهو مقتضی قول ابی بکر الصدیق ”ولا تقبل توبته عند هؤلاء ويمثله قال ابوحنیفة واصحابة والغوری واهل الكوفة والوزاعی فی المسلمين لكنهم قالوا هي ردة. (الشفاء باب ما هو في حقه ح ۲ ص ۱۸۹) ”امام ابوبکر بن منذر نے فرمایا، عامہ علماء اسلام کا اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم ﷺ کو سب کرے، قتل کیا جائے گا۔ ان عی میں سے مالک بن انس، لیف، احمد، اسحاق (رحمہم اللہ) ہیں اور یہی شافعی کا مذهب ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق ”کے قول کا یہی متفق ہے۔ (پھر فرماتے ہیں) اور ان ائمہ کے نزدیک اس کی توبہ بھی قول نہ کی جائے گی۔ امام ابوحنیفة، ان کے شاگردوں، امام ثوری، کوفہ کے دوسرے علماء اور امام اوزاعی کا قول بھی اسی طرح ہے۔ ان کے نزدیک یہ رذت ہے۔“

۵..... ان جمیع من سب النبي ﷺ او عابہ او الحق به نقاصاً فی نفسه او نسبہ او دینہ او خصلۃ من خصالہ او عرض به او شبہ بشی علی طریق السب لہ او الازراء علیہ او التصغیر بشانہ او الغض منه

والعيب له فهو سائب له والحكم فيه حكم الساب بقتل كمانبيه ولا نستثنى فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصود ولا نمترى فيه تصریحاً كان او تلویحاً وهذا كلہ اجماع من العلماء والملمة الفتوی من لدن الصحابة رضوان اللہ علیهم الی هلم جرا۔

(الشافعیہ باب ماهور فی حقہ تکفیر ح ۲۲ ص ۱۸۸)

”بے شک ہر وہ شخص جس نے نبی کریم ﷺ کو گالی دی یا حضور ﷺ کی طرف کسی عیب کو منسوب کیا یا حضور ﷺ کی ذات مقدسہ، آپ ﷺ کے نب، دین یا آپ ﷺ کی کسی خصلت سے کسی شخص کی نسبت کی یا آپ ﷺ پر طمع زدنی کی یا جس نے بطرق سب اہانت یا تحقیر شان مبارک یا ذات مقدسہ کی طرف کسی عیب کو منسوب کرنے کے لیے حضور ﷺ کو کسی چیز سے تشبیہ دی، وہ حضور ﷺ کو صراحتہ گالی دینے والا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ ہم اس حکم میں قطعاً کوئی استثنائیں کرتے۔ نہ ہم اس میں کوئی شک کرتے ہیں۔ خواہ صراحتہ توہین ہو یا اشارۃ کثناۃ اور یہ سب علماء امت اور اہل فتویٰ کا اجماع ہے۔ عہد صحابہ سے لے کر آج تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔“

۶..... والحاصل اللہ لا شک ولا شبهہ فی کفر شاتم النبی ﷺ و فی استباحة قتلہ و هو المنقول عن الانتماء الاربعة۔ (فتاویٰ شای باب فی حکم سب ایشمن ح ۳۲۱ ص ۳۲۱) ”خلاصہ یہ ہے کہ نبی ﷺ کو گالی دینے والے کے کفر اور اس کے مستحق قتل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ چاروں ائمہ (ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل) سے میکا منقول ہے۔“

۷..... کل من ابغض رسول اللہ ﷺ بقلبه کان مرتدًا فالساب بطريق اولی ثم یقتل حداً عندنا۔ (فتح القدر باب احکام المرتدين ح ۵ ص ۳۲۲) ”جو شخص رسول اللہ ﷺ سے اپنے دل میں بغض رکھے وہ مرتد ہے۔ آپ ﷺ کو گالی دینے والا تو بطريق اولی مستحق گردن زدنی ہے۔ پھر (ختنی نہ رہے کہ) یہ قتل ہمارے نزدیک بطور حد ہوگا۔“

۸..... ایما رجل مسلم سب رسول اللہ ﷺ او کلہہ او عابہ او تنقصہ فقد کفر بالله و بانت منه زوجته۔ (کتاب الخراج ص ۷۷ فصل فی الحکم المرتد فتاویٰ شای ب ۳۱۹ ص ۳۱۹) ”جو مسلمان رسول اللہ ﷺ کو سب کرے یا تحذیب کرے یا عیب لگائے یا آپ کی تتفیص شان کا (کسی اور طرح سے) مرکب ہو، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس سے اس کی زوجہ اس کے نکاح سے کلک گئی۔“

۹..... اذا عاب الرجل النبی ﷺ فی شيء کان کافرا و کذا قال بعض العلماء لو قال لشعر النبی ﷺ شعیر فقد کفر و عن ابی حفص الکبیر من عاب النبی ﷺ بشعرة من شعراته الکریمة فقد کفر و ذکر فی الاصل ان شتم النبی کفر۔ (فتاویٰ قاضی باب ما یکون کفر امن ایسلم ح ۲۲ ص ۳۶۸) ”کسی شے میں حضور پر عیب لگانے والا کافر ہے اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا، اگر کوئی حضور ﷺ کے بال مبارک کو ”شعر“ کے بجائے (بیضہ تغیریت، ”شعیر“ کہہ دے) تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور امام ابو حفص الکبیر (خطی) سے منقول ہے کہ اگر کسی نے حضور ﷺ کے کسی ایک بال مبارک کی طرف بھی عیب منسوب کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور امام محمد بن ”مبسوط“ میں فرمایا کہ نبی ﷺ کو گالی دینا کافر ہے۔“

۱۰..... ولا خلاف بین المسلمين ان من قصد النبی ﷺ بذلك فهو من يتحل الاسلام انه مرتد يستحق القتل۔ (الاحکام القرآن للجصاص ح ۳ ص ۱۰۶) ”کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں کہ جس شخص نے نبی

کریم ﷺ کی اہمیت و ایڈا رسانی کا قصد کیا اور وہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ مرتد مستحق قتل ہے۔“

یہاں تک تھا رہا بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کتاب و سنت اجماع امت اور اقوال علمائے دین کے مطابق گستاخ رسول کی سزا بھی ہے کہ وہ حد اُفْل کیا جائے۔ اس کے بعد حسب ذیل امور کی وضاحت بھی ضروری ہے:

۱..... بارگاؤ نبوت کی توہین و تتفیع کو موجب حد جرم قرار دینے کے لیے یہ شرط صحیح نہیں کہ گستاخ کرنے والے نے مسلمانوں کے نہیں جذبات کو مشتعل کرنے کی غرض سے گستاخی کی ہو۔ یہ شرط ہر گستاخ نبوت کے تحفظ کے مترادف ہو گئی اور توہین رسالت کا دروازہ کھل جائے گا۔ ہر گستاخ نبوت اپنے جرم کی سزا سے بچنے کے لیے یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا کہ مسلمانوں کے نہیں جذبات کو مشتعل کرنا میری غرض نہ تھی۔ علاوه ازیں یہ شرط کتاب اللہ کے بھی منافی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہم لکھ کچھے ہیں کہ توہین کرنے والے منافقون کا یہ عذر کہ ”ہم تو آپس میں صرف دل گئی کرتے تھے۔ ہماری غرض توہین نہ تھی۔“ نہ مسلمانوں کے نہیں جذبات مشتعل کرنا ہمارا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسٹر کردیا اور واضح طور پر فرمایا۔ لا تعلدوا لَدَكُفُرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ (توبہ ۲۶) ”بھانے نہ بناو، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا۔“

۲..... صریح توہین میں نیت کا اعتبار نہیں۔ ”راغنا“ کہنے کی ممانعت کے بعد اگر کوئی صحابی نیت توہین کے بغیر حضور ﷺ کو ”راغنا“ کہتا تو وہ وَاسْمَعُوا وَلَا كَفَرُوا نہیں۔ عذاب الیٰم کی قرآنی وعدہ کا مستحق قرار پاتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیت توہین کے بغیر بھی حضور ﷺ کی شان میں توہین کا لکھ کر کھانا کفر ہے۔

امام شہاب الدین خانی ختنی ارقام فرماتے ہیں:

المدار في الحكم بالكافر على الظواهر ولا نظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرائن حاله.
(نیم اریاض ح ۳۸۹ ص ۴۳۸ معنی دار المکریہ وہ)
”توہین رسالت پر حکم کفر کا مار ظاہر الفاظ پر ہے۔ توہین کرنے والے کے قصد و نیت اور اس کے قرائن حال کو نہیں دیکھا جائے گا۔“ ورنہ توہین رسالت کا دروازہ بھی بند نہ ہو سکے گا کیونکہ ہر گستاخ یہ کہہ کر بھی ہو جائے گا کہ میری نیت اور ارادہ توہین کا نہ تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ توہین صریح میں کسی گستاخ نبوت کی نیت اور قصد کا اعتبار نہ کیا جائے۔

۳..... یہاں اس شبہ کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی مسلمان کے کلام میں ننانوے وجوہ کفر کی ہوں اور اسلام کی صرف ایک وجہ کا احتمال ہو تو فتحاء کا قول ہے کہ کفر کا فتوئی نہیں دیا جائے گا۔ اس کا ازالہ یہ ہے کہ فتحاء کا یہ قول اس تقدیر پر ہے کہ کسی مسلمان کے کلام میں ننانوے وجوہ کفر کا صرف احتمال ہو، کفر صریح نہ ہو۔ لیکن جو کلام مفهموم توہین میں صریح ہو اس میں کسی وجہ کو مخطوط رکھ کر تاویل کرنا جائز نہیں۔ اس لیے کہ لفظ صریح میں تاویل نہیں ہو سکتی۔
قاضی عیاضؒ نے لکھا:

قال حبیب ابن الربيع لان ادعاء التاویل فی لفظ صراح لا يقبل.

(الشفاء باب فی بیان ماهو فی حقه ﷺ ح ۱۹۱ ص ۲۴)

”حبیب بن ریث نے فرمایا کہ لفظ صریح میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔“

کسی کلام کا توہین صریح ہونا عرف اور محاورے پر تھی ہے۔ مغدرت کے ساتھ بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو ولد الحرام کہا جائے اور کہنے والا لفظ ”حرام“ کی تاویل کرے اور کہے کہ میں نے ”المسجد الحرام“ اور

”بیت اللہ الحرام“ کی طرح معظم و محترم کے متن میں یہ لفظ بولا ہے، تو اس کی یہ تاویل کسی ذی فہم کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگی کیونکہ عرف اور محاورے میں ”ولد الحرام“ کا لفظ گالی اور توہین ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ کلام جس سے عرف و محاورے میں توہین کے معانی مفہوم ہوتے ہوں، توہین ہی قرار پائے گا، خواہ اس میں ہزار تاویلیں ہی کیوں نہ کی جائیں۔ عرف اور محاورے کے خلاف تاویل معتبر نہ ہوگی۔

۲..... یہاں اس شہر کو دور کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر توہین رسول کی سزا حاصل قتل کرنا ہے تو کمی منافقین نے حضور ﷺ کی صریح توہین کی۔ بعض اوقات صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور ﷺ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس گستاخ منافق کو قتل کر دیں، لیکن حضور ﷺ نے اجازت نہیں دی۔

ابن تیمیہ نے اس کے متعدد جوابات لکھے ہیں، جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(الف) اس وقت ان لوگوں پر حد قائم کرنا فسا عظیم کا موجب تھا۔ ان کے کلمات توہین پر صبر کر لینا اس فساد کی نسبت آسان تھا۔

(ب) منافقین اعلانیہ توہین رسالت نہ کرتے تھے، بلکہ آپس میں چھپ کر حضور ﷺ کے حق میں توہین آمیز باتیں کیا کرتے تھے۔

(ج) منافقین کے اڑکاب توہین کے موقع پر صحابہ کرام کا حضور ﷺ سے ان کے قتل کی اجازت طلب کرنا اس بات کی دلمن ہے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔

گستاخانی شانی رسالت ابو رافع یہودی اور کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو دیا تھا۔ اس حکم کی بناء پر صحابہ کرام کو علم تھا کہ حضور ﷺ کی شان میں توہین کرنے والا قتل کا مستحق ہے۔

(د) رسول اللہ ﷺ کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنے گستاخ اور موذی کو اپنی حیات میں معاف فرمادیں، لیکن امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ حضور ﷺ کے گستاخ کو معاف کر دے۔

(الصارم المسلول ص ۲۳۳ تا ۲۳۴) فی بحث من علم الرسول الکریم فصل حکم شام النبی فی آثار الصحابة نبی اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائے کہ ”آپ معانی کو اختیار فرمائیں اور جالہوں سے منہ پھیر لیں اور نیکی کا حکم دیں۔“ (اعراف ۱۹۹)

میں عرض کروں گا کہ گستاخ رسول پر قتل کی حد جاری کرنا ایسی حد ہے جو رسول اللہ ﷺ کا اپنا حق ہے۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کی توہین حضور ﷺ کی امت کے لیے بھی سخت ترین اذیت کا موجب ہے اور اس طرح اس حد کو پوری امت کا حق بھی کہا جاسکتا ہے۔ لیکن بلا واسطہ نہیں بلکہ بوساطہ ذاتِ اقدس کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اپنا یہ حق کسی کو خود معاف فرمادیں۔ جیسا کہ بعض دیگر احکام شرع کے متعلق دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام میں حضور ﷺ کو اختیار عطا فرمایا۔ مثلاً حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بردہؓ کو بکری کے ایک بچے کی قربانی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ولن تجزی عن احد بعدك۔ (بخاری کتاب الانبیاء ج ۲ ص ۸۳۲) ”کر (یہ قربانی) تمہارے علاوہ کسی دوسرے پر ہرگز جائز نہیں۔“

ای طرح حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب حضور ﷺ نے حرم مکہ کی گماں کا نئے کو حرام قرار دیا تو حضرت عباسؓ نے عرض کی ”الا الا ذخیر“ یعنی ”اُخڑ“ گماں کو حرمت کے اس حکم

سے مستثنی فرمادیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”إِلَّا إِذْ كُوْرْهُ“ یعنی اذ خرکو حرمت کے حکم سے ہم نے مستثنی فرمادیا۔
(بخاری ج ۱ ص ۲۱۶ باب فعل الحرم بالفاظ مسلم باب حرمہ مکہ ج ۱ ص ۳۳۸)

اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور لواب صدیق حسن خان بھوپالی تحریر فرماتے ہیں:
”ودرمہب بعض آن است کہ احکام مخصوص بود یوے ﷺ ہرچ خواہد و برہر کہ خواہد حلال و حرام گرداند
بعض گویند با اجتہاد گفت۔ و اذل اصح اظہر است۔“ (اوج المدعات ج ۲ ص ۵۰۸، مسک المذاہم ج ۲ ص ۵۱۲)

”یعنی بعض کا مذهب یہ ہے کہ احکام شرعیہ حضور ﷺ کے پرداز کر دیے گئے تھے۔ جس کے لیے جو کچھ
چاہیں حلال اور حرام فرمادیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ اجتہاد کے طور پر فرمایا تھا اور
پہلا مذهب اصح اور اظہر ہے۔“

ان احادیث کی روشنی میں حضور ﷺ کو یہ اختیار حاصل ہو سکتا ہے کہ کسی حکمت و مصلحت کے لیے
حضور ﷺ ان منافقین پر قتل کی حد جاری نہ فرمائیں، لیکن حضور ﷺ کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں۔
آخر میں عرض کروں گا کہ توہین رسالت کی حد اسی پر جاری ہو سکے گی، جس کا یہ جرم قطعی اور یقینی طور پر
ثابت ہو جائے۔ اس کے بغیر کسی کو اس جرم کا مرتكب قرار دے کر قتل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ تو اتر بھی دلیل قطعی ہے۔
اگر کوئی شخص توہین کے کلمات صریح بول کر یا لکھ کر اس بات کا اعتراض کرے کہ یہ کلمات میں نے بولے یا میں
نے لکھے ہیں تو یقیناً وہ واجب القتل ہے۔ خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے اور کہتا پھرے کہ میری نیت توہین کی نہ
تھی۔ یا ان کلمات سے میری غرض یہ تھی کہ میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیک پہنچاؤں۔ بہر حال وہ مستحق
قتل ہے۔

علی هذا وہ لوگ جو نبی کریم ﷺ کی توہین صریح کی تاویل کر کے اس کے مرتكب کو کفر سے بچانا چاہیں
بالکل اسی طرح قتل کے مستحق ہیں جیسا کہ خود توہین کرنے والا مستوجب حد ہے۔ شامِ رسول کے حق میں محمد بن سخون
کا قول ہم شفاء، قاضی عیاض اور الصارم المسنون سے لفظ کرچے ہیں کہ:
وَمَنْ شَكَّ فِيْ كُفَرِهِ وَأَعْدَاهُ كُفُورًا

(الشفاء باب ما هو في حقه ﷺ ج ۲ ص ۱۹۰۔ الصارم المسنون باب وجوب قتل سائب النبي ﷺ ص ۷)
سید احمد سعید کاظمی ۲۵ نومبر ۱۹۸۵ء



لَا تَنْهَاكُنَّ لَّا نَهَاكُنَّ
لَا تَنْهَاكُنَّ لَّا نَهَاكُنَّ

سوشل بائیکاٹ کی شرعی حیثیت

مولانا مفتی محمد امین

بسم الله الرحمن الرحيم

تعارف

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد
۱۹۷۴ء کی تحریک فتح نبوت میں مجلس عمل تحفظ فتح نبوت نے قادرینوں سے سو شل
بایکاٹ کی اپیل کی۔ پورے ملک کے اسلامیان وطن نے قادرینوں سے تاریخ ساز سو شل
بایکاٹ کیا چہرہ ”روشن خیال“ اس پر جملی بھیں ہوئے۔ تمام ممالک کے علماء کرام نے
قادیرینوں کے سو شل بایکاٹ کی شرعی حیثیت واضح کرنے کے لیے فتویٰ جات تحریر کیے۔ مثلاً
پاکستان کے مقتنی اعظم حضرت مولانا مفتی ولی حسن توکیؒ نے فتویٰ مرتب کیا۔ اس زمانہ میں
ہزاروں کی تعداد میں شائخ ہوا۔ اسی طرح جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد کے حضرت مولانا
مفتی محمد امین صاحب نے یہ فتاویٰ مرتب کیا جو پیش خدمت ہے۔ تحریک کے دوران میں
 غالباً سنسرکی پابندی کے باعث اس فتویٰ میں الکتابیۃ ابلغ من الصريح کو منظر رکھا گیا۔
مگر اس اشاعت میں اسے واضح سے واضح کر دیا گیا ہے۔

فقیر..... اللہ و سماں

الحمد لله وحدة والصلوة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد
حدود وقصاص کا قائم کرنا حکومت کا کام ہے رعایا کا کام نہیں لیکن اگر معاشرہ میں بکاڑ پیدا ہو جائے کچھ
افراد جرم و معاصی کا ارتکاب کرنے لگ جائیں تو ان کو درست اور سیدھا کرنے کے لیے معاشرہ کو برائیوں سے
پاک و صاف رکھنے کے لیے جرائم پیشہ افراد سے قطع تعلقی (بایکاٹ) کرنا ان کے ساتھ میل جوں لیں دین ترک
کر دینا ان سے رشتہ ناطر نہ کرنا ان کی تقریبات شادیؒ میں شریک نہ ہونا ان کو اپنی تقریبات میں شامل نہ کرنا
نہایت ہی پر امن بے ضر اور موثر ذریحہ ہے۔ آج سے تقریباً نصف صدی پہلے تک ہر زمانہ کے مسلمان اسی
بایکاٹ کے ذریحہ اصلاح معاشرہ کرتے چلے آئے ہیں چنانچہ شرح مکملہ میں ہے۔ وهکذا کان داب
الصحابۃ ومن بعدهم من المؤمنین في جميع الاذمان فانهم كانوا يقاطعون من حاد الله ورسوله مع
 حاجتهم اليه والبر و ارضاء الله تعالى على ذاتك. (مرقات شرح مکملہ ج نمبر ۱۰۰ ص ۲۹۰) ”یعنی صحابہ کرام اور
ان کے بعد والے ہر زمانہ کے ایمان والوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے
خالقون و شمنوں کے ساتھ بایکاٹ کرتے رہے۔ حالانکہ ان ایمانداروں کو دنیوی طور پر ان خالقون کی احتیاج بھی

ہوتی تھی لیکن وہ مسلمان خدا تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے بائیکاٹ کرتے تھے خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی رضا جوئی کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر قلعہ کی توفیق عطا فرمائے۔“ (آمین) یہ بائیکاٹ قرآن و حدیث کے میں مطابق ہے بلکہ سید عالم علیہ السلام نے عملی طور پر بھی اس کو نافذ فرمایا۔ جب غزوہ نبیر میں یہودیوں کا محاصرہ کیا اور یہودی قلعہ میں محصر ہو گئے اور کمی دن گزر گئے تو ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو القاسم علیہ السلام اگر آپ مہینہ بھر ان کا محاصرہ رکھیں تو ان کو پروانہیں کیونکہ ان کے قلعہ کے پیچے پانی ہے وہ رات کے وقت قلعہ سے اترتے ہیں اور پانی پی کر واپس چلے جاتے ہیں تو اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو جلدی کامیابی ہو گی۔ اس پر سید دو عالم علیہ السلام نے ان کا پانی بند کر دیا تو وہ مجبور ہو کر قلعہ سے اتر آئے۔ فسار رسول اللہ علیہ السلام الی مائہم فقط علیہم فلمما قطع علیہم خرجوا۔

(زاد العاداہن قیم ح ۳ ص ۲۲۲ علی حاش مواہب للزرقانی ج ۲ ص ۲۰۵)

اور ایک مرتبہ جبکہ حضرت سیدنا کعب بن مالکؓ صحابی اور ان کے ساتھی دو اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ وہی پر سید دو عالم علیہ السلام نے جواب طلبی فرمائی اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کے ساتھ بات چیت ترک کر دی جائے۔ حضرت کعبؓ فرماتے ہیں ونهی النبی علیہ السلام عن کلامی و کلام صاحبی۔ (صحیح بخاری ص ۶۷۵ ج ۲ باب وعلی الثابت الذین خلفواحتى اذا اخ) ”یعنی رسول اکرم علیہ السلام نے میرے ساتھ اور میرے دو ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع فرمادیا۔“

فاجتنب الناس كلامنا (صحیح بخاری ص ۶۷۵ ج ۲ باب وعلی لا إله إلا الدين خلفوا حتى اذا اخ) ہمارے ساتھ کوئی بھی بات نہ کرنا تھا۔ اتحی۔ اور اس بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا کہ زمین، باوجود وسیع ہونے کے ان پر بھک ہو گئی بلکہ وہ اپنی جانوں سے بھی بھک آ گئے۔ وضائقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم الفسهم وظنووا الا ملجمًا من الله الا اليه۔ (توبہ ۱۱۸) یہ بائیکاٹ جب چالیس دن تک پہنچا تو رسول اکرم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب ان کی یہویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ پھر جب پورے پچاس دن ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس کا حکم بذریعہ وحی نازل فرمایا۔ (روح البیان)

شنبیہ یہ صحابہ کرام حضرات تھے ان سے لغوش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب لاواک علیہ السلام کی برکت سے ان کی لغوش کو معاف فرمایا ان کی معافی کی سند قرآن مجید میں نازل فرمائی ان کے درجات بلند کیے، لہذا اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان حضرات کے متعلق کوئی ادب سے گری ہوئی بات کہے یا دل میں بدگمانی رکھے، کیونکہ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا کرنا سراسر ہلاکت ہے اور دین کی برپادی ہے خدا تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

قطع تعلقی (بائیکاٹ) کے متعلق قرآن پاک میں ہے۔ ولا ترکوا الی الذين ظلموا افتمسكم النار (مودودی) یعنی ظالموں کی طرف میلان نہ کرو و نہ شمیس نار جہنم پہنچ گی۔

نیز قرآن پاک میں ہے فلا تقدعد بعد الذکری مع القوم الظالمین (نعام ۲۸) یعنی یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ پہنچو۔

اور حدیث پاک میں ہے عن عبد الله بن مسعودؓ قال قال رسول اللہ علیہ السلام لما وقعت بنا اسرائل في المعاصي فنهتهم علمائهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربواهم

ضرب اللہ قلوب بعضهم علی بعض ولعنہم علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم ذالک بما عصو و کانوا یعذدون قال لجلس رسول اللہ ﷺ و کان محتکتاً فقال لا والذی نفسي بیده حتى تاطروهم اطرا .
(ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۳۵ باب تفسیر من سورۃ المائدہ)

”یعنی رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب بھی اسرائیل گناہوں میں جلا ہوئے تو ان کے علماء نے منع کیا مگر وہ باز نہ آئے پھر ان علماء نے ان کے ساتھ ان کی مخلوقوں میں بینہ شروع کر دیا اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، (بایکاٹ نہ کیا) تو خدا تعالیٰ نے ان کے ایک دوسرے کے دلوں پر مار دیا اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبانی ان پر لخت بھی کیونکہ وہ نافرمانی کرتے حد سے بڑھ گئے تھے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ تکیر لگائے تشریف فرماتے حضور اٹھ کر بینہ گئے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جرام پیش لوگوں کو روک لو۔“

ذکورہ بالا بایکاٹ کا حکم ایسے لوگوں کے متعلق ہے جو عملی طور پر جرام کا رنگاب کرتے ہیں لیکن جو لوگ دین کے ساتھ دشمنی کریں اور خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول ﷺ کی شان و عظمت پر حملہ کریں ایسے بدنبہوں کے لیے سخت حکم ہے ان کے ساتھ بایکاٹ کرنا، میل میل اپ، محبت و دوستی کرنا سخت حرام ہے۔ اگرچہ وہ ماں باپ ہوں یا بیٹے بیٹیاں ہوں بھائی کنبہ برادری ہو۔ قرآن پاک میں ہے۔

یا ایها الذین امنوا لَا تتخلوا اباءكم و اخوانکم او لیاء ان استحبوا الكفر علی الايمان ومن یتولهم منکم فلاؤنک هم الظالمون (التوبۃ ۲۳) ”یعنی اے ایمان والو! اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو ان سے محبت و دوستی نہ کرو اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، وہ ظالموں میں سے ہوگا۔“ نیز قرآن پاک میں ہے۔

لاتجدع قوماً يومئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم او لشک کتب فی قلوبهم الايمان وايدھم بروح منه و يدخلهم جنت تجری من تحتها الانہر خلدين فھما رضی اللہ عنہم ورضوا عنه او لشک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون (سورۃ الجارل ۲۲) ”یعنی تم نہ پاؤ گے کسی ایسی قوم کو جو خدا تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں وہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو دشمنی اور خالفت کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول ﷺ سے اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں بھائی ہوں یا کنبہ برادری ہو۔ ایسے ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ فرمادیا ہے اور ان کی روح سے مد فرماتا ہے اور انھیں بیشوگوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہیں جاری ہیں۔ ان بیشوگوں میں وہ بیشہر ہیں گے خدا تعالیٰ ان سے راضی وہ خدا سے راضی یہ لوگ خدا تعالیٰ کی جماعت ہیں اور خدا تعالیٰ کی جماعت ہی دنوں جہاں میں کامیاب ہے۔“

آیت ذکورہ کا مفہوم یہ کہ خدا تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی یہ دنوں تجزیں اکٹھی ہوئی نہیں سکتیں چنانچہ تفسیر روح المعانی میں ہے۔

والكلام على ما في الكشاف من باب التخييل خليل ان من المجتمع المحال ان تجدد قوماً مومنين يوادون المشركين . (روح المعانی ج ۲۸ ص ۲۵) ”یعنی آیت مبارکہ میں تصور دلایا گیا ہے کہ کوئی قوم مومن، بھی ہو اور کفار و مشرکین کے ساتھ اس کی دوستی و محبت بھی ہو یہ حال و ممتنع ہے۔“ نیز اسی میں ہے۔

مبالغہ فی النہی عنہ والزجر عن ملاحتہ والتصلب فی مجانية اعداء اللہ تعالیٰ.

(روح العانی ج ۲۸ ص ۳۵)

یعنی آیت مذکورہ میں خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول ﷺ کے دشمنوں کے ساتھ محبت و دوستی کرنے سے مبالغہ کے ساتھ منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں کے لیے زجر و تونخ ہے اور خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے الگ رہنے کی بخشی بیان کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ جل جمده نے اپنے حبیب پاک کے صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا ایمان تشق کر دیا تھا کہ ان کی نظروں میں حبیب خدا ﷺ کے مقابلہ میں کسی کی کوئی وقعت ہی نہ تھی خواہ وہ باپ ہو کر بینا بھائی ہو کر، ہبھن چنانچہ سیدنا امیر المؤمنین ابوذر صدیقؓ نے اپنے باپ ابو القافلہ کی زبان سے سید دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں گستاخی سنی تو اس کو ایسا مکاہر سید کیا کہ وہ گرگیا جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا اور حضور ﷺ نے پوچھا فعلت یا اہمابکر اے ابوذر آپ نے ایسا کیا ہے؟ عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ قال لا تعد قال والله لو كان السيف قريباً مني لضربيه (روح العانی نمبر ۳۷ ص ۲۸) یا رسول اللہ خدا تعالیٰ کی فرم اگر میرے قریب توار ہوتی تو میں اس کو مار دیتا، اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی (روح العانی) اور سیدنا ابو عبید بن جراحؓ نے اپنے باپ کے منہ سے اپنے محبوب آقا کی شان میں کوئی ناپسندیدہ بات سنی تو اسے منع کیا وہ باز نہ آیا تو اس نے باپ کو قتل کر دیا جیسے روح العانی میں ہے۔

عن انس قال كان اى ابو عبيده قتل اباه وهو من جملة اسارى بدر بيه لما سمع منه في
رسول الله ﷺ ما يكره ونهاء للهم ينته.

(روح العانی ج ۲۸ ص ۳۷)

یوں ہی حضرت قاروq عظمؐ نے اپنے ماموں عاصی بن ہشام کو بدر کے دن اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا اور حضرت مولیٰ علی شیر خداؑ اور حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن حارثؓ نے غتبہ شیبہؓ کو قتل کر دیا اور حضرت مصعب بن عییرؓ نے اپنے بھائی عبید بن عییرؓ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔

خدا تعالیٰ ان پاک روحوں پر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کمربوں رقمیں نازل فرمائے، جنمیوں نے امت کو مشق مصطفیٰ کا درس دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ناموں مصطفیٰ کے سامنے سب بیچ ہیں۔ حضور رحمت دو عالم ﷺ کی عزت و عظمت کے سامنے نہ کسی استاد کی عزت ہے نہ کسی بیوی کا تقدس رہ جاتا ہے نہ ماں باپ کا وقار نہ بیوی پچھوں کی محبت آڑے آتی ہے نہ مال و دولت ہی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ سبحان من كعب الایمان فی قلوب
المومنین و ایلہم بروح منه.

صحابہ کرام کے مشق و محبت ہی کی بنا پر خدا تعالیٰ نے ان کے جذبات کی تعریف فرمائی ہے اشداء علی الکفار و حماء بہنہم (التح ۲۹) یعنی وہ کافروں دشمنوں پر بڑے ہی سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا رسول جل جلالہ ﷺ کے دشمنوں۔ کہ ساتھ دشمنی اور شدت کی مقدار پر ہی مشق و محبت کا نکھار ہوتا ہے جو شخص محبت کا دھوئی تو کرے لیکن محبوب کے دشمنوں کے ساتھ بعض و عداوت نہ رکھے وہ محبت میں سچائیں ہے وہ محبت محبت ہی نہیں ہے بلکہ وہ بربریت ہے وہو کہ فریب ہے الحال خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول ﷺ کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور اور ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی افضل الاعمال ہیں۔ حدیث پاک میں ہے۔ الفضل الاعمال الحب فی الله والبغض فی الله (ابوداؤ ذرشیف ج ۲ ص ۱۲۳ باب جانبه اصل الاحوال) یعنی معلوم میں سے افضل ترین عمل خدا تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرنا اور خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے

دشمنی کرنا ہے۔ رسول اکرم ﷺ دربارِ الہی میں یوں دعا کرتے ہیں۔

اللهم اجعلنا هادین مهتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لاولینک وعد والا عدانک
نحب بحبك من احبك و نعادی بعد عداوتک من خالفك اللهم هذا الدعا و عليك الاجابة.
(ترمذی شریف ج ۲ ص ۹۷ اباب ما يقول اذا قام من الليل)

”یا اللہ! ہم کو ہدایت و ہندہ ہدایت یافتہ کریا اللہ! ہم کو مگر کارہ اور گراہ کرنے والا نہ کریا اللہ! ہم کو اپنے دوستوں کے ساتھ محبت و دوستی کرنے والا اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنی و عداوت رکھنے والا بنا۔ یا اللہ! ہم تیری محبت کی وجہ سے تیرے دوستوں سے محبت کرتے ہیں اور تیرے دشمنوں کے ساتھ ان کی عداوت کی وجہ سے ہم ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ یا اللہ! یہ ہماری دعا ہے اسے قبول فرماء۔“

ان ارشادات عالیہ کو وہ مصلح کلی حضرات آنکھیں کھوں کر دیکھیں جو لوگ ہے سوچ کجھے جھبٹ کہہ دیتے ہیں کہ حضور تو کافروں کو بھی گلے لگاتے تھے۔ ان حضرات سے سوال ہے کہ رسول اکرم ﷺ خدا تعالیٰ کے ارشاد مبارک یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم (التوبۃ ۷۳) کے مطابق حکم الہی کی تعمیل کرتے تھے یا نہیں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ احکام خداوندی کی تعمیل سید دو عالم ﷺ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا اور نہ کسی نے کی ہے۔ بنا بریں رسول اکرم ﷺ نے مسجد نبوی شریف سے منافقوں کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا۔ سیدنا ابن عباسؓ نے فرمایا۔

”قام رسول الله ﷺ يوم الجمعة خطيبا فقال قم يا فلان فاخرج فانك منافق اخرج يا فلان فانك منافق فاخرجهم باسمائهم ففضحهم ولم يك عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة ل حاجته كانت نه فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبا منهم استحيانا لم يشهد الجمعة وظن ان الناس قد انصرفوا او اختبأوا منه وظروا انه قد علم بأمرهم لدخل المسجد فإذا الناس لم ينصرفوا فقال له رجل ابشر يا عمر فقد فضح الله تعالى المنافقين اليوم. (تفیر روح المعانی ج ۱ ص ۱۰، تفسیر مظہری ج ۲ ص ۲۸۹، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۸۲، تفسیر خازن ج ۳ ص ۱۵، تفسیر بغوي على الخازن ج ۳ ص ۱۵، تفسیر روح البیان ج ۳ ص ۲۹۳)“ یعنی رسول اکرم ﷺ جمعہ کے دن جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا اے فلاں تو منافق ہے لہذا مسجد سے نکل جا۔ اے فلاں تو بھی منافق ہے مسجد سے نکل جا۔ حضور ﷺ نے کئی منافقوں کے نام لے کر نکالا اور ان کو سب کے سامنے رسوائی کیا۔ اس جمعہ کو حضرت فاروق اعظمؓ ابھی مسجد شریف میں حاضر نہیں ہوئے تھے کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی جب وہ منافق مسجد سے نکل کر رسوائی کو کر جا رہے تھے تو فاروق اعظمؓ شرم سے چھپ رہے تھے کہ مجھے تو دیر ہو گئی ہے، شاید جمعہ ہو گیا لیکن منافق، فاروق اعظمؓ سے اپنی رسوائی کی وجہ سے چھپ رہے تھے پھر جب فاروق اعظمؓ مسجد میں داخل ہوئے تو ابھی جمعہ نہیں ہوا تھا۔ بعد میں ایک صحابیؓ نے کہا اے عمرؓ تجھے خوشخبری ہو کہ آج خدا تعالیٰ نے منافقوں کو رسوائی دیا ہے“ اور سیرت ابن ہشام میں عنوان قائم کیا ہے۔ طرد المنافقین من مسجد رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم (سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۵۸) اور اس کے تحت فرمایا کہ منافق لوگ مسجد میں آتے اور مسلمانوں کی باتیں سن کر شنخے کرتے دین کا مناق اڑاتے تھے ایک دن کچھ منافق مسجد نبوی شریف میں اکٹھے بیٹھے تھے اور آہستہ آہستہ آہس میں باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ قریب قریب بیٹھے تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے دیکھ کر کہا فامر بهم رسول اللہ ﷺ فاخرو جوا من المسجد اخراجا

عنیفا (سیرت ابن ہشام ج اص ۵۲۸) رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ ان منافقوں کو ختنی سے نکال دیا جائے اس ارشاد پر حضرت ابوالیوبؓ، خالد بن زیدؓ اٹھ کھڑے ہوئے اور عمر بن قیس کو ناگ سے پکڑ کر گھینٹے گھینٹے مسجد سے باہر پھینک دیا پھر حضرت ابوالیوبؓ نے رافع بن ودیع کو پکڑا اس کے گلے میں چادر ڈال کر خوب بھینچا اور اس کے منہ پر طماقچہ مارا اور اس کو مسجد سے نکال دیا اور ساتھ ساتھ حضرت ابوالیوبؓ فرماتے جاتے اف لک منافقا خبیثا (سیرت ابن ہشام ج اص ۵۲۸) ارے خبیث منافق تجھ پر افسوس ہے۔ اے منافق، رسول اکرم ﷺ کی مسجد سے نکل جا اور ادھر حضرت عمارہ بن حزمؓ نے زید بن عمرو کو واڑھی سے پکڑا زور سے کھینچا اور کھینچتے گھینٹے مسجد سے نکال دیا اور پھر اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے تھپڑ مارا کہ وہ گرگیا اس منافق نے کہا اے عمارہ تو نے مجھے بہت عذاب دیا ہے تو صحابی حضرت عمارہؓ نے فرمایا، خدا تعالیٰ درفع کرے جو خدا تعالیٰ نے تیرے لیے عذاب تیار کیا ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ فلا تقرین مسجد رسول اللہ ﷺ (سیرت ابن ہشام ج اص ۵۲۹) آئندہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد کے قریب نہ آنا۔

اور بونجار قبیلہ کے دو صحابی ابو محمد جو کہ بدربی صحابی تھے اور ابو محمد مسعودؓ نے قیس بن عمرو کو جو کہ منافقین میں سے نوجوان تھے گدی پر مارنا شروع کیا تھی کہ مسجد سے باہر نکال دیا اور حضرت عبداللہ بن حارثؓ نے جب سن کہ حضور نے منافقوں کے نکال دینے کا حکم دیا ہے حارث بن عمرو کو سر کے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھینٹتے گھینٹتے مسجد سے باہر نکال دیا وہ منافق کہتا تھا اے این حارث تو نے مجھ پر بہت سختی کی ہے تو انہوں نے جواب میں فرمایا اے خدا کے دشمن تو اسی لائق ہے تو مجس ہے پلید۔ ہے آئندہ مسجد کے قریب نہ آنا۔ ادھر ایک صحابی نے اپنے بھائی زری بن حارث کو ختنی سے نکال کر فرمایا افسوس کہ تجھ پر شیطان کا تسلط ہے۔ (سیرت ابن ہشام ج اص ۵۲۹)

نیز خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ تم ابراہیم ﷺ کی عیروی میں خدا تعالیٰ اور اس کے جیب ﷺ کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت اور بیزاری رکھو، ارشاد ہے۔

قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهمانا برأكم ومهما
تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدايتنا و بينكم العداوة والبغضا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده
(سورة محمد ۳۲) یعنی اے ایمان والو تمہارے لیے ابراہیم ﷺ اور ان کے ماننے والوں میں اچھی بیروی ہے۔ جبکہ
انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ہم تم سے اور تمہارے بتوں سے بیزار ہیں ہم انکاری ہیں اور ہمارے تمہارے
درمیان جب تک تم خدا وحدہ پر ایمان نہ لاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہنگی ہے۔

اور تفسیر روح المعانی میں حدیث قدسی منقول ہے۔ يقول الله تبارک و تعالى وعزتي لا ينال
رحمتي من لم يوال او ليائى ويعاد اعدائي (ص ۲۵ ج ۲۸) ”یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم
جو شخص میرے دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا اور میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا وہ میری رحمت حاصل
نہیں کر سکتا۔“

اور دررة الناصحین میں علامہ خوبی نے ایک حدیث پاک ذکر کی ہے روی عن رسول اللہ ﷺ انه
قال اوحي الله تعالى الى موسى عليه الصلوة والسلام قال يا موسى هل عملت لى عملاً قط قال
اللهى صليت لك وصمت لك وتصدقـت لك وذكرت لك قال الله يا موسى ان الصلوة لك
برهان والصوم لك جنة والصدقة لك ظل والذكر لك نور فاي عمل عملت لى فقال دلنی على

عمل ہو لک قال یا موسیٰ هل والیت لی ولیاقط و هل عادیت لی عدو۔ (درة الناصحین ص ۲۰) ”یعنی رسول اللہ ﷺ سے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وہی بھیجی اے موسیٰ تو نے میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی خدا تعالیٰ نے فرمایا نماز تو تیرے لیے ہی برعان بنے گی۔ عرض کی یا اللہ میں نے تیرے لیے روزے رکھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ روزہ تو تیرے ہی لیے ڈھال بنتے گا۔ پھر عرض کی میں نے تیرے لیے صدقہ دیا خدا تعالیٰ نے فرمایا صدقہ تو تیرے ہی لیے سایہ بنے گا۔ عرض کی میں نے تیرے لیے تیراڑ کر کیا۔ فرمایا اے موسیٰ ذکر تو تیرے ہی لیے نور ہو گا۔ بتا تو نے میرے لیے کون سا عمل کیا ہے موسیٰ ﷺ نے عرض کی میرے پروردگار تو ہی بتا دے کہ وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہو۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ کیا تو نے میرے دوستوں کے ساتھ محبت و دوستی کی ہے اور کیا تو نے میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی ہے۔“ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک ولی اللہ کے ساتھ پیش آیا۔ جیسا کہ تفسیر روح البیان ج ۳ ص ۳۲۸ پر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں خدا تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنا جتنا مقبول و محبوب عمل ہے اتنا ہی خدا تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی و عداوت کرنا مقبول و محبوب عمل ہے نیز خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے جیبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت اور ان کے دشمنوں گستاخوں کی محبت آپس میں ضدیں ہیں یہ دوںوں بیک وقت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

محمد الاولیاء سیدنا امام ربانی خوجہ محمد الف ثانی سرہندی قدس سرہ نے فرمایا۔ در محبت تباہیه جمع نشور جمع ضدیں راحمال گفعتہ اند محبت لیے سلزام عداوت دیگرست۔ (مکتوبات امام ربانی مکتب نمبر ۱۹۵ جلد اول)
یعنی دو محبیتیں جو ایک دوسرے سے ضد ہوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں کیونکہ اجتماع ضدیں محال ہے اگر خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول ﷺ کی دل میں محبت ہوگی تو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت دل میں نہیں آسکتی خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول ﷺ کے دشمنوں کی جتنی محبت و دوستی دل میں آئے گی تو خدا اور رسول (جل جلالہ و ﷺ) کی محبت اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ نیز فرمایا و علامت کمال بخش است با اعداء او ﷺ۔ (مکتب ج اب ۱۹۵)

یعنی تاجدار مدینہ ﷺ کے ساتھ کمال محبت کی یہ علامت ہے کہ سید دو عالم ﷺ کے دشمنوں کے ساتھ کمال بغض و عداوت ہو۔ نیز فرمایا۔

و با کفار کہ دشمن خدائے عز و جل انہو دشمنان رسول وے علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والصلیمات دشمن باید بو دو در ذل و خواری ایشان سے باید نمود و پنچ وجد عزت باید و اوسی بید و اسی را در مجلس خود راہ نباید داد۔ (مکتب ج اس ۱۹۵)

یعنی کافروں کے ساتھ جو کہ خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے جیبیب کے دشمن ہیں وہیں رکھنی چاہیے اور ان کو ذلیل و خوار کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور کسی طرح ان کی عزت نہیں کرنی چاہیے اور ان بدختوں کو اپنی مجلس میں نہیں آئے دینا چاہیے۔

نیز فرمایا، در رگ سگاں ایشان را دور باید داشت (مکتب ج اس ۱۹۳)
یعنی خدا اور رسول کے دشمنوں کو کتوں کی طرح دور رکھنا چاہیے۔ نیز فرمایا، پس عزت اسلام در خواری کفر و اہل کفر است کیکہ اہل کفر را عزیز داشت اہل اسلام را خوار ساخت۔ (مکتب ج اس ۱۹۳)

”یعنی اسلام کی عزت اسی میں ہے کہ کفر و کفار کو خوار ذمیل کیا جائے جو شخص کفر والوں کی عزت کرتا ہے وہ حقیقت میں مسلمانوں کو ذمیل کرتا ہے۔“

نیز سیدنا امام ربانیؒ نے فرمایا ”رہائیکے بھتاب قدس جد بزرگوار شاعلیہ وعلی آل الصلوٰۃ والسلیمانات ے رساند ایں است اگر با ایں راہ رفتہ نشود وصول بانجتاب قدس دشوار است۔“ (مکتب ج اص ۱۶۵)

”یعنی رسول اکرم شفیع معظم ﷺ کی بارگاہ تک لے جانے والا یہی ایک راستہ ہے (کہ ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کری جائے) اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے تو اس دربار تک رسائی مشکل ہے۔“ اتنی۔

اور یہ بھی مسلم کہ سید اکرم نور مجسم فخر آدم ﷺ تک رسائی ہی دین ہے۔ ڈاکٹر سراج اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

بصطفیٰ بر سار خوش را کہ دین ہمہ اوست

اگر باو نرسیدی تمام بو لمحیٰ ست

یعنی تو اپنے آپ کو مصطفیٰ ﷺ کے مبارک قدموں تک پہنچا دے اور اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا تو تیرا سب کچھ ہی الولہب ہے۔

بدنہ ہبھوں (قادیانیوں) کے ساتھ بائیکاٹ کے متعلق چند احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں۔

حدیث نمبر ۱..... عن ابی هریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آبائكم فایاکم وایاهم لا یضلونکم ولا یفتونکم۔ (مسلم شریف ج اص ۱۰ باب لمحیٰ عن الروایۃ الحنفیۃ)

”حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ آخری زمان میں کچھ لوگ کذاب دجال بہت جھوٹے دھوکہ باز آئیں گے۔ وہ تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تم حمارے بیاپ دادا نے سنی ہوں گی۔ لہذا اے میری امت تم ان کو اپنے سے بچاؤ اور اپنے آپ کو ان سے بچاؤ کہیں وہ شخصیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ شخصیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔“

سبحان اللہ! کیا شان ہے تاجدار مدینہ ﷺ کی۔ آپ نے نور نبوت سے پہلے ہی دیکھ لیا کہ دین کے ڈاکو آئیں گے۔ بھولے بھالے مسلمانوں کو ان سی اور بناوی باتیں سننا کر اپنے دجل و فریب سے ان کا ایمان لوٹیں گے۔ لہذا اس شیق امت ﷺ نے پہلے سے ہی امت کو پہنچنے کی تدبیر تائی کہ اے میری امت بے دینوں کے قریب مبتلا اور نہ ان کو اپنے قریب آنے دینا اور نہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن امت کے کچھ بے لگام افراد ہیں جو کہتے پھرتے ہیں جی صاحب ہر کسی کی بات سننی چاہیے دیکھیں بھلا کہتے کیا ہیں۔ اسی بنا پر بدندہ ہبھوں (قادیانیوں) کے جلوسوں پر جانے والے ان کا لثر پچھر پڑھنے والے ان کی تقریریں سننے والے ہزاروں لوگ گمراہ بددین ہو گئے۔ جنہم کا ایندھن بن گئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔

اے میرے مسلمان بھائیو ہوشیار، خبروار، ہوشیار، خبردار غیروں کے جلوسوں میں مت جاؤ۔ ان کی تقریریں مت سنو! ان کے رسائل و اخبارات مت پڑھو ورنہ پچھتاو گے۔ اگر تقریریں سن تو اس کی جس کا دل عشق مصطفیٰ ﷺ سے لبریز ہے۔ کتابیں اور رسائل پڑھو تو ان کے جن کے سینے عشق مصطفیٰ ﷺ سے معور ہیں۔ سیدنا محمد بن سیرینؓ کے متعلق منقول ہے۔ عن اسماء بن عبید قال دخل رجال من اصحاب الا هواء علی این

سیرین فقاًلا يا ابا بكر نحدثك بحديث فقال لا فقاًلا فنقرء عليك آية من كتاب الله فقال لا لشومان على اولاً تؤمن قال فخرجا فقال بعض القوم يا ابا بكر وما كان عليك ان يقرأ عليك آية من كتاب الله قال انى خشيت ان يقرأ على آية فيقرأ ذلك في قلبي ليني حضرت ابن سيرين بيشخه ته كه دو بدنه هب (ابل بدعت) آئے اور انہوں نے عرض کیا حضرت اجازت ہو تو ہم آپ کو ایک حدیث پاک سنائیں آپ نے فرمایا ہرگز نہیں یا تو تم یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ یا میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں اس پر وہ دونوں خاص و خسار ہو کر چلے گئے تو کسی نے عرض کیا حضور اس میں کیا حرج تھا کہ وہ دو آدمی قرآن پاک کی کوئی آیت پاک سناتے اس پر حضرت سیدنا محمد بن سیرین قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ دونوں بدنه هب تھے اگر یہ آیت پاک بیان کرتے وقت اپنی طرف تھے اس میں پچر گاریتے تو مجھے ذرخوا کہ کہیں وہ تحریف میرے دل میں بیٹھ جاتی (اور میں بھی بدنه هب ہو جاتا)

سبحان اللہ! وہ امام ابن سیرین جملہ التدریج محدث قوم کے پیشوں۔ وقت کے علامہ، علم کا مخاطب مارتا سمندر، وہ تو بدنه ہیوں سے اتنا پر ہیز کریں کہ قرآن پاک کی آیت ان سے سننے کے روادار نہیں اور آج کے ان پڑھ دین سے بے خبر اتنی بے باکی اور جرأت سے کہہ دیتے ہیں کہ جی صاحب ہر کسی کی بات سننی چاہیے۔
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

یونہی حضرت سعید بن جبیرؓ سے کسی نے کوئی بات پوچھی تو آپ نے اس کو جواب نہ دیا۔ فقیل له فقال از ایشان کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بدنه ہیوں میں سے تھا۔

حدیث پاک ثہر ۲..... قال رسول الله ﷺ ان مجوس هذه الامة المكذبون بالقدار لله ان مرضوا فلا تعود لهم و ان ماتوا فاللاتشهد لهم و ان لقيتموهم فلا تسلموهم عليهم۔ (ابن ماجہ شریف ص ۱۰ باب فی القدر) یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نشا و قدر کو جھلانے والے اس امت کے مجوسی میں (حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں) (قاریانوں کی طرح) فرمایا کہ اگر وہ بیمار پڑیں تو ان کو پوچھنے مت جاؤ اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے مرنے پر ان کے جنازہ وغیرہ میں مت شریک ہو اگر تم سے ملیں تو ان کو سلام مت کرو۔

بزرگانِ دین کے ارشادات

حضرت سیدنا سعید تتریؓ نے فرمایا من صحق ایمانه و اخلص توحیدہ فانه لا یائنس الی مبتدع ولا یجالسه ولا یوائله ولا یشاربه لا یصاحبه و یظہر له من نفسه العداوة والبغضاء (روح العالم ج ۲۸ ص ۳۵) یعنی جس شخص نے اپنا ایمان درست کیا اور اپنی توحید کو خالص کیا وہ کسی بدنه هب (بدعی) سے انس و محبت نہ کرے گا۔ نہ اس کے پاس بیٹھنے گا نہ اس کے ساتھ کھائے ہے گا نہ اس کے ساتھ آئے گا بلکہ اپنی طرف سے اس کے لیے دشمنی اور بغرض ظاہر کرے گا۔

نیز فرمایا من ضحک الی مبتدع نزع الله تعالى نور الایمان من قلبه ومن لم یصدق للی بحسب (روح العالم ج ۲۸ ص ۳۵) یعنی جو شخص کسی بدنه هب (بدعی) کے ساتھ خوش طبعی کرے، خدا تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان نکال لے گا۔ جس بندے کو اس بات کا اعتبار نہ آئے وہ تجویز کر کے دیکھ لے۔“

تفسیر روح البیان میں ہے۔ روی عن ابن المبارک روی فی المنام فقیل له مافعل اللہ بک

لفال عاتبی و واقفی ثلاثین سنة بسبب انی نظرت باللطف یوما الی مبتدع فقال انک لم تعاد عدوی فی الدین .
(روح البیان ص ۳۷۹ ج ۳)

”وقات کے بعد کوئی شخص خواب میں سیدنا ابن مبارکؑ کی زیارت سے مشرف ہوا اور عرض کیا حضرت خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا تو فرمایا مجھے عتاب فرمایا اور مجھے تیس سال ایک روایت میں ہے تین سال کفر کیا اور اس عتاب کا سبب یہ کہ میں نے ایک دن ایک بدمنہب (بدعی) کی طرف شفتت سے دیکھا تھا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے ابن مبارک تو نے میرے ایک دین کے دشمن کے ساتھ دشمن کیوں نہیں کی۔“ یہ واقعہ لکھنے کے بعد صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں۔ فکیف حال القاعد بعد الذکری مع القوم الظالمین (روح البیان ج ۳ ص ۲۲۰) پس کیا حال ہوگا اس شخص کا جو دیدہ و انشتہ دین کے ظالموں کے پاس بیٹھتا ہے۔

عارف بالله حضرت علامہ حقیؒ کا ارشاد مبارک ان القرین السوء یجر العراء الی النار و یحله دار البوار فینبغی للمؤمن المخلص السنی ان یجتسب عن صحبة اهل الكفر والنفاق والبدعة حتی لا یسرق طبعه من اعتقادهم السوء و عملهم السنی (روح البیان ج ۲ ص ۳۷۹) یعنی برائے مشین انسان کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسے ہلاکت کے گڑھے میں لا الہ دیتا ہے لہذا شخص اور سنی مومن کو چاہیے کہ وہ کافروں متناقوں اور بدمنہبیوں (بدعیوں) کی صحبت سے بچے تاکہ اس کی طبیعت میں ان کا بد عقیدہ اور براعمل مرابت نہ کر جائے۔

نیز عارف بالله علامہ حقیؒ نے فرمایا و فی الحديث من احباب قوما على عملهم حشر فی زمرةهم و حوصل بحسابهم و ان لم یعمل بعملهم (روح البیان ج ۹ ص ۲۹۲) ”یعنی حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کی قوم سے محبت کرے گا ان کے کسی عمل کو پسند کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس قوم کے ساتھ حساب میں شریک ہوگا۔ اگرچہ اس کے ساتھ اعمال میں شریک نہیں تھا۔“

نیز تفسیر روح البیان میں ہے۔ ان الفلطة علی اعداء الله تعالیٰ من حسن الخلق فان ارحم الرحماء اذ ان مامورا بالفلطة عليهم فما ظنك بغيره فهو لاتنا في الرحمة على الاحباب كما قال تعالى اشداء على الكفار .
(روح البیان ج ۱۰ ص ۶۷)

”یعنی خدا تعالیٰ کے دشمنوں پر سختی کرنا یہ بھی حسن خلق میں داخل ہے اس لیے کہ جب سب مہربانوں سے مہربان آقا کو اعداء دین پر سختی کرنے کا حکم ہے تو دوسرے کا کیا شمار۔ لہذا دشمن دین پر سختی کرنا یہ دشمنوں پر سخت ہیں اور اپنے پر بڑے مہربان۔“

حضرت سیدنا فضیل بن عیاضؓ کا ارشاد گرامی من احباب صاحب بدعة احبط الله عمله و اخرج نور الايمان من قلبه (غایۃ الطالبین ج ۱ ص ۸۰) یعنی جس کسی نے بدمنہب (بدعی) سے محبت کی، خدا تعالیٰ اس کا عمل بر باد کر دے گا اور اس کے دل سے نور ایمان نکال دے گا۔

نیز فرمایا و اذ اعلم الله عزوجل من رجل الله مبغض لصاحب بدعة رجوت الله تعالیٰ ان یغفر ذنبه و ان قل عمله .
(غایۃ الطالبین ج ۱ ص ۸۰)

”یعنی خدا تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ بدمنہبیوں (بدعیوں جیسے قادیانیوں) سے بغض رکھتا ہے

مجھے امید ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں۔“

حضرت سفیان بن عینیہؓ کا ارشاد گرامی من تبع الجنائز مبتدع لم یزد فی سخط اللہ تعالیٰ حتیٰ
یرجع (غایہ الطالبین ج ۱ ص ۸۰) ”یعنی جو شخص کسی بدمنہب (بدعی) کے جنازہ میں گیا وہ لوٹتے تک خدا تعالیٰ کی
ناراضی میں رہے گا۔“

سرکار غوث اعظم محبوب سجنی قطب ربانیؓ کا ارشاد مبارک و ان لا یکافر اهل البدع ولا یدانیہم
ولا یسلم علیہم (غایہ الطالبین ج ۱ ص ۸۰) ”یعنی بدمنہب (بدعی) (جیسے قادریانی) کے (جلسوں وغیرہ میں شرکت
کر کے) ان کی رونق نہ پڑھائے اور ان کے قریب نہ آئے اور ان پر سلام نہ کرے۔“

نیز فرمایا ولا یجالسہم ولا یقرب منہم ولا یہنیہم فی الاعیاد و اوقات السرور ولا یصلی
اذا ماتو او لا یترحم علیہم اذا ذکر و ابل یہنیہم و یعادیہم فی اللہ عزوجل معتقد ابطالان مذهب
اہل بدعة محبتسا بذالک التواب الجزيل والاجر الكثير۔ (غایہ الطالبین ج ۱ ص ۸۰) ”یعنی بدمنہب (بدعی)
(جیسے قادریانی) کے ساتھ نہ بیٹھے اور ان کے قریب نہ جائے اور نہ ہی انھیں عید وغیرہ شادی کے موقع پر مبارک
دے اور جب وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھے اور جب ان (جیسے قادریانیوں) کا ذکر ہو تو رحمۃ اللہ علیہ نہ کہے
 بلکہ ان سے الگ رہے اور ان سے خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے عداوت رکھئے یہ اعتقاد کرتے ہوئے کہ ان کا نہب
 باطل ہے اور ایسا کرنے میں ثواب کثیر اور اجر عظیم کی امید رکھے۔“

امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظمؑ نماز مغرب پڑھ کر مسجد سے تشریف لائے تھے کہ ایک شخص نے
آواز دی کون ہے جو سافر کو کھانا کھلائے۔ سیدنا فاروق اعظمؑ نے خادم سے فرمایا اس کو ساتھ لے آؤ وہ لے آیا۔
فاروق اعظمؑ نے اسے کھانا منگا کر دیا اس نے کھانا شروع کیا اس کی زبان سے ایک بات لکھی جس سے بدمنہب کی
بُوآتی تھی آپ نے فوراً اس کے سامنے سے کھانا اٹھوا لیا اور اس کو نکال دیا۔

(ملفوظات مولانا احمد رضا خان حصہ اول ص ۷۰)

پھر یہ کہ خدا تعالیٰ کے نافرمانوں اور مخالفوں (قادریانیوں) کے ساتھ بائیکاٹ کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں
 بلکہ یہ بائیکاٹ کہلی امور سے چلا آتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ وَسْلَهُمْ عَنِ الْقُرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً
الْجَرَا ذِي الْعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْطِهِمْ شَرْعًا وَ يَوْمَ لَا يَسْبِطُونَ لَا تَأْتِيهِمْ (الاعراف
۱۶۳) یعنی اصحاب بست جن کی بھتی دریا کے کنارے واقع تھی انھوں نے ہفتہ کے دن چھلپیاں پکڑ کر خدا اور اس کے
نی کی نافرمانی کی تو اس قوم کے تین گروہ ہو گئے ایک گروہ نافرمانی کرنے والا دوسرا براہی سے روکنے والا تیسرا
خاموش آخر فرمانبردار گروہ نے نافرمانوں سے ایسا بائیکاٹ کیا کہ درمیان دیوار کھڑی کر دی نہ یہ ادھر جاتے نہ وہ
ادھر آتے۔ جب نافرمانوں کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو وہ بندر بنا کر ہلاک کر دیے گئے۔

(تفسیر مثہبی جلد سوم سورہ اعراف ص ۲۶۷ تفسیر روح المعانی سورہ اعراف جلد نمبر ۹ ص ۸۲)

پھر طرفہ یہ کہ ہر نمازی نماز و ترکی دعا نہیں پڑھتا ہے۔ وَنَخْلُعُ وَنَتْرُكُ مِنْ يَفْجُورُكَ يَا اللَّهُ هُمْ هُر
اس شخص سے قطع تلقی کریں گے اور علیحدہ ہو جائیں گے جو تیرتا نافرمان ہے۔ عجیب حالہ ہے کہ مسلمان مسجد میں
دربار الہی میں کھڑا ہو کر مودبانہ ہاتھ باندھ کر عہد کرتا ہے کہ یا اللہ تم تیرے نافرمانوں مخالفوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں
گے لیکن مسجد سے باہر آ کر ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمن)

مسلمان بھائیوں سے اوقیل میرے مسلمان بھائیوں تا جدار مدینہ ﷺ کے بھولے بھالے امتوں ہوشیار، خبردار، ہوشیار، خبردار اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اپنے بیگانے کو پچانو اور اگر شیطان وحکر دینے کی کوشش کرے تو مندیجہ بالا ارشادات کو بار بار پڑھو خدا تعالیٰ دوست و دُخْن کی پچان نصیب کرے ان ایں الا الا صلاح مالسطعت وما توفیقی الا بالله تعالیٰ۔

طالب دعا: سک در بار سلطانی

فقیر ابوسعید محمد امین غفرلہ

۳ جمادی الآخری ۱۴۹۳ھ

تقریب نمبر۱..... یہ تھا دنیا میں مسلمانوں کا خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے جبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دشمنوں کے ساتھ بایکاٹ لیکن قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی طرف سے بایکاٹ ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے یوم یقون
المنافقون والمنافقات للذین امتوا النظرونا ننتقبس من نوركم قبیل ارجعوا وراثکم فالتمسوا نورا
فمضرب بینهم بسوره باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاهره من قبیلہ العذاب (حدیث ۱۰۳) یعنی قیامت کے دن (جب پلی صراط سے گزر ہوگا اور خدا تعالیٰ ایمان والوں کو تو ر عطا فرمائے گا) اس نور کو دیکھ کر منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں اس پر فرمایا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو وہاں نور ڈھونڈو پھر جب لوٹنے کے تو ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا یعنی دیوار کے ذریعہ ایسا مکمل بایکاٹ کر دیا جائے گا کہ منافق لوگ ایمان والوں کے نور کی روشنی بھی نہ لے سکیں گے۔

نمبر۲..... جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا و امتازوا الجیوم ایها
المجحومون (بیان ۵۶) یعنی اے نافرمانو، کافرو آج میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ خدا تعالیٰ سب کو دین اسلام
کی میروی کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

مسلمان بھائیوں کی دعاؤں کا تھانج

فقیر ابوسعید غفرلہ ولوالدیہ



کتابت نصیر الدین کاظمی
طبع و مطبوعات اسلامی
لایه لایه

اہل قبلہ کی تحقیق

مولانا محمد مسلم عثمانی دیوبندی

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم

اس زمانہ میں مسلمانوں کی بدعتی یا نہیٰ ناداقیت کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں میں یہ خیال کسی قدر رائج ہو چلا ہے کہ جو شخص زبان سے ایک دفعہ کلمہ شہادت جاری کر دے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ وہ ایسا پختہ اور رائج الحقیدہ مسلمان بن جاتا ہے کہ اسلامی تعلیم اور نہیٰ عقائد کی حکم مکالمات اور انکار کرنے کے باوجود بھی اس کے ایمان میں کسی قسم کا خلل یا فتو را قع نہیں ہوتا۔ اس خیال کی تائید میں بعض فلسفیوں کا فکار ہو کر اہل قبلہ کی عدم عکیفہ والی حدیث پیش کر دی جاتی ہے اور بھی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ”وَلَا تقولوا لِمَنْ أَنْقَلَكُمُ السُّلْطَمُ لَئِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنًا“ (النَّاه١: ۹۲) یعنی جو شخص تم سے السلام علیکم کہتا ہے۔ اس کوشہ کی وجہ سے کافرش کہو۔

اس خیال کی وجہ سے بعض ناداقیت لوگوں کی ذہنیت اس درجہ بگوگئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر نہیٰ تعلیم اور اسلامی روایات سے متاثر ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ ان کی نظر میں عک دل، نہیٰ دیوان، ناخاقدت اندیش، اسلامی اخوت کا دشمن نظام فی کمال اخلاق سمجھا جاتا ہے اور بعض تو اس کی بات سننا اور اس کی کسی تحریر کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے ایسے دوستوں کی خدمت میں بالا ب التماس ہے کہ وہ حق اور انصاف کو دل میں رکھتے ہوئے ہماری معروضات پر بغور توجہ فرمائیں اور جو بات بھی ہو اس کو اختیار کریں۔

اس بات سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ اسلام دنیا میں ایک اصولی مذہب ہے۔ دیگر مذاہب کی طرح انسانی خیالات اور قومی یا ملکی رسومات کے ساتھ ساتھ نہیں چلتا۔ اس کے فیصلے ایش اور اس کے ضابطے ہر قسم کے تغیرات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ اس کے ہر حکم کو تعلیم کرنا اور اس کوچے دل سے مانا ہی ایمان ہے۔ ان میں سے کسی فیصلے کو بدل دینے اور بعض کو مانے یا بعض سے انکار کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَمْكُنُ لَهُمُ الْجِنَاحُ (ازاب ۳۶) کسی مرد مسلمان یا عورت مسلمہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ جس حکم کے متعلق خدا تعالیٰ یا اس کا رسول کوئی فیصلہ نہیں۔ وہ اس میں کسی قسم کا تغیری یا تبدلیٰ پیدا کرے۔ یا اس کے بعض حصہ کو مانے اور بعض سے صاف انکار کر دے۔ دوسرا مجھے اس طرح فرمایا گیا ہے۔ تِلْكَ خُلُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُلُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة ۲۲۹) یہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے اور اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے تجاوز یا انکار کرنے والا ظالم اور بد دین ہے۔ ایک اور آیت میں ہے۔ مَا تَأْكِمُ الرِّسُولُ فَخُلُودُهُ وَمَا تَنَاهَأْكِمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوَا (الحضر) اور خدا کا رسول جس کام کے کرنے کا حکم فرمائے۔ اس کو بجا لاؤ۔ اور جس چیز سے روکے۔ اس سے رک جاؤ۔ یعنی شریعت کے دونوں حصول امورات اور منہیات۔ حلال و حرام یا جائز و ناجائز کا مانا ہر مسلمان کے لیے ضروری

ہے۔ اس کے علاوہ جب دنیا کے کسی قانون کو تسلیم کرنے کے لیے اس کی تمام دفعات کا ماننا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم دو رہاضرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص تعریفات کی پیشگوؤں دفعات میں سے صرف قانون نہ کی خلاف درزی کرنے سے حکومت کا باغی کہلایا جاتا ہے۔ اور اس کی طرف سے قانون کا احترام باقی رکھنے کے لیے اس کو قید و بند کی سخت ترین سزا میں دی جاتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اسلام جو اصولی مذہب ہے۔ قوانین اور ضابطوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس کے ہر دفعہ اور قاعدے پر ایمان لانا اور اس کو صدق دل سے تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے اور کس لیے اسلام کے مجموعہ قوانین میں سے کسی ایک ضابطے اور قاعدے کا انکار کرنے والا خدا اور اس کے رسول کا باغی اور نافرمان نہیں سمجھا جاتا اور کیوں اسلام کی عزت اور اس کا احترام باقی رکھنے کے لیے ایسے شخص کو سزا نہیں دی جاتی۔ غرض جس طرح توحید اور نبوت کے اقرار کرنے سے مخفی طور پر تمام شریعت کا اقرار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت محمدی کے کسی قطعی اور یقینی فیصلہ سے جس کو ہر آدمی مذہبی مسئلہ اور اسلام کا ایک حکم سمجھتا ہے۔ انکار کرنا خدا اور رسول سے انکار کرنے کا مترادف ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے مبہی معنی ہیں کہ ان کی تعظیم اور فیصلوں کو صحیح اور درست تسلیم کرتے ہوئے بصورت انکار کبھی ان کی مخالفت نہ کرے۔

اور جس شخص نے کسی ایسے فیصلے کے متعلق جس کا خدا اور رسول کی طرف سے ہوتا یقینی امر ہے۔ انکار کیا یا اس کو بدلت کر دوسرے رنگ میں پیش کرنا چاہا۔ ایسا آدمی یقیناً خدا اور اس کے رسول کا کھلا ہوا دشمن اور ان کی تعلیم کا صریح مخالف سمجھا جائے گا۔

اس لیے یہ خیال کرنا کہ توحید اور نبوت کے اقرار کرنے یا قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بعد کسی شے کے انکار کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ قرآن کی صدھا آمیعنی اور احادیث نبوی ﷺ کے سراسر خلاف ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے۔ **وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ** (المائدہ ۳۳) ”جو لوگ خدا کے اس حکم کے موافق فیصلہ نہیں کرتے جس کو اس نے نازل فرمایا ہے۔ وہ کافر ہیں۔“ لفظ ماعربی زبان میں تعییم کو چاہتا ہے۔ جس کے یہ معنی ہوئے کہ جو شخص قرآن عزیز کے ہر فیصلہ کے آگے گردن نہیں جھکاتا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا یا کسی فرض کی فرضیت سے انکار کرتا ہے۔ وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سبھی معنی اس آیت کے ہیں جس میں صاف طور پر یہ فرمایا گیا ہے۔ **فَإِنَّمَا الظَّنُونُ بِاللَّهِ وَلَا** **بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُنَّ مَا حَرَمَ اللَّهُ** (التوبہ ۲۹) ”ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ اور جن چیزوں کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ان کو حرام نہیں جانتے۔“ **وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ** **بِهَنْدَاتٍ وَمَا يَكُفِرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ** (البقرۃ ۹۹) ”ہم نے آپ پر ظاہر اور محلی باتیں اتنا ریں ہیں۔ جن کا انکار کر کے کافر نہیں بنتے۔ مگر فاسق اور نافرمان لوگ۔“ اسی سورۃ میں دوسری جگہ ارشاد ہے **وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَأَكْلُهُوا** **بِإِيمَانِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (البقرۃ ۳۹) ”جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آسموں کو جھٹالا یا وہ جنہی ہیں۔ اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔“ ایک جگہ یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے **وَأَمْئُوا بِمَا** **أَنْزَلْتَ مُصَلِّيَّا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيْ بِهِ** (البقرۃ ۲۱) قرآن پر ایمان لاو جو تمہاری آسمانی کتاب تو ریت کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس کا انکار کر کے کافر نہ بتو۔ ان تینوں آسموں سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن عزیز کی کسی ایک آیت کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جایا کرتا ہے۔ **وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْتَلُ** **مِنْهُمْ نَفَقَاهُمْ إِلَّا هُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْقِضُونَ إِلَّا وَقُمُّ**

کارہوں (التوبہ ۵۵) ”ان کے صدقات اور خیرات خدا کے نزدیک اس لیے قول نہیں کیے جاتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور نماز بے ادبی سے پڑھتے اور دباؤ کی وجہ سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔“ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے یا زکوٰۃ دینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ جب تک ایمانیات کے متعلق اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کرے۔ منافقین، مغلص مسلمانوں کی طرح توحید اور نبوت کا اقرار کرتے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن عقیدہ صحیح نہ رکھنے کی وجہ سے کافر ہی قرار دیے گئے اور کسی دن بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھا گیا۔

۳.....يَخْلُفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةُ الْكُفَّارِ وَكَفَرُوا بِمَا نَعْلَمُ (التوبہ ۷۳) ”وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ باوجود یہکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ زبان پر جاری کیا اور وہ ایسا کرنے سے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔“ عام مفسرین کے نزدیک یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جنہوں نے اپنی مجلس میں نبی عربی ﷺ کی شانی مبارک میں بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ نکالے تھے۔ جب حضور ﷺ کو اس بات کا علم ہوا۔ تو منافقین نے اس کو چھانے کی غرض سے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو اصل واقع کی اطلاع دیتے ہوئے ان کو حلف اٹھانے میں جھوٹا قرار دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ وہ ایسا کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ مسلمان نہیں رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء ﷺ میں سے کسی ایک نبی کی توجیہ کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا بلکہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔

۵.....وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَغْوَضَ وَنَلْعَبُ قُلْ أَيُّ الَّهُ وَآيَاهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهِزُونَ لَا تَعْلِمُونَ وَلَقَدْ كَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (التوبہ ۲۲-۲۵) جب قیصر روم سے لڑنے کے لیے ۹ جنری میں رسول خدا ﷺ مسلمانوں کی جیت لے کر مدینہ سے باہر لٹکے اور تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو بعض منافقین نے جو اس سفر میں مسلمانوں کے ہمراہ تھے۔ یہ کہا کہ اب اس شخص یعنی رسول اللہ ﷺ کے حوصلے بہت بڑھ گئے جو ایسی زبردست سلطنت سے لڑنے کے لیے چلا ہے۔ جب آپ ﷺ کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تو منافقین نے مذہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ بات دل سے نہیں کی تھی بلکہ راستہ طے کرنے کے لیے دل لگی اور مذاق کے طور پر کیا تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ بالا نازل فرمائی جس کے یہ معنی ہیں۔ اے محمد ﷺ! ان لوگوں سے کہہ دو۔ تم اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کی آئینوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ اب تمہاری جھوٹی عذرخواہی فضول ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اس آیت میں قرآن شریف، اللہ یا اس کے رسول کا استہرا کرنے اور ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے کافر ہو جانے کا حکم سنایا گیا ہے۔

۶.....فَإِنْ تَابُوا وَأَقْامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوْلُوا الزَّكُوَةَ فَإِنَّمَا أَنْكِمُ فِي الْبَيْنِ وَنَفْصُلُ الْأَيَّاتِ يَقْرُؤُونَ يَقْلُمُونَ وَإِنْ نَكْتُرُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا بِيَدِنَا كُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّمَةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهَوَّنُ (توبہ ۱۱، ۱۲) ”اگر وہ کفر سے توبہ کر کے نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تحمارے دلی بھائی ہیں۔ ہم اپنی آیتیں سمجھداروں کے لیے تفصیل کے ساتھ کھوول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہیں اور تحمارے دین و مذہب کے کسی حکم پر طمعنہ کریں اور اس میں عیب نکالیں تو ایسے لوگ کفر کے امام اور پیشوائیں۔ ان سے لڑو اور جہاد کرو۔ ان کے عہدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شاید کہ وہ اس سے ڈر کر اسلام کے متعلق بذریبائی کرنا چھوڑ دیں۔“ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسائل دینیہ اور اسلامی اصول اور ضابطوں کے بارے میں نکتہ چینی کرنی اور

گستاخی سے ہیش آنا انہائی درجہ کی بے ایمانی ہے۔

..... اَنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَرِيدُونَ أَنْ يُعَذِّبُوْا بَيْنَ أَنْ يُعَذِّبُوْا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اُوْلَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ فَنَحْنُ حَقًا (النَّ، ۱۵۱، ۱۸۰) ”جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس کے رسول کو نہیں مانتے یا رسولوں میں سے بعض کو سچا اور بعض کو جھوٹا کہتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے۔ یا مذہب میں ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں۔“ اس آیت میں چار قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں۔ چوتھا گروہ کافروں کا وہ ہے جو اسلام کے اصولوں میں سے بعض کو مانتے اور بعض سے انکار کرے اور مذہب میں ایک ایسا درمیانی راستہ عمل کا تجویز کرے۔ جس میں نہ کلیتہ اسلام سے انکار ہو اور نہ کامل طور پر اس کا اقرار۔ ایسا آدمی قرآن عزیز کی تصریح کے موافق اسی طرح کافر ہے۔ جیسے خدا اور اس کے رسول سے انکار کرنے والا کافر اور بد دین ہے۔

..... اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ إِلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَةِ وَرَسُولِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (البقرة ۲۸۵) رسول اللہ ﷺ اور مومنین ان تمام یاتوں پر ایمان رکھتے ہیں جوان پر خدا کی طرف سے نازل کی گئیں اور ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا اور ان را اور ان کی کتابوں کے غیر محرف حصہ کو منزل من اللہ اور سچا جاننا ضروری تھا یا ہے۔ جس کے صاف اور ظاہری معنی یہ ہوئے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے پر ایمان نہ لانے سے آدمی دانہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہودی توریت کے بعض حصہ کو مانتے اور بعض کا انکار کرنے کی وجہ سے اس آیت میں کافر قرار دیے گئے۔

اسی طرح وہ مسلمان جو قرآن عزیز کے صریح احکام میں سے بعض کا انکار کرے۔ وہ قطعاً کافر اور بد دین ہے۔ قُلُّوا اَهَنَا بِاللَّهِ وَمَا اُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ إِلَى اَبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا اُوْتَى مُوسَى وَعِيسَى وَمَا اُوْتَى الْبَيْتُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَنَخُنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ اَمْنُوا بِمِثْلِ مَا امْتَهَنُ بِهِ فَقَدِ اهْنَدُوا وَإِنْ تُوْلُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَفَاقٍ (البقرة ۱۳۶-۱۳۷) اس آیت میں امر کے سیغہ کے ساتھ جو وجوہ اور فرضیت کے لیے آتا ہے۔ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ”زبان سے اس پات کا اقرار کرو کہ ہم اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف تھی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی تھیں۔ ایمان لائے اور جو کچھ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو دیا گیا اور جو دوسرے انبیاء علیہم السلام خدا کی طرف سے لائے ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اور ہم اس اقرار میں پچھے اور مغلظ مسلمان ہیں۔ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو وہ دوایت پر ہیں۔ اور اگر وہ اس سے اعراض کریں تو وہ اختلافات میں پڑے ہوئے اور گمراہ ہیں۔“ علامہ ابو سعود نے اپنی تفسیر میں آیت ما اُوْتَى مُوسَى وَعِيسَى کی تشریح کرتے ہوئے اس سے توریت، اور انجیل اور وہ مجرمات مراد ہیں جو ان کے مبارک ہاتھوں سے ظاہر ہوئے۔ اور ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح تمام نبیوں اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے مجرمات کا قرآن کی تصریحات کے موافق تسلیم کرنا بھی ایمان کا ایک جزو ہے۔ مجرمات کو قرآنی دینے

کے مطابق نہ مانئے والا ایسا ہی کافر ہے جیسا کہ کسی نبی کے الکار کرنے والا مردود اور کافر ہے۔
 ۹۔ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْنَانًا عَظِيمًا (الناء ۱۵۲) یہودی حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی وجہ سے کافر قرار دیے گئے۔ اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی وجہ سے یہودیوں کو کافر تباہی کیا ہے۔ اگر آج بھی کوئی بدجنت حضرت عیسیٰ ﷺ کی والدہ مُحَمَّدؐ کے ساتھ اس حتم کی بذریانی سے پیش آئے تو وہ قرآنی فیصلہ کے مطابق یقیناً کافر اور بد دین سمجھا جائے گا۔

۱۰۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَاهِهِ فَلَمْ يَتَبَوَّءْ مَقْعِدَةً مِنَ النَّارِ۔

(نومندی ہریف باب ماجھا فی اللذی یفسر القرآن برائیہ ح ۲۲ ص ۱۲۳)

”رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ جھنپی ہے۔“
 یعنی قرآن مجید کے اس حصہ کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا جس کا تعلق نقل سے ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے معنی اور مطلب کو ظاہر فرمایا ہے۔ رسول خدا ﷺ کی مخالفت کرنے کے مترادف ہے کیونکہ رسول خدا ﷺ کے تنازع ہوئے معنوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے معنی گھر کر پیش کرنے والا رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کو مٹانا چاہتا ہے جو یقیناً کفر ہے چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَمِّلُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِهِنَّمُ (الناء ۶۵) ”یعنی وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب تک وہ ہر شی کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو حاکم تجویز نہ کریں۔“ اور اس فیصلہ کے آگے گرد़ن نہ جھکائیں۔

اس کے علاوہ رسول خدا ﷺ امت کے لیے معلم ہا کر کتاب اللہ سخانے کے واسطے بیجیے گئے۔ جیسا کہ آیت بِعْلَمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (البرة ۱۲۹) سے ظاہر ہے۔ اس لیے آپ ﷺ کی تعلیم اور بدایت کو بعینہ تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جو شخص اس کے خلاف اپنی رائے کو شریعت کے فیصلوں میں دخل دیتا ہے۔ وہ زندگی اور بے ایمان ہے۔ اسی پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ تفسیر کا وہ حصہ جو عربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اپنی رائے سے عجیب لکھتے پیش کرنے اور آیت کے تعلق فوائد اور حکمتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ذکرہ بالا آیات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک شی کے الکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بھنگ کلہ شہادت زبان پر جاری کرنا یا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ ابھال یا تفصیل طور پر شریعت کے تمام قطعی اور یقینی فیصلوں کو مانتا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک کا الکار کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ مگر الکار دو حتم کا ہوا کرتا ہے۔ (۱).....
 صاف اور صریح طور پر کسی چیز کو مانئے سے الکار کرنا اسلام سے ایسا الکار یہود و نصاریٰ اور مشرکین کیا کرتے ہیں۔
 دوسری حتم کا الکار یہ ہے کہ آیت قرآنی اور شریعت کے قطعی فیصلوں کے جو معنی اور مطلب رسول خدا ﷺ سے ثابت ہیں۔ یا آپ ﷺ کے بعد صحابہ اور ائمہ مجتہدین نے وہ معنی لیے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی اور مطلب اس شرعی فیصلے کے تعلق بیان کرے تو ایسا الکار بھی قرآنی فیصلے کے مطابق پہلے الکار کی طرح کفر ہے۔
 چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَمِّلُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِهِنَّمُ لَا يَهْجِلُوا فِي الْفَسِيمِ حَوَّجَا مِمَّا قَطَمْتُ وَيُسَلِّمُوا أَتَسْلِمُوا (الناء ۶۵) ”ترے پروردگار کی حتم ہے کہ جب تک وہ آپ کو ہر بات میں اپنا حکم تجویز نہ کریں اور اپنے ہر فیصلہ لوگوں کی تعلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی گرد़ن نہ

جھکائیں۔ وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔“

(۲) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ لِنَفْهُمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتٍ وَنُزَّلَ كِتَابٌ
وَنَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْجُحْكَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفْنِي ضَلَالٌ مُّبِينٌ (آل عمران ۱۶۳) اللہ نے مسلمانوں پر بڑا
احسان کیا۔ جو ان میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو اس کی آئینے پڑھ کر ان کو سناتا ہے اور نقوص کو شبہات اور
گناہوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے۔ قرآن عزیز کے معافی اور مطالب بیان کرتا اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔
اس آئینے میں نبی عربی ﷺ کو قرآن شریف کے سکھانے والا فرمایا گیا ہے۔ یہ بات اسی صورتوں میں ہو سکتی ہے
جبکہ آپ کے بیان کردہ معافی اور مطالب کو بیعتہ قائم رکھا جائے۔ ورنہ آپ کا معلم قرآن ہونا باقی نہیں رہ سکتا۔
اس کے علاوہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے صریح فیصلوں کو چھوڑ
کر اسلام میں کوئی نیا راست جھوپیز کرے۔ لہذا اگر کوئی بدباطن اسلام میں درمیانی راستہ نکال کر اس کا نام اسلام رکھے
اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے تو ایسا خود ساختہ اسلام بیعتہ نبی کریم ﷺ کا پیش کردہ اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ
رسول خدا ﷺ کے تائے ہوئے اصول اور ضابطوں میں نجات ہے۔ باقی راستے تمام مخلافت اور گمراہی کے
بین بلکہ قرآن مجید میں ایسے شخص کو جو اسلامی تعلیم کوئے رنگ میں پیش کر کے ذہب میں ایک درمیانی راستہ نکالنا
چاہتا ہے۔ کافر اور بد دین فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ آئینے یہ نہیں کہ اس کے ذریعے میں ذلک سَبَبِلَا اُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُوْنَ حَقْدًا (الناء ۱۵۰۔ ۱۵۱) سے ظاہر ہے۔ یعنی جو لوگ اسلام کی بعض باتوں کا انکار اور بعض کا اقرار کرتے
ہوئے دین میں ایک درمیانی راستہ جھوپیز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قطعاً کافر اور بد دین ہیں۔

اس حُمُم کی آنکھوں سے اب تک یہ بات معلوم ہوئی (۱) کہ اللہ یا اس کے رسول کا انکار کرنے
(۲) قرآن کی کسی آئینت کو جھلانے (۳) یا ان میں سے کسی ایک کا استہزا اور ماق اڑانے (۴) اللہ
کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کی شان میں گستاخی کرنے (۵) قطبی حکم کو نہ ماننے (۶) طلاق کو حرام یا
حرام کو حلال جانے (۷) اسلام کے کسی حکم یا فرضیے کے متعلق عکت چینی یا عیب جوئی کرنے (۸) فرشتوں کے
وجود یا انہیاہ علیہم السلام کے پاس ان کی آمد و رفت کا انکار کرنے (۹) کسی نبی کے ان مجرمات کو جن کا ذکر
قرآن مجید میں صاف اور صریح طور پر آیا ہے نہ ماننے (۱۰) قرآن شریف کے صریح احکام کے خلاف اپنی
طرف سے اسکی تاویلات گھزنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے جو نبی کریم ﷺ اور صحابہ کی تصریحات کے خلاف
ہیں۔ پھر اسلام سے خارج ہونے کے لیے ان تمام وجوہوں کا جمیع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک وجہ
بھی کسی شخص میں یقیناً موجود ہوگی۔ وہ اسلام سے خارج اور قطبی طور پر کافر سمجھا جائے گا۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادری اور اس کے قبیلین خواہ لاہوری ہوں یا قادریانی قرآن اور
حدیث کے خلاف ایسے خیالات اور عقیدے ظاہر کر رہے ہیں جن سے ان پر ایک وجہ سے نہیں بلکہ متعدد وجوہات
سے کفر عائد ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محتلقوں قرآن میں فرماتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهًا
(حزاب ۲۹) عیینی بن مریم ﷺ اللہ کی نظر میں بزرگ اور محترم تھے مگر مرزا کہتا ہے۔

(۱) ”بلکہ مجھی نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں ناگیا کہ کسی فاحشہ عورت
نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا۔ یا ہاتھوں یا اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوٹا تھا۔ یا

کوئی جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس واسطے خدا نے قرآن میں بھی کا نام حصور رکھا۔ مگر سچ کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ ”(دالع الباء ص ۳ خواں ج ۱۸ ص ۲۲۰) ”ہائے کس کے سامنے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کی تین پیشیں گویاں صاف طور پر جھوٹ لکھیں۔ آج کون زمین پر ہے جو اس عقدے کو حل کرتے۔“ (اعجاز احمدی ص ۱۲ خواں ج ۱۹ ص ۱۲۱)

(۲) ”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں ”ن کی زنا کار کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔“ (حاشیہ ضمیمہ انجام آئھم ص ۷ خواں ج ۱۱ ص ۲۹۱)

(۳) ”ان کا کنگریوں سے میلان بھی شاید اسی وجہ سے ہو کیونکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پرہیز گار انسان ایک کنگری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپ ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے۔“ (حاشیہ ضمیمہ انجام آئھم ص ۷ خواں ج ۱۱ ص ۲۹۱)

اس قسم کی لغویات سے اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہم نے طوالت کے خوف سے چند بیان کی ہیں۔ مرزا نے ان عبارتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقدس اور بزرگ ہستی کے متعلق تین قسم کی گستاخیاں بیان کی گئی ہیں۔ (۱) العیاذ باللہ آپ کی دادیوں و نانیوں کو کبھی کہا۔ اور آپ کو کسیوں کے خاندان سے بتایا۔ باوجود یہ کہ قرآن مجید میں حضرت عرب یہ علیہ السلام کے والدین کو صالح اور نیک بخت لہا گیا ہے۔ جیسا کہ آیت یا اُخْتَ هَرَزُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَفْرَأَ إِسْوَءَ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَيْعَيَا (مریم ۲۸) سے ظاہر ہے۔ یعنی اے مریم تیرا باپ برآدمی نہیں تھا۔ اور تیری ماں بھی زنا کار نہ تھی۔ مگر مرزا قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہوئے خدا کے غصہ اور غضب سے نہیں ڈرتا۔

دوسری اور تیسری گستاخی یہ کی کہ آپ کو فاحش عورتوں بے تعلق رکھنے والا۔ ان کی کمائی کھانے والا شریٰ اور جھوٹا قرار دیا ہے۔ مرزا نے اس بذریانی سے ایک بزرگ زیدہ رسول کی توہین کے علاوہ آیت وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (ازباب ۲۹) (عیسیٰ بن مریم اللہ کی نظر میں بزرگ اور محترم تھے) کی عنذیب کی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ پر یہ الزم لگایا کہ وہ فاسق اور گنہگار کو رسول بنا کر بھیجا رہا ہے۔ ایسا ملحد اور بد دین آدمی قرآنی فیصلے کے مطابق تینی طور پر مردود اور کافر کہا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو ولادِ الرنا اور آپ کی والدہ مختصر مذکو زنا کار کہا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (۱) ”اور مریم کی وہ شان ہے۔ جس نے ایک مدت تک اپنے تینیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگانِ قوم کی ہدایت اور اصرار سے بوجھ ملز کے نکاح کر لیا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں نکاح کیا گیا۔ اور بتول ہونے کے عهد کو کیوں ناقص توڑا۔ اور تعدد از واج کی کیوں بنیادِ ذاتی گئی ہے۔ یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے ساتھ نکاح میں آئے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابلِ رحم تھے نہ قابلِ اعتراض۔“

(۴) ”یسوع مسیح کے چار بھائی اور دو بیشیں تھیں۔ یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بیشیں تھے۔ یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی۔“ (حاشیہ کشی نوح ص ۷ خواں ج ۱۹ ص ۱۸)

حضرت مریم علیہ السلام کو یوسف نجار کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے زنا کا حمل رہ گیا تھا۔ (العنت بر پھر فرنگ)

مرزا نے اس بیہودہ گوئی میں خدا کے ایک بزرگ اور اولو العزز رسول کی توہین کرنے کے علاوہ قرآن

شریف کی اس آیت کو بھی جھلایا ہے۔ والیٰ اخْصَنَتْ فِرْجَهَا فَفَخَنَّا فِيهَا مِنْ رُؤْحَنَا وَجَعَلْنَا هَا وَابْنَهَا أَبَةً لِلْمَعَالِيْمِ (الانبیاء ۹۱) ”وَهُوَ عَوْرَتْ جَسْ نَے اپنی شرمگاہ کو مرد سے بچا کر رکھا۔ ہم نے اس کے رحم میں ایک پاک روح پھوکی۔ اس کو اور اس کے بیٹے کو عالم کے واسطے نشانی بنایا۔“ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کی نیک چلتی اور پاک دامنی کی تعریف کی ہے۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کی پیدائش کے متعلق سورۃ آل عمران میں اس طرح ارشاد ہوا ہے۔ اَنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ اَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران ۵۹) عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ جس طرح آدم ﷺ کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے بنایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ﷺ پیدائش کے لفظ کن یعنی مخفی ارادہ کے ساتھ پیدا کیا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ ﷺ کی پیدائش آدم کی طرح بغیر باپ کے بتائی ہے بلکہ حضرت مریم علیہا السلام پر زنا کا بہتان باندھنے والوں یہودی صفتوں کو قرآن مجید میں کافر کہا ہے۔ ایک نبی کی توہین اور قرآن کریم کی تکذیب کرنا کافر ہونے اور جہنم میں جھکنے کے لیے کافی ہے۔ مگر مرزا العنت اللہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سید الانبیاء شفیع روزِ جزا کی ہسری کا بھی دعویٰ کیا ہے بلکہ بعض جگہ افضلیت کا دعویٰ دار بن گیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

(۱)..... ”اس زمانہ میں خدا نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راستباز نبی مقدس نبی گزر چکے ہیں۔ ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نہ نو نے ظاہر کیے جائیں۔ سو وہ میں ہوں۔“ (براہین احمدیہ حصہ ۵ ص ۹۰ خزانہ ن ۲۱ ص ۱۱۷)

گویا عیاذ باللہ ایک لاکھ چونیں ہزار نبیوں کی بزرگیاں جن میں رسول خدا ﷺ بھی ہیں۔ مرزا العنت اللہ میں صح ہو گئیں اور اس طرح مرزا تمام نبیوں سے خاکم بدھن بڑھ گیا۔

(۲)..... ”اور مجھے بتلا دیا گیا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصدق ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُفَّارٌ (ایضاً احمدیہ حصہ ۱۹ ص ۱۹۳) تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ آیت رسالت پناہ کی شان عالی میں نازل ہوئی ہے اور رسول سے آپ ﷺ کی ہی ذات گرامی مراد ہے اور آپ ﷺ سے اسلام کے غلبہ کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ لیکن مرزا ابھتا ہے کہ تو ہی اس آیت کا مصدق ہے۔ یعنی رسول اکرم ﷺ مراد نہیں ہیں۔ (معاذ اللہ)

اگرچہ اس میں بھی گستاخی کا پہلو نہیاں طور پر ظاہر ہے۔ لیکن دوسرا جگہ کلم کھلا بے ادبی اور گستاخی پر اتر آیا ہے۔ ملاحظہ ہو (۱)..... حضرت محمد ﷺ کا اجتہاد غلط نکلا۔ (ازالہ ن ۲۹ خزانہ ن ۲۹ ص ۳۲۲) (۲)..... ”علماء نے (حالکہ وہ تفسیر نبوی ہے) زوال کے معنی غلط سمجھے۔“ (ازالہ ن ۲۸ خزانہ ن ۲۸ ص ۳۲۲) (۳)..... آنحضرت کو ابن مریم اور دجال اور خرد جمال اور یاجوج ماجون اور دابة الارض کی وحی نے خبر نہیں دی۔

(ازالہ امام ن ۲۹ خزانہ ن ۲۹ ص ۳۲۲)

یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ اور یاجوج ماجون کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ دجال، خرد جمال، دابة الارض وغیرہ علامات قیامت کا بیان صحیح اور مشہور حدیثوں میں موجود ہے۔ مرزا کی اس دریدہ وحی کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دجال اور خرد جمال، دابة الارض، یاجوج ماجون سے جو مراد ظاہر فرمائی ہے۔ وہ نہ عوذر بالشیخ اور درست نہیں۔ اور مرزا نے جو خرد جمال سے ریل، یاجوج ماجون سے قوم نصاریٰ دجال سے پادری مراد لیے ہیں۔ وہ صحیح ہیں جو بے ادب اور گستاخ اپنی تحقیق کو درست اور رسول خدا ﷺ کے ارشاد کو غلط بتائے۔ وہ یقیناً کافر اور جہنمی ہے۔

پھر اس پر ہی بس نہیں کی بلکہ اسلام اور قرآن کریم کی توجیہ کرتا ہوا کہتا ہے۔ (۱)..... قرآن مجید میں گالیاں بھری ہوئی ہیں۔ (ازالہ ص ۲۵۔ ۲۶ خزانہ ج ۳ ص ۱۱۵) (۲)..... قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ (ذکرہ ص ۲۳۱ مطیع سوم) مرزا کا قرآن مجید کو اپنے منہ کی باتیں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسا کلام میں بھی یہاں سکتا ہوں۔ مرزا نے اس یادہ گوئی سے قرآن شریف کی اس آیت کو جھلانا چاہا ہے۔ فلَ لَيْنَ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتِيَنَا بِمُثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمُثْلِهِ وَلَا كَانَ بِعْضُهُمُ لِيَغْضِبُ طَهِيرًا۔ (الاسراء ۸۸) اگر جن و انسان متفقہ طور پر قرآن مجید کی مانند کلام بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔

(۳)..... غصب کہتے ہیں اب وہی خدا مفقود ہے
اب قیامت تک ہے اس امت کا قصور پر مدار ہے
خداوانی کا آلہ بھی یہی اسلام میں
محض قصور سے نہ ہو کوئی بشر طوفان سے پار
(برائین احمد یہ حصہ ۵ ص ۷۰ خزانہ ج ۲۱ ص ۱۳۷)

(۴)..... کیا بھی اسلام کا ہے دوسرا دینوں کا فخر
کر دیا قصور پر سارا شتم دین کا کاروبار
مخز فرقان مطہر کیا بھی ہے زہا خلک
کیا بھی چہا ہے لکلا کھود کر یہ کوہ سار
گر بھی اسلام ہے بس ہو گئی امت ہلاک
کس طرح راہ مل سکے جب دین ہو تاریک و تار

(برائین احمد یہ حصہ ۵ ص ۱۱۲ خزانہ ج ۲۱ ص ۱۳۷)

مرزا کی اس نظر کا یہ مطلب ہے کہ اگر آج بھی وہی اسلام ہے جو تیرہ سو رس پہلے حق تو اس میں روحانیت کا ملتا بہت دشوار ہے کیونکہ قرآن عزیز اور دیگر اسلامی روایات میں انہیاء ساتھیں کے حالات ہیں یا نبی عربی ~~الخط~~ پر نازل شدہ وحی کا بیان۔ اور مسلمانوں کو مسائل کی تلقین ہے۔ یہ سب ہاتھی تیرہ سو رس گزر جانے کی وجہ سے تھص اور کہانیاں بن کر رہ گئی ہیں۔ قصور اور کہانیوں میں روحانیت خلاش کرنی بے فائدہ اور فضول کام ہے۔ اس لیے اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بہت اور وحی کا دروازہ ہمیشہ کے واسطے منتوح اور کھلا ہوا رہتا چاہیے تاکہ اسلام میں تازہ تازہ روحانیت کا ثبوت ملتا رہے ورنہ اسلام میں روحانیت باقی نہیں رہ سکتی۔ (نحوہ باللہ من بہ اخلاق افات) اور لیکنے مرزا اور اس کے تبعین فرشتوں کی حقیقت اور دنیا میں ان کے آنے کے بھی مسکر ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

(۱)..... ”فرشتے نقوش فلکیہ اور کو اکب کا نام ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ سیارات کی تاثیرات سے ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔“
(توحی الدارم فضیل ص ۲۸، ۳۷ خزانہ ج ۳ ص ۲۰)

(۲)..... جبرائیل بھی زمین پر نہیں آئے۔ اور نہ آتے ہیں۔
(توحی الدارم فضیل ص ۲۸ خزانہ ج ۳ ص ۸۶) آئیکے کالات اسلام ص ۱۱۹ تا ۱۲۳ خزانہ ج ۵ ص ایضاً
نقوش فلکیہ اور کو اکب کو فرشتے کہنا اور سیارات کو موثر حقیقی جانا قرآن اور حدیث کی صدھا تصریحات
کے خلاف ہونے کی وجہ سے قطعی طور پر کفر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے جو لوگ بارش کو ساروں کی تاثیرات کی وجہ سے

مانند ہیں۔ وہ اللہ کے مکر اور کفر کرنے والے ہیں۔ (کتاب الایمان صحیح مسلم، باب کفر من قال طریق ۱ ص ۵۹) دوسرے جبرائیل ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری سے انکار کرنے کے یہ معنی ہیں کہ آج تک دنیا میں نہ کوئی رسول ہوا اور نہ کسی پر وحی الہی نازل ہوئی کیونکہ جبرائیل ہی وحی پہنچانے پر مامور ہیں۔ اور وہ دنیا میں تشریف نہیں لاتے۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیت فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَّرًا مُّؤْمِنًا (مریم ۲۷) کا بھی انکار ہوا۔ جس میں حضرت مریم ﷺ کے پاس جبرائیل امنی کا انسانی ملک میں آتا نامکور ہے۔

نیز اس آیت سے بھی انکار ہوا۔ جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم ﷺ اور حضرت لوٹ ﷺ کے پاس خدا کے چند فرشتے انسانی ملک میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم ﷺ نے ان کو انسان سمجھنے کی وجہ سے بھنا ہوا گوشت ان کے کھانے کے واسطے پیش کیا تھا اور حضرت لوٹ ان کو نومرڑ کے سمجھ کر دیر تک اپنی قوم سے لڑتے اور جگہت رہے تھے۔ مرزاًی جماعت اس قسم کی تمام آئتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے یقیناً اسلام سے خارج اور جہنمی ہے۔

اس کے علاوہ مرزا اور اس کے محبین نے قرآن کریم کی ان تمام آئتوں کا انکار کیا ہے۔ جن میں انبیاء ﷺ کے مigrations کے مجموعات کا ذکر ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے:

(۱).....قرآن شریف میں جو مجرم ہیں وہ مسکریم ہیں۔ (ازالہ ص ۳۰۲ خزانہ ح ۳ ص ۲۵۵)

(۲).....حضرت سعید ﷺ مسکریم میں مشتمل کرتے اور کمال رکھتے تھے۔ (ازالہ ص ۳۰۹ و ۳۲۲ خزانہ ح ۳ ص ۲۵۹، ۲۶۰)

(۳).....”اور لوگ ان کو شاخت کر لیں کہ درحقیقت یہ لوگ مر پکے تھے اور اب زندہ ہو گئے ہیں۔ وعظوں اور یکمروں سے شور چاہیں کہ درحقیقت یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ چاہے۔ سو یاد رہے کہ ایسے مجرمات کبھی ظاہر نہیں ہوئے اور نہ آنندہ قیامت سے پہلے کبھی ظاہر ہوں گے اور جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ایسے مجرمات کبھی ظاہر ہو پکے ہیں۔ وہ شخص بے بنیاد حصوں سے فریب خورده ہے۔“ (برائین احمدی حصہ بیم ص ۳۲۳ خزانہ ح ۲۱ ص ۲۲)

(۴).....بہر حال یہ مجرمہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا۔ اور وہ مٹی درحقیقت مٹی ہی رہتی تھی۔ جیسے سامری کا گوسالہ (ازالہ اوہم ص ۳۲۲ خزانہ ح ۳ ص ۲۶۳ ماشیہ) نیز مرزا نے مجرمہ شتن القمر کو چاند گردان بتایا ہے۔

(ماشیہ برائین احمدی حصہ ۵ خزانہ ح ۲۱ ص ۸۲ و ایضاً احمدی ص ۱۷۹ خزانہ ح ۱۹ ص ۱۸۳)

نیز قرآن مجید کی اس آیت سے بھی انکار ہے جس میں ایک رات کے اندر رسول خدا ﷺ کا مکہ معظمر سے بیت المقدس تک جانا نہ کوئ ہے۔ بلکہ قادیان میں ایک مسجد اقصیٰ تیار کر کے یہ ظاہر کیا کہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی پہلے محمد ﷺ بن کر کہ میں پیدا ہوا اور اب قادیان کی مسجد اقصیٰ میں آ گیا۔ اسی کا نام حلول ہے۔ چنانچہ بروزت کا دعویٰ عقیدہ طول ہی پر بنتی ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنا بااتفاق علماء اسلام کفر ہے۔ اس موقعہ کی مناسب چند عبارتیں ملاحظہ ہوں۔

(۱).....وہ محمد ﷺ عی ہے۔ گوٹلی طور پر۔ (ضیغم ہیئت ص ۲۶۳ ایک غلطی کا ازالہ ص ۵ خزانہ ح ۱۸ ص ۲۰۹)

(۲).....یعنی محمد مصلحتی ﷺ اس واسطے کو خود رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس نام محمد اور احمد سے کسی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۷ خزانہ ح ۱۸ ص ۲۱، ہیئت ہیئت ص ۲۶۵)

ظاہر ہے کہ جو شخص قرآنی مجرمات کو نہ مانے وہ قرآن مجید کی آئتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے یقیناً کافر اور بد دین ہے۔

نیز مرزا ای جماعت خواہ لاہوری ہو یا قادریانی اپنے مرشد مرزا کی طرح قرآن عزیز کی تفسیر کرنے میں نجی عربی عَلِیٰ کی تحقیق اور صحابہ کی تشریحات کی پابند نہیں ہے۔ جو دل میں آتا ہے۔ اس کی موافق قرآن کی تاویل اور تو پسخ بیان کرتا ہے۔ پہلے اچھی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ تقلیلات میں قرآن شریف کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنی موجب کفر ہے۔ چنانچہ مرزا برائین احمدی یہ حصہ ۵ ص ۹۱ خزانہ حج ۲۱ ص ۱۹ پر اس آیت کی تفسیر کرتا ہوا لکھتا ہے۔

”إِنَّا مَكْنَأَلَهُ فِي الْأَرْضِ وَالْئِنَاءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَنا (الکفیر ۸۲)“ یعنی سچ موعود کو جو ذوالقرنین عَلِیٰ کہلانے گا۔ روئے زمین پر ایسا مخلص کر دیں گے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔“ یعنی تمام سورت کو سخ کر کے اپنے اوپر چپاں کیا ہے۔ نیز شہادۃ القرآن مصنفہ مرزا اس قسم کی لغویات سے بھری پڑی ہے۔ حیات عَلِیٰ اور مigrations انیاء کرام کے متعلق جملہ آیات کی غلط تاویلیں کی ہیں اور ان میں نبی کریم عَلِیٰ کی تحقیقات کی مطلاقاً پرواد نہیں کی۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ حضور عَلِیٰ کو ان کی سچ اطلاع ہی نہیں دی گئی اور حدیثیں ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ وہ مرزا کے بتائے ہوئے معنوف کے موافق نہیں ہیں۔

اس کے علاوہ آج کل مرزا ای جماعت کا طرز عمل اور ان کی مطبوعہ تراجم اور تفسیریں ہمارے اس دعویٰ پر سکھی ہوئی شہادت ہیں۔ جس کا جی چاہے ان کی معنوی تحریفات کو اٹھا کر دیکھ لے۔ نیز جنگ جارہانہ جو اسلام کی عزت اور وقار کو قائم رکھنے اور کفر کا غلبہ اٹھانے حق و انصاف کو پھیلانے تبلیغ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس کے ثبوت میں احادیث نبویہ قرآن کی صدھا آیتیں موجود ہیں اور صحابہ کو قیصر و کسری سے ان کے ملکوں میں جا کر جنگ کرنا اس پر شاہد عادل ہے۔ مرزا اور اس کے تبعین کو اس سے صاف انکار ہے۔ حضرت عیسیٰ عَلِیٰ کی حیات کے متعلق قرآن عزیز کی آیتوں اور سچ حدیثوں کے غلط محتیں بیان کرنا ختم نبوت اور مسراج جسمانی سے انکار کرنا اس کے علاوہ ہیں۔

مرزا قادریانی جس عقیدے پر مرے ہیں اور جو اسلام آج بھی مرزا ای جماعت لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے وہ یہ ہے۔

(۱)..... فرشتے کو اکب اور نقوش فلکیہ کا نام ہے۔

(۲)..... ملائکہ کسی نبی کے پاس وہی لے کر زمین پر نہیں آئے اور نہ وہ کسی انسان کی ہٹکل اختیار کرتے ہیں۔

(۳)..... اسلام میں جنگ جارہانہ یا جہاد فی سنتیں اللہ کوئی چیز نہیں بلکہ گناہ ہے۔

(۴)..... قرآن عزیز کی تفسیر اور کسی آیت کے معنی اور مطلب بیان کرنے میں رسول اللہ عَلِیٰ کی تفسیر پر چنان ضروری نہیں ہے اور نہ صحابہ کا اجماع لازمی ہے۔

(۵)..... کبھی کسی نبی سے خارق عادت مجھوہ ظاہر نہیں ہوا اور جن مigrations کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ اس سے ظاہری بمعنی مراد نہیں ہیں۔ جیسا کہ آج تک مسلمان سمجھتے رہے ہیں بلکہ ان سے مرزا کے بیان کردہ تاویلی مقتضی مراد ہیں۔

(۶)..... عیسیٰ عَلِیٰ زندہ نہیں ہیں اور وہ دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے اور نہ مهدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ جن آیات یا حدیثوں سے حیات سچ اور ظہور مهدی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ قابل اعتبار نہیں کیونکہ مرزا کے بیان کردہ معنی کے خلاف ہیں۔

(۷)..... عیسیٰ عَلِیٰ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت مریم کا نکاح سے پہلے ناجائز تعلق یوسف نجار کے

ساتھ ہو گیا تھا۔ جس سے حضرت عیسیٰ ﷺ کی پیدائش ہوئی۔ (اخت اللہ علیہم)

(۸) یاجونج ماجونج، دجال، دلبۃ الارض وغیرہ کا مطلب جو رسول خدا ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔ صحیح نہیں۔ کیونکہ حضور کو ان چیزوں کی صحیح اطلاع نہیں دی گئی اس کے حقیقی معنی مرزا کو بتائے گئے ہیں۔ یہ تمام عقیدے لا ہوری اور قادریانی جماعت میں مشترک ہیں۔ یہی وہ اسلام ہے جس کو ان کی تبلیغی مشنریاں یورپ وامریکہ میں میں پیش کرتے ہیں جن پر ان کو بڑا ناز ہے۔ اور ہمارے فریب خود رہ ناواقف مسلمان بھائی ان کی کوششوں کو بنظر احسان دیکھتے ہیں۔ ان عقائد باطلہ کے علاوہ قادریانی جماعت کو ختم نبوت سے بھی انکار ہے اور آج بھی نبوت غیر تشریعی کا دروازہ مفتوح رکھتے ہیں۔ یعنی مویٰ ﷺ کے بعد آنے والے نبیوں کی طرح اس امت میں بھی نبیوں کا آتے رہنا مانتے ہیں۔

تمام دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ بروے قرآن و حدیث ہر زمانہ میں ان چیزوں کے متعلق یہ رہا ہے۔
(۱) فرشتے خدا کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی۔ نہ ان میں کوئی ذکر ہے اور نہ موٹھ اور نہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ زمین پر آتے جاتے ہیں کبھی انسانی شکل میں انبیاء علیہم السلام کے پاس آتے رہے اور کبھی اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے۔ خدا کی نافرمانی اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں۔
(۲) جہاد کرنا اسلام کی عزت اور وقار کے لیے ضروری ہے۔ دین اسلام کی حمایت میں کث مرنا قرب الہی کا بڑا درجہ ہے۔

(۳) قرآن مجید کی تفسیر میں نبی عربی ﷺ کی تحقیق اور صحابہ کرام کی اتباع کو چھوڑ کر اپنی رائے کو دخل دینا کفر ہے اور اسی پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔
(۴) انبیاء علیہم السلام سے بہت سی خارق عادت باتیں ظاہر ہوئیں اور ان میں سے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان سے وہی معنی مراد ہیں جو قرآن کے ظاہری الفاظ سے سمجھے جا رہے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر دوسرے معنی اپنی طرف سے گھٹنے کفر ہیں۔

(۵) عیسیٰ ﷺ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور آخری زمانہ میں زمین پر اتریں گے قرآن شریف اور صد بھائیوں سے ایسا ہی ثابت ہے اور اسی پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (نقہ صاحب الیوقیت والجواہر ج ۲ ص ۳۲)
(۶) عیسیٰ ﷺ قدرت الہی سے بغیر بآپ کے پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ عفیفہ اور پاکدامن تھیں۔ ان پر زنا کی تہمت لگانے والا بروے قرآن شریف کافر ہے۔
(۷) یاجونج ماجونج، دجال، خردجال، دلبۃ الارض اور اسی طرح کی دوسری قیامت کی نشانیاں اپنی حقیقت پر محمول ہیں اور ان سے وہی مراد ہے جو رسالت پناہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے خلاف کہنہ والا یقینی اور قطعی طور پر جھبھنی ہے۔

(۸) آنحضرت ﷺ پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور ایسا ہی قرآن اور حدیث سے ظاہر ہے۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی شخص تشریعی یا غیر تشریعی نبی بن کر نہیں آئے گا اور جو ایسا عقیدہ رکھے گا۔ وہ یقیناً ملحد اور بد دین ہے لیکن پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کی موجودگی ختم نبوت کے منانی نہیں ہے کیونکہ اس سے عطا نبوت کے سلسلہ کو بند کرنا مراد ہے۔ نبوت سابقہ کا چھین لیتا مراد نہیں۔ ورنہ اس کا نام سلب نبوت ہو گا۔ ختم نبوت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بھی معنی ختم نبوت نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز تمام انبیاء نبوت کے ساتھ متصف ہوں

کے۔ مگر اس سے حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

مرزاںی صاحب اخواہ لاہوری ہوں یا قادریانی جن عقائد و دینیہ میں وہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر آج وہ ایسے عقیدوں کی اصلاح نبی کریم ﷺ کی احتجاج اور صحابہ کے طریق عمل میں حلش کریں اور رسول خدا ﷺ کی غلامی اور ان کی تعلیم و تربیت میں میں نجات کو منحصر جانیں تو دنیا کا ہرچا مسلمان ان کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر وہ رسالت پناہ ﷺ کی ہدایات اور آپ ﷺ کے بیان کردہ معانی اور تصریحات کے خلاف اپنی طرف سے کوئی معنی اور مطلب گھر کر اس کا نام اسلام رکھ لیں تو مسلمان ایسے ملحد اور بد دین جماعت کو قرآنی فیصلے کی وجہ سے مردود اور کافر کہنے پر مجبور ہیں۔

کیونکہ اگر نقوص فلکیہ اور کو اکب کا نام فرشتوں رکھ لیا گیا تو اس سے فرشتوں کے وجود کا اقرار نہیں سمجھا جا سکتا اور اگر سیاروں کی تاثیرات کو نزول طائق سے تعبیر کیا گیا تو اس سے فرشتوں کی زمین پر آمد و رفت کا اقرار نہیں کہہ سکتے۔ طائق کے وجود اور ان کے نزول و صعود کا اقرار اسی وقت صحیح ہو گا جبکہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے موافق اس کو تعلیم کر لیا گیا۔ ورنہ ان کا یہ فعل شریعت محمدی کی مخالفت اور دینِ الہی کے منع و تبدیل کرنے پر مجموع ہو گا۔ یہی طرح مجھہ کا اقرار اسی صورت میں مانا جائے گا جبکہ خارق عادت امور کا ظہور تسلیم کر لیا گیا اور عصاء موسوی کا اثر دہا بن جانا احیاء موتی اور شتن القمر وغیرہ مجھوں کو ایسے معنی پر اتنا را گیا جو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ سے ثابت ہیں۔ ورنہ اگر قحط سالی اور زلزلہ وغیرہ حادثات دنیوی میں مجھہ کو منحصر سمجھا گیا اور خارق عادت امور کے ذوق سے انکار کر کے قرآن کریم کی تکذیب کی گئی تو اس حالت میں کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح آیات قرآنیہ کی تفسیر میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کی تحقیق پر نہ چلتا جہنم میں داخل یہ بغیر نہیں چھوڑتا، کیونکہ اسلام اور ایمان دینی ہے جو رسول خدا ﷺ نے بیان فرمایا اور صحابہ نے اس کو اختیار کیا۔ لہذا اگر آج کوئی شخص حقایق دینیہ اور آیات قرآنیہ کے معانی اور مطالب صحابہ کی تحقیقات کے موافق تعلیم کرتا ہے تو ایسا ایمان اور اسلام بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور اگر کوئی ان کی تشریع اور تحقیق کے خلاف دوسرے معنی بیان کرے تو ایسا آدی یقیناً جہنمی اور کافر ہے۔ جیسا کہ قرآن کی اس آیت سے ظاہر ہے فَإِنْ أَنْتُوا بِمِيقَلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدَنَا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ (ابقرۃ ۱۳۷) اس آیت میں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لا سکیں۔ یعنی جن چیزوں کو جس طرح تم مانتے ہو۔ اسی طرح وہ بھی مانیں تو وہ ہدایت پر ہیں اور اگر وہ تمہاری طرح ایمان نہ لاسکیں اور اس سے اعراض کریں تو پھر وہ اختلاف اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ یہ ارشاد ہوا ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّوْمَوْلَ مِنْ نَفْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبَعَّ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَمَصِيرًا (النام ۱۱۵) ”جو شخص حق ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مونوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ عمل کا تجویز کرے۔ ہم اس کو حق سے ہٹا کر جہنم میں جوونک دیں گے۔“ ظاہر ہے کہ اس آیت میں مونین سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ انہی کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ باقی سب گمراہی ہے۔

سورہ توبہ میں ہے۔ وَالشَّاَقُونَ الْأُولُونَ بَنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِالْخَسَابِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (توبہ ۱۰۰) تکی کی طرف دوئے والے مهاجرین اور انصار اور ان کی کچی ابجع کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔

ایک آیت میں یوں آیا ہے۔ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَهَا يَرُوُا وَجَاهَلُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ أَوْنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا (انفال ۲۷) یعنی مهاجرین اور انصار ہی پچے مومن ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور خدا کے رسول کو مجھہ دی اور ان کی ہر طرح مدفر میں معلوم ہوا کہ صحابی اور حقانیت اسی راستے میں محصر ہے۔ جس کو صحابہ اور ان کے تبعین نے اختیار کیا۔ اس لیے اس کو چھوڑنے والا قطعی طور پر جہنمی اور کافر ہے۔ مرتضیٰ جماعت نے فرشتوں، دجال، خرد جمال، یاجوج ماجوج وغیرہ عقائد کے جومعی بیان کیے ہیں۔ اگر اس کا ثبوت صحابہ کی تحقیقات سے پیش کر دیں اور تقلیلیات میں تفسیر بالائے کا جواز قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں تو ہم بھی یہی کیش و ملت اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایک صدر و پیغمبر انعام اس کے علاوہ ہے۔ اور اگر وہ اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں اور یقیناً نہ کر سکیں گے تو پھر قطعی مسلمان نہیں اور عقائد بالطلہ سے توبہ کریں یا مسلمانی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں اور اپنی منافقانہ چالوں سے مسلمانوں کو دوکھ نہ دیں۔ ورنہ مختصر حقیقی کے غصہ اور غصب سے ڈرتے رہیں۔ جس کے بھاں دیر ہے مگر انہیں پر نہیں۔

ربا یہ شہر کے اہل قبلہ کی عکیف شرعاً ممنوع اور ناجائز فعل ہے اور ہر کلمہ کو کو مسلمان جانتا ضروری ہے۔ اس کے متعلق اس قدر عرض کر دیا کافی ہے کہ جس حدیث کی وجہ سے یہ شہر بیدا ہوا ہے۔ اس کے یہ الفاظ ہیں۔

عَنْ أَبِنِ عُمَرْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمْرَأَ أَنَّ الْأَبْلَى النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوْةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنْ دَمَاءِ هُمْ وَأَمُوْلَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ . (باب قان تابودا قام المصلوة الخخاری بح اصل ۸)

جو شخص کلمہ شہادت زبان پر جاری کرے نمازیں پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا اور وہ مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان سمجھا جائے گا۔ البتہ اگر اسلام اس کے قتل کا فیصلہ کرے تو وہ اس مزا کا مستحق ہو گا اس حدیث میں الائچن اسلام کی تصریح تاریخی ہے کہ اہل قبلہ ہونا مسلمان ہونے کے لیے قطعی اور یقینی فیصلہ نہیں ہے۔ اس سے اس کی مسلمانی پر اسی وقت استدلال کیا جائے گا۔ جبکہ دوسرے حالات اس کے کفر پر صراحتاً دلالت نہ کریں اور اگر اس کا کافر ہونا قطعی طور پر معلوم ہو جائے تو پھر اس پر کافر ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے پہلے ثابت ہو چکا ہے اور اس حدیث میں الائچن اسلام کے ساتھ استثناء کرنے کا بھی نہیں ہتا ہے۔ اگر مسلمانی ایک مرتبہ ظاہر ہونے کے بعد کسی عقیدے کی اکار یا مخالفت سے شائع ہونے والی چیز نہیں ہے تو استثناء کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت نے زکوٰۃ کی فرضیت سے الکار کیا اور ابو بکر صدیقؓ نے ان کو مرتد قرار دیتے ہوئے ان سے جہاد کی تیاری فرمائی تو حضرت عمرؓ نے روكا اور ان کو کلمہ گواہ اہل قبلہ سمجھتے ہوئے۔ اس امر سے مانع ہوئے لیکن جب حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس حدیث کے آخری الفاظوں کی طرف توجہ دلائی تو فوراً انہوں نے تسلیم کر لیا اور صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے پر متفق ہو گئے اور اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کسی فرض کی فرضیت سے الکار

گرنے پر ایک مسلمان باجماع صحابہؐ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل قبلہ ہوتا گلمہ شہادت زبان پر جاری کرنا، مسلمان ہونا، یہ سب شریعت اسلامیہ کے تسلیم کر لینے کے عنوانات ہیں۔ اس قسم کی حدیثوں کا یہ نشوائے ہر گز نہیں کہ ایک آدمی مسلمانوں کا ذیجہ کھا لینے یا گلمہ شہادت زبان پر جاری کرنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور آئندہ اسے جنت، دوزخ، قیامت یا شریعت کی دوسری تصریحات پر اجمالی یا تفصیلی ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو منافقین زبان سے گلمہ جاری کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ کبھی دائرۃ اللہ عاصمہ اسلام سے خارج نہ سمجھے جاتے اور نہ صحابہؐ محض زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والوں سے جہاد کرتے اور کبھی مرزاًی جماعت عدم کفیر کے ثبوت میں یہ آیت پیش کیا کرتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ الْقَوْمُ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَمَّا تَمَّ مُؤْمِنًا (النَّاسَ ۹۳) جو شخص تم سے سلام علیکم کہہ کر اپنی مسلمانی ظاہر کرتا ہے۔ تم اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر مرزاًی صاحبان دینات سے کام لے کر اس آیت کے پہلے الفاظ کو دیکھ لیتے تو ان کو اس سے استدلال کرنے کی کبھی جرأت نہ ہوتی کیونکہ اس تمام آیت کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ جس کا کفر مشتبہ ہو اور ظاہری علامات سے اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہوتا ہو تو اس کو کافر کہنا ہرگز جائز نہیں۔ اس سے یہ کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا صاف طور پر انکار کرے۔ وہ بھی کافر نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس آیت کے پورے الفاظ یہ ہیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ الْقَوْمُ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَمَّا تَمَّ مُؤْمِنًا (النَّاسَ ۹۳) یعنی اے مسلمانو! جب تم جہاد کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلو اور کوئی آدمی تھیس ملے تو پہلے اس کے مسلمان یا کافر ہونے کی پوری تحقیق کر لو اگر وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا ہو تو محض ناواقفیت یا شہمی کی وجہ سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔

مرزاًی صاحبان لَا تَقُولُوا لِمَنِ الْقَوْمُ کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ادا فَعَبَّينُوا پر نظر نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ مذکورہ بالا آیات کو سامنے رکھنے والا انسان اسی نتیجہ پر پہنچ گا جو ہم نے بیان کیا ہے اور علماء کے اس قول کا بھی بھی مطلب ہے۔ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی شخص کے کلام میں ننانوے اختلالات کفر کے اور اسی کلام سے ایک وجہ اس کے ایمان کی ظاہر ہوتی ہو تو اس کو کافر نہ کہیں کسی کو محض شبہ کی وجہ سے کافر نہ کہو جب تک اس کی طرف سے کفر کا صاف طور پر اقرار نہ پایا جائے۔ مرزاًی عام طور پر یہ شبہ بھی ظاہر کیا کرتے ہیں۔

کہ اس زمانہ میں ہر فریق اپنے مخالف کو کافر کہتا ہے تو اس صورت میں سب کافر ہوئے۔ مسلمان کوئی بھی نہ رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن الزامات کے ماتحت ایک فریق دوسرے فریق پر کفر کے فتوے لگاتا ہے فریق مخالف اس سے قطعاً اپنی بے زاری کا اعلان کرتا ہوا صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ اگر میری کسی عبارت سے ایسا مطلب سمجھا گیا ہے جیسا کہ تم بیان کرتے ہو تو میری اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ میں ان باتوں کو ضرور کفر تسلیم کرتا ہوں جو تم نے الزامات میں بیان کی ہیں۔ لیکن میں ان کفریہ باتوں سے بیزار ہوں اور میری اس عبارت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس کا فلاں فلاں مطلب ہے جس سے کفر ثابت نہیں ہوتا لیکن مرزاً اور اس کے قبیل ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہم مجرمات کو اس رنگ میں ہرگز نہیں مانتے جس طرح دوسرے مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ احیاء موتی اور شقاق وغیرہ خارق العادات مجرموں سے وہ مراد نہیں ہے جو نصوص کے ظاہر سے بھجھ میں آ رہی ہے اور جس پر صحابہؐ اور ان کے بعد کے آئے والے ایجاد آج تک ایمان رکھتے ہیں بلکہ ان

مجزوجوں سے فلاں فلاں روحانی باتیں مراد ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یوں نہیں ہے جیسا کہ عام مفسرین لکھ رہے ہیں باوجودیکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ معنی جو مرتضائی بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کی تحقیقات کے بالکل خلاف ہیں مگر وہ ان باتوں کی ہرگز پروپاگنیز کرتے۔ اسی طرح فرشتوں سے نفوس فلکیہ اور کواکب مراد لیتے ہیں اور اس طرح نہیں مانتے۔ جس طرح آج تک مسلمان مانتے چلے آئے ہیں۔ ایسا ہی جن آئندوں سے صحابہ کرام نے حیاتِ مسیح کو ثابت کیا ہے۔ مرتضائی انہی سے توڑ مروڑ کر حضرت عیسیٰ ﷺ کی وفات نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کفر یہ شاید سے انکار نہ ہوا بلکہ ان کو تسلیم کر لیا گیا اور اتزام کفر کفر ہے۔ لزوم کفر کفر نہیں ہے۔ یعنی کفر کے الامات سے اپنی پیزاری ظاہر کرنے والا کافر نہیں سمجھا جاتا اور ان الامات کو تسلیم کرتے ہوئے تاویلات رکیکہ کی آڑ لے کر اپنے کفر کو چھپانے والا قطعاً کافر ہے۔ جب تک اس کے تمام عقیدے صحابہؓ کے عقیدوں کے موافق نہیں ہوں گے اور وہ ان کو اسی رنگ میں تسلیم نہیں کرے گا۔ جس رنگ میں سلف صالحین بیان کرتے چلے آئے ہیں تو وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اس موقعہ پر مسئلے کی تحقیقات کرنے کی وجہ سے کلام میں طوالت پیدا ہو گئی ہے۔ مگر اس طوالت کے بغیر اصل حقیقت ظاہر ہونی بہت مشکل تھی۔ اس لیے اہمیت ہے کہ قارئین کرام خاکسار کو اس سمع خراشی میں محفوظ رکھتے ہوئے دعاء خیر سے نہ بھولیں گے۔ آخر میں اسکی اسلامی جرائد اور نہادی در در رکھتے والے حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس رسالہ کی اشاعت میں پورا حصہ لیں۔ اور مرتضائی جماعت کے زیر یہی اثرات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھتے کے لیے اس کو چھپوا کر ہر طبقہ کے مسلمانوں میں منت تقسیم کریں۔ والسلام واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين۔

محمد مسلم عثمانی دیوبندی



لَا يَرْجِعُ الْمُتَبَيِّنُاتُ إِلَىٰ بَعْدِ عَزْلِهِ

التحفة القادرية عن اسئلة المرزائيه

صاحبزاده مفتى عبد القادر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما هو اهله والصلوة والسلام على من قال الله تعالى في شأنه خاتم النبيين و على الله واصحابه الطاهرين وعلى ابي حنيفة واصحابه من الصلحين الى يوم الدين وقل جاء الحق وَزَفَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اما بعد پس فرقہ مرزا یسے نے اٹھارہ سوالات کیم جنووی ۱۹۱۸ء کو جنوان (مسلمانان لاہور کی خدمت میں ضروری التنس) بذریعہ اشہار کے شائع کیے۔ سوالات میں اگرچہ بظاہر مولوی محمد حسین صاحب بیالوی وغیرہ کو مخاطب تھے رایا ہوا ہے لیکن اصلی مدعانا واقفون کو ایسے ریک سوالات سن کر تھے ٹنالات میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ اسی غرض پر عنوان اشہار واضح دلالت کرتا ہے۔ سوالات کی تخلیط بغرض اصلاح تحریر کی جاتی ہے۔ اگرچہ ایسے سوالات کے جواب کئی دفعہ تحریر ہو چکے ہیں لیکن اب پھر اس ضرورت کی وجہ سے دوبارہ تحریر کیا جاتا ہے الحق کو خداوند کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ سوال کا عنوان لفظ مرزا ای سے ہو گا اور جواب کی ابتداء لفظ ختنی سے ہو گا۔

مرزا نمبرا ۲..... محمد حسین بیالوی کا وعظ مہدی الظہر پر ہے۔ اس لیے مولوی صاحب جواب دیں کہ آیا اپنی کسی تحریر میں مہدی کے متعلق کل احادیث کو مجروح قرار دے چکے ہیں یا نہیں اخ۔

ختنی نمبرا ۲..... امام مہدی کے پارہ میں جو (معروف) احادیث وارد ہیں وہ سب صحیح ہیں سلف صالحین کا اتفاق ان کی صحت کے لیے دلیل واضح و برہان قاطع کافی ہے۔ کیونکہ: سورات استقبالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسالم نے بذریعہ وحی الہی کے فرمائے ہیں اور وہی مجروح نہیں ہو سکتی۔ مولوی محمد حسین صاحب شادحد حدیث شریف کے نہیں ہیں۔ شادحد کے لیے اسماء رجال کامل طور پر ہونا چاہیے۔ اگر مولوی محمد حسین ایسے احادیث صحیح کو مجروح کہہ دیں تو ان کے کہنے کا کچھ اعتبار نہیں بلکہ جرح و تعدیل میں معدل و جارح راوی کا ہمصر ہونا ضروری ہے۔ ایسے موقع میں علمائے سلف کا متفق علیہ قول ہونا چاہیے۔ اب تک کسی عالم راجح سے ان احادیث کی جرح متنقول نہیں ہوئی، شاید مولوی محمد حسین صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا ہو گا یا ان کو روایت توغیرہ میں شک پیدا ہوا ہو گا۔ علمائے دین کے اتفاق و نقیل مشہور و متواتر کو ملاحظہ نہ رکھا ہو گا ورنہ ہرگز ضعیف نہ کہتے بلکہ واضح و احسن پر قول کرتے دیکھو حدیث شریف میں بقل معرف وارو ہے کیف تھلک امة انا اولها والمهدی وسطها والمسیح اخترها ولكن ہین ذلک فیج اعوج لیسوا منی ولا انا منهم (مکملة شریف ص ۵۸۳ باب ثواب نہدہ الامۃ) اس حدیث سے مہدی الظہر کا ثبوت اظہر واثق ہے۔ اس حدیث شریف میں لفظ صحیح کو مہدی پر عطف کیا ہے۔ یہ قاعدة کلیہ ہے کہ معطوف اور معطوف عليه آپس میں مفارک ہوتے ہیں۔ ایک حکم میں جمع ہونے کی وجہ سے عطف کیا جاتا ہے جیسے ذہب زید و عمر بالذات مفارک ہیں۔ ذہب میں جمع ہونے کی وجہ سے عطف کیا

گیا ہے عطف میں تغیر ضروری ہے۔ جب تغیر ثابت ہوا تو اتحاد کہاں رہا۔ اس سے سوال ٹانی کا جواب بھی ظاہر ہوا۔ اس صورت میں مطابق نص کے موقع ہو گا پہلے نبی کریم ﷺ تشریف فرمائے وسط میں مهدی ﷺ اخیر میں عیسیٰ ﷺ ہوں گے۔ چنانچہ بعض کے زد دیک معطوف علیہ معطوف بالواد میں ترتیب ہونی چاہیے۔

مرزاں نمبر ۳..... حضرت عیسیٰ پر بعد از نزول وہ آئے گی یا نہ، اگر وہ آئے تو ختم نبوت باطل ہے ورنہ عیسیٰ نبوت سے معزول ثابت ہوں گے۔

حجت نمبر ۳..... سائل کی مراد اگر نبوت سے تبلیغ احکام الہی و اجراء شریعت منزلہ ہو تو اس صورت میں قابل عزل ہوتا ظاہر ہے کیونکہ جمیع انبیاء علیہم السلام کے شرائع فرعی کیے بعد دیگرے منسون ہو چکے ہیں کیونکہ یہ زمانہ عمل بالقرآن کا ہے اگر جمیع انبیاء علیہم السلام آدم ﷺ سے عیسیٰ ﷺ تک سب زندہ حیات ظاہری جسمانی کے ہوتے سب نبی کریم ﷺ کی شریعت پر عمل کرتے۔ اپنے شرائع پر بعد از نزول قرآن عمل ہرگز نہ کرتے۔ اس پر بہت سے احادیث دال ہیں عن جابرؓ عن النبی ﷺ حین اناہ عمرؓ فقال أنا نسمع أحاديث من يهود يعجبنا التری ان نكتب بعضها فقال امتهوکون انتم كما تهوك اليهود و النصاری لقد جنتكم بها بیضاء نقیة ولو کان موسی حجا ماوسعه الا ایتاعی (البیهقی فی شب الایمان رح اس حدیث نمبر ۴۰۰ حدیث نمبر ۴۷۱ باب فی الایمان بالقرآن و سائر الکتب) ”یعنی حضرت جابرؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں جبکہ نبی ﷺ کے پاس عزمؓ اے اور عرض کی کہ ہم یہود سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو ہم کو اچھی اور عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ کیا آپ ﷺ کی رائے ہے کہ ان کو لکھ لیا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم کو بھی یہود و نصاری کی طرح اپنے دین میں حیرانی و تردد ہے۔ اللہ کی قسم تحقیق تھمارے واسطے شریعت روشن سفید و صاف لایا ہوا ہوں اگر موسیٰ ﷺ زندہ ہوئے تو وہ بھی میری شریعت کی تابعداری کرتے۔“ اسی مضمون کی دوسری حدیث مکملہ شریف ص ۳۰ باب الاعتراض بالكتاب والسنۃ میں داری سے نقل شدہ صفحہ ۳۲ مطبوعہ مجتبائی میں مذکور ہے ہبتوت عزل باعتبار تبلیغ احکام کا حال ظاہر ہے۔ اگر نبوت سے مراد قرب و قبولیت کا درجہ ہو جس کی وجہ سے تبلیغ احکام ظاہری پر مامور کر دیا گیا تھا وہ قرب ازلی ابدی ہے وہ قابل تغیر کے ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اس وجہ سے تبلیغ سے پہلے انبیاء علیہم السلام معصوم اور قرب الہی سے مشرف ہوتے ہیں۔ یہ قرب جسم غیری سے پہلے تھا اس کے ثبوت کے لیے کتنی ہزار احادیث موجود ہیں۔ اس سوال کا جواب اظہر من الفس ہے۔ دراصل سوال وارد ہی نہیں ہوتا۔ محض لا علمی کی وجہ سے غیر وارد کو وارد قرار دیا گیا ہے۔ نعوذ بالله من ذلک۔ شاید سائل نے عام الناس کے عزل پر انبیاء علیہم السلام کو قیاس کیا ہے۔ یہ قیاس مع الفارق قابل توجہ ہرگز نہیں ہے۔ مولا ناروم نے فرمایا ہے۔ کار پا کاں را قیاس از خود مکبر۔ گرچہ ماند روشن شیر و شیر۔ عام الناس کے لیے کفر و اسلام دونوں عارض ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام عصیان سے پاک ہیں۔ اس کی تفصیل کتب عقائد میں بالتفصیل مذکور ہے۔ من شاء فلیرجع اليها۔

مرزاں نمبر ۴..... نبی ﷺ نے اگر شریعت کی تحریک کردی ہے۔ پھر عیسیٰ ﷺ کے نزول کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تحریک نہیں کی تو نبی ﷺ کامل نہ ہوئے۔

حجت نمبر ۴..... نزول عیسیٰ اس وجہ سے ہو گا کہ نبی ﷺ جمیع انبیاء کے سردار و سرتاج ہیں۔ زمانہ عیسیٰ کا نبی ﷺ کے قریب تھا ایسے مظہم کا ساتھا ایسے سردار کے لائق تھا اس غرض سے آپ کو اٹھالیا گیا پھر اخیر زمانہ میں نزول ہو کر علی الدوام مرفاقت، مصاحبۃ حاصل ہوگی۔ عیسیٰ اتر کر شادی کریں گے اولاد پیدا ہوگی پھر فوت ہوں

گے روپہ مطہرہ میں قرب علی الدوام حاصل ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے یہ نزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمساً و اربعین سنۃ ثم یموت فید لدن معنی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر (مشکوہ المصایب ص ۲۸۰ باب نزول عیسیٰ ﷺ) یعنی عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے زمین کی طرف پھر نکاح کریں گے ان کی اولاد پیدا ہوگی پیش تالیس برس پھر کر پھر فوت ہوں گے۔ میرے مقبرے میں دفن ہوں گے۔ ہم اور وہ ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے۔ ایک طرف حضرت ابی بکر صدیقؓ اور دوسرا طرف حضرت عمرؓ ہوں گے۔ اس جگہ ابی تھجیل ہے اس کو محبت قربت کہتے ہیں۔ دین اسلام کامل ہو چکا ہے امام و نواہی ہرگز نہیں بدلتیں گے۔ احکام کی تبدیلی کی ویشی باعتبار تھجیل و تنقیص کے ہوا کرتی ہے یہ بات ہرگز نہ ہوگی۔ اس رفع و نزول کا بعض بیان ضروری آئندہ جوابات میں آجائے گا۔

مرزاں نمبر ۵..... جب عیسیٰ دین عیسیٰ کا کوئی کام نہ کریں گے بلکہ مجدد دین محمدی ہوں گے۔ پس دیگر اشخاص کو کیوں مجدد نہ کہا جائے اخ۔

حقیقی نمبر ۵..... ہر صدی میں ضرور مجدد ہوا کرتا ہے لیکن وہ دین اسلام کا مخالف نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کا کام تجدید سنت ہوتا ہے۔ احکام متروکہ کو قرون سالقو کے مطابق کر دیا کرتا ہے اس کا کام نئی نماز، نئے احکام، نیا کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا۔ ابو داؤد میں ہے۔ عنہ فيما اعلم عن رسول اللہ ﷺ قال ان الله عزوجل يبعث لهذه الأمة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (رواہ ابو داؤد ح ۲۲ ص ۱۲۲ کتاب الملاحم باب ما يكره في قدر الماء) اسے بین السنۃ عن البدعة و يکثّر العلم ويعلّم اهله و يقع البدعة و يكسر اهلها هکذا فی المرقات۔ مجدد کا کام علم دین کو زیادہ کر دینا اور اہل علم کی عزت کرنا بدعت کو ہٹا دینا ہوتا ہے اس کا کام دین اسلام کے مخالف دین قائم کرنا نہیں ہوتا۔ یہ مرزا قادریانی جس کو کتابیہ صحن سوال میں مجدد مانا گیا ہے وہ شریعت اسلام سے بالکل مخالف و مخترف تھا۔ نبوت کامیگی، نئے احکام دین، اسلام کے مخالف قائم کرتا رہا۔ وہ مجدد ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ منہ دین تھا اس کا لقب مفسد الماء الحاضرہ ہونا مناسب ہے۔

مرزاں نمبر ۶..... نبی ﷺ کی قوت قدی نے بڑے بڑے اشخاص پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کا اتنا عروج ہوا ہے کیا ایسے شخص نہیں پیدا کر سکتے جو عیسیٰ کی طرح کام کریں۔

حقیقی نمبر ۶..... اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خالق کہنا کفر اور شرک ہے۔ اس سوال میں نبی ﷺ کی قوت قدیسی کو خالق مان لیا گیا ہے۔ یہ سارا شہرہ لاعلی اور جہالت کا ہے ایسے عقائد سے توبہ کر کے طریقہ الہست و جماعت پکڑنا چاہیے ورنہ ایسے مصرح کفر کا ارتکاب ہوتا رہا کرے گا۔ جمیع اعیان و اعراض کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر قرآن شریف و حدیث دال ہے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

مرزاں نمبر ۷..... خیر الامم کی یہ چک صریحانہیں کہ وہ ایک کام نہ کر سکے اس کام کے واسطے دوسرا نی بلا یا جائے۔

حقیقی نمبر ۷..... امر بالعكس ہے یہ شخص موجب اعزاز امت ہے کہ ایک بڑا ذا الفضل رسول اکرم سرور عالم کی شریعت کی پیروی کرے اور بڑی محبت سے ان کے اطہر گنبد مبارک میں مقبرہ مطہرہ میں دفن ہو جائیں۔ یہ سب فرحت و سرور کا ہے۔ ہنک کا اس میں کچھ شائیہ و راجح نہیں ہے موجب عزت و فخر کو سب ذات سمجھنا کم فہمی و کچھ عقلی ہے۔ اللهم سلمنا من موجبات النہلہ والتأسف۔

مرزاں نمبر ۸ کیا عقیدہ ختم نبوت کے بالمقابل جو حکمات قرآنی و حدیثی پر منی ہے ضروری نہیں کہ ایک پیش گوئی کی جو مشابہات سے تاویل کی جائے۔

خنفی نمبر ۸ تشاہر نہایت خنفی کو کہتے ہیں۔ خنفی کے چار اقسام میں سے زیادہ خنفی بھی ہوتا ہے کیونکہ باقی حکمیات کی توضیح تالیں سے یا جانب حکم سے ہو جایا کرتی ہے اور تشاہر میں توضیح کی کسی قسم کی امید نہیں ہوتی اور حکم ظواہر میں ابھی ہے اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا وہ قابل تبلیغ کے ہر گز نہیں ہوتا۔ تاویل مشترک میں جاری ہوتی ہے۔ مشترک سے ایک مخفی باعتبار غالب الرأی کے لینے کو م Howell و تاویل کہتے ہیں نہ تشاہر میں تاویل ہو سکتی ہے اور نہ حکم کو م Howell کر سکتے ہیں ہر ایک اپنے محل میں ثابت رہے گا۔ سائل کو سوال کا طریقہ نہیں آتا ورنہ یہ خط عشوایہ کیوں کرتا۔

مرزاں نمبر ۹ عیسیٰ کو قبل از بعثت رسول اللہ ﷺ کتاب و حکمت سکھائی پس نبی ﷺ ان کے معلم و مرکی نہ ہوئے۔

خنفی نمبر ۹ بظاہر جمیع انبیاء کی رسالت و بعثت باعتبار اجسام عصری کے نبی ﷺ سے مقدم واقع ہے اس مسئلہ کو عیسیٰ کے ساتھ خاص کرنا لغو ہے۔ آپ ﷺ کو جو معلم و مرکی جمیع انبیاء و مرسیین تسلیم کیا گیا ہے وہ باعتبار عالم ارواح کے ہے۔ بعجم عصری آپ ﷺ سب سے موخر ہیں تبلیغ آپ ﷺ کی جو جمیع انبیاء سے مقدم ثابت ہے وہ باعتبار ارواح کے ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا ہے انی عند الله في ام الكتاب خاتم النبيين و ان آدم لم يتجدد في طينته (کنز العمال ج ۱ ص ۳۶۹ - ۳۷۰ حدیث ۳۲۱۱۳) و فی روایة بین الروح والجسد (کنز العمال ج ۱ ص ۴۰۹ حدیث ۳۱۹۱۷) لانہ خلق روحہ المطہر ﷺ قبل الموجودات ثم بعث الى ارواح المکلفین بعد خلقها فبلغ اليہم الحقيقة الاحدیۃ فامن به من هو اهله ثم ظهر لهم الایمان بعد خلق ابدالهم وفيه الشارة الى ان سائر الانبیاء علیہم السلام لم يكونوا انبیاء قبل ابدالهم العصریۃ ”نبی ﷺ نے فرمایا ہے اس سے پہلے میں نبی تھا اور آدم پانی پھر میں تھا یا روح اور جسد میں تھا یا اس وجہ سے کہ آپ ﷺ کا روح پاک جمیع کائنات سے پہلے پیدا کیا گیا پھر مکلفین کے ارواح کی طرف مبوث ہوئے جس وقت کہ ارواح پیدا کیے گئے۔ جمیع ارواح کو توحید اور ایمان کی تبلیغ کی پھر جو لاائق ایمان تھا وہ ایمان لایا پھر خلق ابدان کے بعد وہ عالم ارواح والا ایمان ظاہر ہوا جو اس وقت ایمان لایا تھا وہ یہاں بھی مشرف بالایمان ہوا جو وہاں محروم رہا یہاں بھی محروم رہے گا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ نبی ﷺ جمیع ارواح کے معلم و مرکی ہیں یہ تذکیرہ وغیرہ عالم ارواح میں تھا۔ بعجم عصری اگرچہ سب سے موخر ہیں لیکن فیض و تبلیغ آپ ﷺ کی قبل از جسم عصری و بعدہ یہاں ہے جمیع انبیاء علیہم السلام آپ ﷺ کی امت ہیں کیونکہ مبلغ من جانب اللہ کو نبی کہتے ہیں اور مبلغ الیہ کو امت کہتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شعر نمبر ۵۳ تا ۵۵ میں ہے۔ وکل ای اتنی الرسل الکرام بھا، فانما التصلت من نورہ بهم، فانہ شمس فضل هم کو اکبھا، یظہر انوارہا للناس فی الظلم، فمبلغ العلم فیہ انه بشر، وانہ خیر خلق اللہ کا اہم ”جو آیات انبیاء علیہم السلام لائے ہیں وہ سب نبی ﷺ کے نور سے ان کو ملا ہے۔ نبی کریم ﷺ آفتاب فضیلت ہیں دیگر انبیاء فضل کے سارے ہیں اپنا نور لوگوں کو تاریکی میں ظاہر کرتے ہیں۔ درس علم نبی ﷺ کی شان میں اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ بشر ہیں اور جمیع کائنات سے بہتر ہیں۔“ اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ انبیاء علیہم السلام کو پہنچا ہے وہ نبی ﷺ کے نور سے پہنچا ہے۔

مرزاں نمبر ۱۰..... مولوی ظفر علی خاں نے مجدد والی حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب و حضرت مجدد الف ثانی نے بذریعہ الہام مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اب اس وقت مجدد کوں ہے۔

حقیقی نمبر ۱۱..... اس زمانہ میں مجدد وہ شخص ہے جو شریعت محمدی کا نہایت مقیح ہوا حکام شریعت غرّاً کو کماحتہ جاری کرتا ہو۔ شریعت سے پوری طرح واقف ہو، مجدد ہونے کا دعویٰ کرنا مجدد کے ذمہ ضروری نہیں ہے اور نہ یہ شرط کہیں لکھی ہے البتہ جو سراسر اسلام کا مخالف ہوا س کو مسدودین ضرور کہا جائے گا۔ یہ لقب مذمومہ اس کا باداہتہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ اس فساد کی وجہ سے مستوجب لعن فی الدین ہو گا اور آخرت میں عذاب سرمدی اس کے لیے ثابت ہو گا۔ نعوذ باللہ ممن ذلک۔

مرزاں نمبر ۱۲..... کیا مولوی شاہ اللہ صاحب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت سعیٰ الحجۃ بیحمدہ العصری آسمان پر اٹھائے گئے یا مولوی چکڑالوی کی طرح اُنھیں زمین پر تھی مانتے ہیں اور رفع کے معنی مع الجسم آسمان پر جانا غلط مانتے ہیں۔

حقیقی نمبر ۱۲..... رفع سے مراد رفع بالحمد ہے اللہ تعالیٰ نے مع الجسم العصری آسمان پر سعیٰ الحجۃ کو اٹھا لیا ہے نقطہ رفع بالروح یا تھنی ہونا مخالف کتاب اللہ و سنت و اجماع امت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خطاب عینی جسم کو تھا ان کو فرمایا (وزالفعک الی) بیضاوی نے لکھا ہے الی محل کرامتی و مقرماتی کی اس عبارت میں لفظ محل و مقرر کا مذکور ہے جو غالباً اجسام کے لیے ہوتا ہے ورنہ یہ حکم جمیع انبیاء علیہم السلام پر بلاریب ثابت ہے پس تخصیص و ذکر مذکور کا کیا فائدہ ہوا؟ اصل خبر میں افادہ ہے مخاطب کو وہ خبر سنائی جائے جس سے اس کو نیا علم حاصل ہو جائے اس موقع میں وہ رفع بالحمد العصری تھا ورنہ مطلق رفع بالروح جمیع اصحابیں کو حاصل ہے اس کی تخصیص بلا فائدہ ہو جائے گی۔ عدت اس رفع بالحمد کی یہ تھی کہ عینی الحجۃ کی بیدائش آدم الحجۃ کی طرح بلا واسطہ اب کے تھی قدرت رب اور محض حکم ایزدی سے مخلوق ہوئے دونوں اس خلقت میں مشترک تھے پس قدرت کاملہ نے رفع میں بھی آدم الحجۃ کے ساتھ شریک کر دیے چیزے کہ آدم الحجۃ مدت دراز تک عالم علوی میں رہے اسی طرح رب العباد نے عینی الحجۃ کو ملا الاعلیٰ میں جگہ دے کر آدم الحجۃ کے ساتھ شراکت کاملہ ثابت کر دی علاوہ بریں بعد از نزول غیر عالم الحجۃ کے قرب کافر خاصل کریں گے اس رفع عصری سے ہندویوں نے انکار ہرگز نہیں کیا۔ یہ مسئلہ قرون ماضیہ سے مسلم ہے۔ احادیث شریف اس پر دال ہیں افاقت الہ اسلام کا خیر القراءوں سے اس وقت تک اس کے لیے کافی دلیل ہے۔ الہ قرون ماضیہ آثار و احوال سے بخوبی واقف تھے انہوں نے جب انکار نہیں کیا دیگر الہ اسلام اگر مدعی اسلام ہیں ان کو بخوبی اسلاف کی تقلید کر کے رفع بالحمد پر ایمان لانا چاہیے۔ اس مسئلہ میں باقی گنجائش نہیں ہے۔

مرزاں نمبر ۱۳..... مولوی ابراہیم سیالکوئی نے صلب کے معنی صرف لکڑی پر چڑھا دینا اور لٹکا دینا کیا ہے اور یہ لغت کے برخلاف ہے۔

حقیقی نمبر ۱۴..... کنز الدقائق عینی وغیرہ میں قطاع طریق کے باب میں صلب کی تفصیل موجود ہے۔ کلام میں معنی اصطلاحی و عرفی کا اعتبار ہوا کرتا ہے۔ خواہ لغت کے مخالف ہو یا موافق۔ لغت کا اعتبار نہیں ہوا کرتا۔ ویکھو صنوا کا معنی لغوی دعا ہے۔ شرعی و عرفی ارکان مخصوصہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص للہ علیٰ ان اصلیٰ کہہ کر نذر رانے اس پر صلوٰۃ بارکان مخصوصہ لازم آئے گی دعا کرنے سے اس کی نظر پوری نہ ہو گی کیونکہ معنی لغوی متروک ہے۔

متروک عرف متروک راستہ ہوتا ہے۔ عرف میں ملب پھانسی کی تھل مارنا ہے یا مار کر پھانسی کی طرح مردہ کو لکھانا ہے چنانچہ فقہا کثرہم اللہ لکھتے ہیں کہ قطاع طریق نے اگر راہرنی میں کسی کو قتل کیا ہو تو ان کو پھانسی کیا جائے گا یا پہلے قتل کر کے پھرسوی چڑھایا جائے گا۔ ایسے مسائل میں عرف و اصطلاح معتبر ہے خواہ لغت کے سراسر مختلف ہو۔

مرزا آنی نمبر ۱۲..... اگر رفع کے معنی رفع باحکم ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام جو الرافع ہے اس کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کو منع الاجام اٹھانے والا ہے یا روحاںی قرب عطا کرتا ہے اللہم ارفعی کے معنی کیا ہوں گے۔

خفی نمبر ۱۳..... لفظ رفع اجسام میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اعراض میں بھی مستعمل ہے۔ مجردات میں بھی بولا جاتا ہے۔ مادیات میں بھی بولا جاتا ہے۔ یہ اطلاق بطور اشتراک کے ہے یا حقیقت اور مجاز کے ہے۔ عرب محاورات میں بوقت استماء کے کہا کرتے ہیں هذا علی راسی ارفعہ علی راسی خواہ کلام و حکم ہو یا کوئی چیز ہو رفت راسی رفت عینی رفت دجلی رفت یہ سب صورتیں رفع اعیان و جواہر کی ہیں رفع عنی العمی رفع عنی الرجع ان صورتوں میں لفظ رفع کا اعراض میں مستعمل ہے۔ محل و موقع کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر موقع رفع اعیان و جواہر ہو وہاں رفع جو ہر لیا جائے گا اگر محل رفع عرض کا ہو وہاں رفع عرض ثابت ہو گا لفظ ضرب ولفظ عین کے باقیار استعمال کے بہت سے معانی ہیں جس معنی کا محل و موقع ہوتا ہے وہی معتبر ہوا کرتا ہے اس میں لغت کا کوئی اعتبار نہیں ہے دعا میں لفظ رفع سے رتبی و عرضی مراد ہے۔ آیت قرآنی میں رفع جسمی مراد ہے۔ اسی کو نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم این مریم حکما عدلا (مکہۃ ص ۳۸۸ باب نزول عیسیٰ ﷺ) نزول بدون رفع کے نہیں ہوتا رفع بحمدہ المظہر ہو چکا ہے نزول موجود کا انتظار ہے وہ ضرور ہو گا۔ اس کا جمیع الجلت و جماعت کو اعتقد ہے کیونکہ خیر آحاد پر عمل واجب ہوتا ہے۔ خصوصاً ایسی خبر پر کہ جس سے اہل خیر القرون نے انکار نہ کیا ہو، ایسی خبر واجب العمل ہوتی ہے اس سے اہل اسلام ہرگز انکار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جو الرافع ہے اس کے معنی مناسب شان ایزد تعالیٰ کے لیے جائیں گے رفع اجسام کی تین بیکار ہے رافع اہل حق کا ہے اہل حق کی دلیل اہل باطل پر بالا کرتا ہے حق کا بول بالا ہوتا ہے اسی طرح جو معنی مطابق عرف و مناسب محل کے ہو اس کا لینا درست ہے۔

مرزا آنی نمبر ۱۴ تا ۱۸..... توفاه کے معنی تاج العروش و لسان العرب میں قبل نفرہ لکھا ہے۔ بھی زبان عرب میں توفی یا وفات جسم کو لے جانے میں مستعمل ہوا ہے حضرت ابن عباسؓ نے متوفیک کا معنی ممیتک فرمایا ہے امام مالک عیسیٰ کو میت اس آیت سے لیتا ہے یا نہیں۔ کیا لاما توفیتی سے یہ ثابت ہے یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کی وفات کے بعد عیسائیوں کا عقیدہ پڑ گیا تھا۔ اخ

خفی نمبر ۱۴ تا ۱۸..... توفی اور وفات کے عرف و معنی مستعمل ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کسی چیز کو کامل لینا۔ دوسرا معنی مارنا ہے حسب مناسب محل معنی مناسب لیا جاتا ہے۔ قاضی بیضاوی نے یا عیسیٰ انی متوفیک کی تفسیر میں لکھا ہے ای مستوفی اجلک و موخر ک الی اجلک العسی عاصما ایاک عن قتلهم الخ ”یعنی تیری اجل مقررہ کو پورا کرنے والا ہوں تیری مقررہ عمر تک تھوڑ کرنے والا ہوں تھوڑ کے قتل کرنے سے بچانے والا ہوں۔“ پھر اسی آیت شریف کے ذیل بیضاوی میں تحریر فرماتے ہیں (اوقدبضک من الارض من توفیت مالی او معوفیک نالما اذروی الله رفع نالما) ”یا مراد آیت شریف کی یہ ہے تم کو زمین پر سے اٹھانے والا ہوں۔“ عرب کہتے ہیں توفیت مالی میں نے اپنا مال پورا وصول کر لیا ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ تم کو

در حالت نوم اخہانے والا ہوں کیونکہ عیسیٰ ﷺ سوتے ہوئے اخہانے گئے (او ممیتک عن الشہوات العائقة عن العروج الی عالم الملکوت) بیضاوی میں ہے۔ ”خواہشات جو کہ عروج سے مانع ہیں ان خواہشات سے تم کو مارنے والا ہوں یعنی تیری شہوات مٹانے والا ہوں تاکہ عالم ملکوت کو عروج کرنے میں مانع نہ ہوں۔“ اب محل کے مناسب مقنی ارادہ کیا جائے گا ایسے الفاظ کا بھی حکم ہے علمیت و قابلیت مفسر بیضاوی کی مخفی نہیں ہے۔ ہر علم میں حظظیم کے مالک ہیں۔ ایسے بزرگ علماء رفع کے قائل ہیں اور جن کو عربی کے ساتھ مس ہی نہیں وہ ان کی کیونکر مخالفت کر کے نیادین نیازِ محب مرتب کرتے ہیں اگر سائل کو کچھ ربط کتب عربی سے ہوتا تو ہرگز لغات پر مذہب کی بناء رکھتا بلکہ علماء کے اقوال کو مد نظر رکھتا۔ کلام میں کبھی معنی حقیقی مراد ہوتی ہے اور کبھی معنی مجازی ملحوظ ہوتا ہے اب لغت میں معنی مجازی کہاں مذکور ہے۔ دلالت حال، دلالت محل وغیرہ سے معنی حقیقی چھوڑ کر معنی مجازی لی جاتی ہے۔ دین و مذہب کو لخت پر بنا کرنا فضول و بیکار ہے۔ قرآن شریف میں نازل ہے (لهم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون) مدارک نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے (تعطی اجرها والیا) ”ہر شش کو اس کے عمل کی جزاً پوری دی جائے گی۔“ یہاں وفات کے معنی بغیر مختص جاہل کے کون کر سکتا ہے۔ اگر بناء عرف پر نہ ہو تو یہاں کیا کیا جائے گا۔ خطائے بزرگان گرفتن خطاست۔ جو لوگ عیسیٰ ﷺ کو وفات مانتے ہیں وہ مصلوب بھی مانتے ہیں۔ ان کی تردید میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (وقولهم انا قاتلنا المسيح عیسیٰ ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) یہود نے عیسیٰ ﷺ کو نہ قتل کیا ہے اور نہ پھانی چڑھایا ہے۔ بلکہ غیر آدمی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ﷺ کے مشابہ کر دیا تو یہود اشتباہ میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (وان من اهل الكتب الا لیؤمن به قبل موته) سب اہل کتاب عیسیٰ ﷺ پر ان کی موت سے پہلے ن پر ایمان لاائیں گے مدارک شریف میں ہے (انه ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى احد من اهل الكتب الا لیؤمن به حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الاسلام) ”عیسیٰ اخیر زمان میں نازل ہوں گے جمیع اہل کتاب ان پر ایمان لاائیں گے تاکہ ایک بھی دین اسلام ہو جائے۔“ اس رفع الی السماء اور نزول پر بڑے بڑے علماء فحول کا عقیدہ ہے۔ ان کو لغات بہت اچھی معلوم تھی انہوں نے دین لخت پر متنی نہیں کیا (وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه) یہود کو عیسیٰ کے قتل ہو جانے کا یقین نہ ہوا، کہا کرتے تھے (ان کان هذا عیسیٰ فاین صاحبنا وان کان هذا صاحبنا فاین عیسیٰ) اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے۔ اسی اشتباہ میں قرآن شریف کے نزول تک پڑے رہے اس کی تفصیل تفسیر خازن و تفسیر مدارک میں مذکور ہے بعیہ خوف طوالت کے ترک کر دی ہے اور یہ قصہ عام مشہور ہے مدارک شریف میں (یا عیسیٰ انی متوفیک) کی تفسیر میں لکھا ہے (ای مستوفی اجلک و معناہ انی عاصمک من ان تقتلک الکفار و ممیتک حتف انفک لا قعلا بایدیہم) اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ کو کفار نے ہرگز قتل نہیں کیا بلکہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ اخیر زمان میں نزول فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف سے حاکم مقرر ہوں گے اسلامی احکام جمیع الناس میں جاری کریں گے کسی کو طاقت انکار و احراف کی نہ ہوگی۔ لفظ توفی کو جمیع صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ا جمعین نے دیکھا تھا وہ اہل لسان تھے وہ غرض اور سوق کلام کو اچھی طرح جانے والے تھے۔ ان کا عقیدہ تو یہی تھا جو تحریر کر دیا گیا ہے۔ جس کو ظاہر نص مفسر محکم وغیرہ کی تیزی نہ ہو اس کو ایسے سوالات کرنا شرمندگی حاصل کرنا ہے علم خوب میں لکھتے ہیں کرام فاعل بمعنی حال استقبال کے آیا کرتا ہے چنانچہ عمل اسم فاعل کو معنی حال واستقبال پر موقوف لکھتے ہیں۔ اس صورت

میں متوفیک زمان استقبال میں ثابت ہے زمان باقی میں توفی نہیں ہوئی استقبال میں بلا ریب ثابت ہے۔ بھی عقیدہ جمہور الحشمت جماعت کا ہے جمہور کے مقابل قول شاذ کا اعتبار نہیں اور متروک سمجھا جاتا ہے تامل و تدریب۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبیین و على الله واصحابه اجمعین حرره خادم الشرع المتین المفتی صاحبزادہ عبدالقدار عفی عنہ المدرس الاعلی فی المدرسة الفولیہ العالیہ فی مسجد سادھو ان یکم الجمادی الاولی ۱۴۳۶ھ.

عقیدہ حق

ہے سوال قبر حق اے دین شعار
ہے قیامت حق نہ کر اس میں کلام
حق امام پاک مہدی کا ظہور
پھر نزول حضرت عیسیٰ ہے حق
ہے خروج دابہ حق بے خطأ
حق ہے مغرب سے طوع آنات
کا پنا پھٹنا زمین کا جان حق
سب کا مرنا اور پھر اخْتَنَا قبر سے
حق ہے جنت حق ہے دوزخ حق حساب
حق ہے جنت حق ہے دوزخ حق حساب
یعنی مجملہ علامات قیامت کے حضرت عیسیٰ بن مریم ﷺ کا آسمان سے زمین دنیا پر نزول کرنا اور دین
محمد ﷺ کے تابع ہونا حق ہے اور احادیث صحیح اس باب میں وارد ہیں جیسے کہ فرمایا حضرت ﷺ نے والله
لینزلن این مویم حکما عدلا الحی عینی قدم ہے اللہ برتر کی کہ البتہ اتریں گے عیسیٰ بیٹے مریم کے حاکم عادل ہو کر
آخر حدیث تک پس جو شخص کردنیا میں اب پیدا ہو کر آپ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے یا اپنے کوشش مسح قرار دے
اور آیات و حدیث کی تحریف کرے کہ اتنے سے مراد پیدا ہونا ہے وکذا وکذا اپنے وہ شخص کاذب ہے اور دائرہ اہل
حق سے خارج ہے اور اسی طرح پر دجال کذاب یک چشم جو خروج کرے گا اور دعویٰ خدائی کرے گا اس کو حضرت
عیسیٰ ﷺ کا مارنا اور اس کے قتل و فساد و شر و شور سے زمین کو پاک کرنا حق ہے۔



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ
بِعِلَامِ الْعِلَامِ

اسلام میں شاتم رسول کی سزا

مولانا مفتی انعام الحق

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد تمام تعریفوں کے جو خدا مل شانہ کے لیے ہیں ائمہ کرام سے اس مسئلہ کے بارے میں فتویٰ حاصل کرنا ہے کہ جو شخص بمحاط اسم مسلمان ہوا درخدا تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ غیربروں اور نبی آخراً زمان فخر موجودات اور محض انسانیت حضرت محمد ﷺ کی پڑی اڑاتا ہو، ان کے بارے میں استہزا سیئے انداز اختیار کرتا ہو جو ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرتا ہو اور کہتا ہو کہ یہ کوئی تاریخ نہیں فقط ناول ہے اور ایک دیوانے شخص کا خواب ہے جسے کہانی کارنگ دیا گیا ہے تو ایسے شخص یعنی سلمان رشدی ملعون کے لیے علماء کرام کا کیا فتویٰ ہے؟

عام مسلمانوں کے لیے، علماء کرام کے لیے، حکام وقت اور حکومت وقت کے لیے از راہ کرم بتائیے ایسے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے جو ایسے گستاخ کو قتل کرنا چاہتے ہوں جبکہ وہ ایک غیر اسلامی ملک (برطانیہ یا امریکہ) میں موجود ہو۔ کیا اس کے ملک کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم رکھے جاسکتے ہیں جبکہ وہ ملک اس ملعون کتاب کی اشاعت کی پشت پناہی بھی کر رہا ہوا ایسے ملعون شخص کو اپنے ہاں پناہ بھی دے رکھی ہو۔

سائل۔ سعید احمد کراچی

الجواب ومنه الصدق والصواب

صورت مسولہ میں جو آدی (کافر ہو یا مسلم) سید الاولین والا آخرین، شیخ المذاہب رحمۃ للعلیین حضرت محمد ﷺ پر پڑی اڑاتا ہے یا ان کی سیرت و زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں استہزا سیئے انداز اختیار کرتا ہے، یا ان کی توپیں و تفنیس کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا ان کو گامی دیتا ہے، یا ان کی طرف بری باوقوف کو منسوب کرتا ہے۔ یا آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کو بازاری عورت اور طواائفوں کے ساتھ تغییر دھتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے اور قرآن مجید کو ایک دیوانہ اور بمحون آدی کا خواب بتاتا ہے یا ایک ناول اور کہانی سے تعبیر کرتا ہے تو وہ آدی سراسر کافر، مرتد، زنداقی اور بھڑک ہے۔ اگر ایسا آدی کسی مسلمان ملک میں یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا مسلمانوں کی حکومت پر واجب ہے اور مشہور قول یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اور یہ ائمہ اربعہ کا مسلک ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔

جیسا کہ شیخ الاسلام امام تقی الدین ابوالحجاج احمد بن عبدالحليم بن عبد السلام الحراشی، الدمشقی المعروف باہن تیمیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب ”الصارم المسلط علی شام الرسول“ میں لفظ فرمایا کہ:

ان من سب الشیء ﷺ من مسلم او کافر فانه يجب قتلہ هذا مذهب علیہ عامۃ اهل العلم

قال ابن المنذر: اجمع عوام اهل العلم على ان حد من سب النبي ﷺ القتل، ومنمن قاله مالک واللیث واحمد واسحق و من مذهب الشافعی عام الہ علم کا نہ مجب ہے کہ جو آدمی چاہے مسلمان ہو یا کافر نبی کریم ﷺ کو گالی دیتا ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ابن منذر نے فرمایا کہ عام الہ علم کا اجماع ہے کہ جو آدمی نبی کریم ﷺ کو گالی دیتا ہے، اس کی حد قتل کرنا ہے اور اسی بات کو امام مالک، امام لیف، امام احمد، امام الحنفی نے بھی اختیار فرمایا ہے اور امام شافعی کا بھی بھی نہ مجب ہے

وقد حکی ابو بکر الفارسی من اصحاب الشافعی اجماع المسلمين على ان حد من سب النبي ﷺ القتل اور ابو بکر فارسی نے اصحاب امام شافعی سے مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ شاتم رسول ﷺ کی حد قتل ہے۔

وقال محمد بن سخنون، اجمع العلماء على ان شاتم النبي ﷺ والمتنقض له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الامة القتل، ومن شك في كفر وعداته كفر. (الصادر أصلوں المسندة الاولی ص ۲/۳) محمد بن سخنون نے فرمایا کہ علماء کا اجماع ہے کہ شاتم رسول رسول کی توہین و تنقیص شان کرنے والا کافر ہے اور حدیث میں اس کے لیے سخت سزا کی وعید آئی ہے اور امت مسلمہ کے نزدیک اس کا شرعی حکم قتل ہے اور جو آدمی اس شخص کے کفر اور عذاب کے بارے میں شک و شبہ کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

مندرجہ بالاعبارات سے یہ بات آفتاب نیم روز کی مانند واضح ہو گئی کہ باجماع امت نبی کریم ﷺ کو گالی دینے والا یا ان کی توہین و تنقیص کرنے والا کھلا کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو آدمی اس کے کافر ہونے اور عذاب دینے پر شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے ایک کافر کے کفر میں شبہ کیا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ نے ابن سخنون سے مزید نقل کیا ہے کہ:

ان الساب ان كان مسلماً فانه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو منهب الآئمة الاربعة وغيرهم. (الصادر أصلوں ص ۲ المسندة الاولی) اگر گالی دینے والا مسلمان ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور بلا اختلاف اس کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ ائمہ اربعہ وغیرہ کا نہ مجب ہے۔

اور امام احمد حنبل نے تصریح کی ہے کہ:

قال حنبل: سمعت ابا عبد الله يقول كل من هشم النبي ﷺ او تنقضه مسلماً كان او كافرا فعليه القتل، واري، أن يقتل ولا يستتاب (الصادر أصلوں ص ۲ ایضا) جو آدمی بھی خواہ مسلمان ہو یا کافر اگر رسول کریم ﷺ کو گالی دیتا ہے یا ان کی توہین و تنقیص کرتا ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے اور میری رائے یہ ہے کہ اس کو قریب کرنے کے لیے مہلت ٹھیں دی جائے گی بلکہ فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا۔

دریختار میں ہے:

وهي الاشباء لا تصح ردة السكران الا الردة بسب النبي ﷺ فانه يقتل ولا يعفى عنه (حاشی نقاوی شایی ص ۳۱۲) باب المرتد طبع رشیدیہ کوئٹہ) اشباء میں ہے کہ مست آدمی کی رقت کا اعتبار نہیں ہے البتہ اگر کوئی آدمی نبی کریم ﷺ کو گالی دینے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس گناہ کو معاف نہیں کیا

جائے گا۔

امام احمدؓ اور اشیاء کی عبارات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شامِ رسول کے جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔

پھر یہ شخص جب مسلسل اس جرم کے ارتکاب میں قائم ہے اور اس پر مصرب ہے تو اس کے واجب القتل ہونے اور اس کی توبہ قبول نہ کرنے کے بارے میں کوئی مشکل ہی نہیں۔
چنانچہ کتاب فقہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی ارتدا دکی حالت پر بدستور برقرار رہتا ہے یا بار بار مرد ہوتا رہتا ہے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔
جیسا کہ فتاویٰ شایی میں ہے:

وعن ابن عمر و علی: لا تقبل توبة من تكررت ردهه كالزنديق وهو قول مالك وأحمد
والليث وعن أبي يوسف لو فعل ذلك مراراً يقتل غيلة (فتاویٰ شایی ص ۳۲۱ ج ۳ باب المرتد) حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ جو آدمی زندیق کی مانند بار بار مرد ہوتا ہے اس کی توبہ مقبول نہیں ہے اور یہ امام مالکؓ، احمد اور لیث کا مذہب ہے امام ابو یوسفؓ سے مردی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرد ہونے کا جرم بار بار کرتا ہے اس کو حیلہ سے اس کی بے خبری میں قتل کر دیا جائے۔
اسی طرح دروغگار میں ہے:

وكل مسلم ارتد فتوبيه مقبولة الاجماعه من تكررت ردهه على مامر والكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حد او لا تقبل توبته مطلقاً (حاشیة فتاویٰ شایی ص ۳۲۷ ج ۳ باب المرتد)
ہر وہ مسلم جو (نحوذ بالله) مرد ہو جاتا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، مگر وہ جماعت جن کا ارتدا مکر (بار بار) ہوتا ہے۔ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور جو آدمی انبياء میں سے کسی کو گالی دینے کی وجہ سے کافر ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جائے گی۔

ان عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سب رسول اور اس کی توبین اتنا برا جرم ہے کہ بالفرض اگر کوئی مست آدمی بھی نبی کریم ﷺ کو گالی دے گا یا آپ ﷺ کی توبہ تحریر کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔
اسی طرح امہات المؤمنینؓ کی شان میں گستاخی کرنے سے آنحضرت ﷺ کو تکلیف کہنچتی ہے اور گستاخی کرنے والے پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اسی لیے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ امہات المؤمنینؓ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مباح الدم ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر گناہ کی تہمت لگانے والوں کے جرم کا ثبوت اور حضرت عائشہؓ کی پاکدامتی کا ثبوت تو قرآن میں مذکور ہے، فقهاء کرام نے بھی اس کی رو سے ایسے شخص کو مباح الدم کہا ہے جو حضرت عائشہؓ پر تہمت گناہ لگاتا ہے۔ جیسا کہ فتاویٰ شایی میں ہے:

نعم لا شك في تكبير من قذف السيدة عائشة رضي الله عنها.

(فتاویٰ شایی ص ۳۲۱ ج ۳ باب المرتد)

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والا شخص بلاشبہ کافر ہے۔

اور ملعون سلمان رشدی اپنی کتاب میں امہات المؤمنینؓ کی شان میں بھی گستاخی کا مرتكب ہوا ہے

یا مخصوص حضرت عائشہ صدیقۃؓ کے بارے میں، جیسا کہ (هفت روزہ حریت جلد ۷۔ ۱۱ تا ۱۷ نومبر ۱۹۸۸ء شمارہ ۲۵) میں
تفصیلی طور پر نقل کیا گیا ہے۔

اور یہ بات اہل دنیا کے سامنے ظاہر ہے کہ ملعون سلمان رشدی نے حالیہ ناول ”شیطانی آیات“
(Satanicverses) کے علاوہ ”مُنَاسِثٍ چَلَّذْرَنْ“ اور ”شِيم“ میں بھی شان رسالت میں دریہہ وہی اور وہی خباثت کی بدترین مثال پیش کی ہے، تفصیل کے لیے (انڈیا ٹاؤن، تبریز ۱۹۸۸ء) کی اشاعت ملاحظہ کیا جائے۔
اوہ مزید اس کتاب کو متعدد مالک سے شائع کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تاکہ دنیا میں فساد پھیلایا
جائے اور دین اسلام کو بدنام کیا جائے، تاریخ کو منع کیا جائے، ناپتہ اذہان کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے اور
مسلمانوں کے ول و جگر پر تیشے چلائے جائیں اور تلاش حق میں دامن اسلام کی طرف بڑھنے والے سادہ ول
انسانوں کو اسلام اور مسلمانوں سے بظعن کیا جائے۔ لہذا یہ شخص اگر پہلے سے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا ہے اور
اس ارتدا پر اصرار کرنے کی وجہ سے ملحد اور زندیق ہے جس کی توبہ کا کچھ اعتبار نہیں اور اس کی سزا قابل ہی ہے۔
دنیا کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے بنے اور رسول ہیں، تبلیغ و دین
اور اشاعت حق میں بالکل امین اور حق گو ہیں اور اس منصب کو بالکل صحیح صحیح طریقہ سے انجام دینے والے ہیں اور
دین اسلام کی بھیکیل فرمادی گئی ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور خایا نہیں ہوئی ہے اسی طرح قرآن مجید کو اللہ پاک کا
کلام سمجھتے ہیں۔

قرآن کو غیر اللہ کا کلام کہنا سراسر کفر ہے اسی لیے جب کفار مکنے قرآن کے کلام انسانی ہونے کا دعویٰ
کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ چیخنے دیا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور غیر اللہ کا کلام ہے تو تم اور
تمہارے سارے دوست احباب اکٹھے ہو کر قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔
لیکن اب تک کوئی نہ بنا سکا نہ تاقیامت بنا سکے گا۔

لیکن شام رسول سلمان رشدی نے لفظ (Mahound) کی آڑ لے کر یہ تاثر دیا ہے کہ ”جتناب سرور
کائنات ﷺ میں فرشتے اور شیطان کی آواز میں تیز کرنے کی الہیت نہ تھی“ اور یوں کلام الہی کو جو حضرت جبرائیل
کی وساطت سے نازل ہوا ہے، نعمت باللہ شیطانی کلام ظاہر کرنے کی گستاخانہ مکروہ اور شیطانی جسارت کی ہے۔ ان
عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سلمان رشدی قرآن شریف کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو
قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ بدترین کافر ہے اس قسم کے کافروں کو قتل کرنا واجب ہے جیسا کہ اوپر گزرا ہے۔
اسی لیے تمام اسلامی حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر کافر مرتد زندیق سلمان رشدی ان کی حکومت
کے ماتحت ہے تو فوری طور پر قتل کر کے اسے جہنم رسید کریں۔ اگر ان کی حکومت میں نہیں لیکن سفارتی تعلقات کے
ذریعہ اس پر دباؤ ڈالنا کسی بھی طریقہ سے ممکن ہے تو اس پر دباؤ ڈال کر اس کو قتل کر دینا ضروری ہے ورنہ ایک
بدبخت شقی ازیں اور شام رسول کو پہاڑ دینے والے یا اس کی پشت پناہی کرنے والے ملک سے تعلق اور دوستی رکھنا
جاائز نہیں ہوگا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے۔

..... لاتجدع قوماً يؤمنون باللهِ واليوم الآخر يوادون من حاد اللهِ ورسولهِ ولو كانوا اباء هم
او اخواهم او عشيرتهم۔ (الجادل: ۲۲) جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں
گے کہ وہ ایسے مخصوصوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں گوہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا

اپنے گرانے کے ہوں۔

۲..... یا ایہا الذین امتو لا تخلعوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمعودة۔ (مختہ ۱) اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت ہاؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو۔

اور اگر حکومت اس امر عظیم کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ طاقت بشری کے مطابق کوشش کر کے اللہ کی زمین کو شاتم رسول سے پاک اور صاف کر دے کیونکہ یہ اخبار دین خداوندی کی تحریکیں اور اعلاء کلمۃ اللہ کا ذریعہ ہے، جب تک زمین سے شاتم رسول کو شتم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مکمل دین اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وقاتلواہم حتی لا تکون فتنۃ و يکون الدین کله لللہ (انفال ۳۹) اور تم ان سے اس حد تک لا ذکر
ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا چاہیے۔

اسی لیے صفویتی میں تاریخ کے اوراق شاہد ہیں جو شخص بھی آنحضرت ﷺ کو گالی دیتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا جیسا کہ کعب بن اشرف، یہودیہ عورت اور قمیلہ ختمہ کی عورت کو حضرت محمد ﷺ کو گالی دینے کی وجہ سے اور اسلام کی مخالفت میں سرگرم عمل رہنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔

اسی طرح کعب بن زہیر عہد نبوی کے ایک نامور شاعر تھے، ابتداء میں وہ اسلام کی مخالفت میں سرگرم رہے حتیٰ کہ ہادی اسلام ﷺ کی بھوٹ میں کچھ شعر تک کہہ دیے، معاذانہ کارروائیوں اور بھوٹ کی پاداش میں بارگاہ رسالت سے ان کے واجب القتل ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا جبکہ سلمان رشدی نے صرف سب و شتم پر بس نہیں کیا بلکہ اس نے اسلام اور نبی ﷺ امہات المؤمنین اور قرآن مجید کے بارے میں بھی ہر قسم کی گستاخی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

لہذا جو آدمی اس کو قتل کر سکے گا اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا تاکہ زمین اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے، اور پھر کسی کو اس جیسی دریدہ و فنی کی جسارت نہ ہو۔ جیسا کہ فتاویٰ شامی میں ہے:

وجميع الكباائر يباح قتل الكل و يناب قاتلهم.

(شای ج ۳ ص ۱۹ مطلب یکون الحیر بر بالقتل مطبوعہ کوئندہ)

اور ایسے تمام مرکبین کبیرہ جن کے گناہوں کا ضرر دوسروں کی طرف متعدد ہوتا ہے ان کو قتل کرنا جائز ہے اور قاتل ثواب کا مستحق ہے۔

الجواب صحیح: محمد عبدالسلام عفان اللہ عنہ
فتوا اللہ اعلم۔ کتبہ: محمد انعام الحق دارالافتاء جامعہ الحلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ناؤں کراچی

الجواب صواب

الجواب صحیح
ابو بکر سعید الرحمن



لَا يَنْهَاكُ عَنِ الْمُحَاجَةِ

حرمت مدفین المرتدین فی مقابر المسلمين

مولانا سعیف اللہ حقانی

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

تہجیہ یہ رسالہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی قادیانی میت کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں جائز ہے یا نہیں؟ اگر جواب نئی میں ہے تو ایک ایسی سورۃ میں، جس میں کسی قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا گیا ہو، کیا اس کو نکلا جائے گا، یا بحالہ چھوڑا جائے گا؟

مسلمانوں کے قبرستان میں قادیانی میت کے دفنانے کا حکم

قادیانی کافر اور مرتد ہیں، کیونکہ قادیانی دعویٰ اسلام کے باوجود ضروریات اسلام سے انکار کر رہے ہیں اور اسی کو ارتدا کہا جاتا ہے۔ شرح تنویر میں ہے: ورکنها اجراء کلمة الكفر على اللسان بعد الايمان (ص ۳۱۰، ج ۳) اور کسی کافر اور مرتد کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ وان کانت الفلبة للمشركين فالله لا يصلى على الكل ولكن يغسلون ويكتفون ولكن لا على وجه غسل موتى المسلمين و تكفيرهم و يكتفون في مقابر المشركين (ہندیہ ص ۱۵۹، ج الفصل الثاني في الحش) بلکہ کفار اور مشرکین کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، مگر کافر کی تدفین مسلمان کی تدفین سے متفاہر ہے۔ کافر کو بغیر مراعات سنت لحد کی زمین میں دفنا یا جائے گا، اور مرتد کا تو کفار کے قبرستان میں بھی کفار کو دفن کرنے کے لیے دینا منوع ہے، بلکہ بغیر غسل و کفن کے کتے کی طرح کسی گھر میں گاڑا جائے گا۔ علام ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں: انما یغسل (ای) الكافر) غسل الثوب النجس من غير وضوء ولا بدءة بالميامن الى قوله و یلف في خرقه بلا اعتبار عدد ولا حنوط ولا کافور و يحفر له حفيرة من غير مراعاة سنة المحدث. الى قوله اما المرتد فلا یغسل ولا یکفن و انما یلقى في حفيرة كالكلب ولا یدفع الى من انتقل الى دینهم. (الحرارائق ص ۱۹۱ ج ۲ مطبوعہ ایم سعید کراچی) اور تنویر و شرح التنویر میں ہے..... (و یغسل المسلم و یکفن و یدفن قریبہ) کھالہ (الکافر الاصلی) اما المرتد فیلقی في حفرة کا الكلب (عند الاحتیاج) فلو له قریب فالا ولی تركه لهم (من غير مراعاة السنہ) فیغسله غسل الثوب النجس و یلفه في خرقه و یلقیه في حفرة وليس للکافر غسل قریبہ المسلم. وفي رد المحتار (قوله و یغسل المسلم) ای جواز الان من شروط وجوب الغسل کون المیت مسلما قال في البذاع حتى لا يجب غسل الكافر لأن الغسل وجب کرامۃ و تعظیما للمیت والکافر ليس من اهل ذالک (قوله اما المرتد فیلقی في حفرة) ای ولا یغسل ولا یکفن ولا یدفع الى من انتقل الى دینهم عن الفتح (ص ۲۵۷ ج ۱) لہذا کسی قادیانی کا مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا شرعا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں قادیانیوں نے قادیانی کو

وُفْنَ كَرِدِيَا، تو چونکہ مسلمانوں کا قبرستان صرف مسلمانوں کے لیے ہی وقف ہوتا ہے کسی غیر کے لیے نہیں، لہذا اس صورت میں قادریانی غاصب متصور ہوں گے، تو اس طریقہ سے کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں وُفْنَ کرنے کے جرم کے ساتھ جرم غصب بھی لازم آگیا۔

اور اس کے ساتھ ذی کے میت کو اگرچہ اسلام نے محترم تھہرا�ا ہے۔ مگر کافر اور مرتد کو نہیں۔ (البحر الرائق ص ۱۹۱ ج ۲، تغیر، شرح الحجوي، اور رواحکارص ۲۵۷، ج ۱) اور درختار میں ہے۔ عظم الذی محترم اور رواحکار میں ہے (قوله عظم اللہمی محترم) فلا یکسر اذا وجد فی قبرہ لَذْنَه کما حرم ایلادہ فی حیاته الی قوله واما اهل الحرب فان احتجج الی نیشہم فلا پاس به الخ (ص ۲۶۸ ج ۱ طبع روشنیہ کوئٹہ) اور مرتد کا لحری ہے۔

چنانچہ جس طرح کہ حربی کے قتل سے قصاص واجب نہیں، اسی طرح مرتد کے قتل سے بھی واجب نہیں۔ ہندیہ میں ہے: ولا یقتل المسلم واللہمی بحربی دخل دارنا بامان کذافی الشین: مسلم قتل مرتد او مرتدہ لا قصاص عليه۔ (تویی ہندیہ ص ۳۲۰ ج ۲۶ الباب الثانی فن مقتل قصاص الخ)

اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں کے کسی چیز بالخصوص کسی موقوف چیز پر کسی کافر کا غاصبانہ قبضہ بشرط قدرت توڑنے والے۔ دجل، وقف ارضًا او دارا و دفعها الى رجل وولاه القيام بذالك لجحد المدفعه اليه فهو غاصب يخرج الارض من يده الى قوله ولو غصبتها من الواقع اومن واليها غاصب فعلية ان يردها الى الواقع فان ابى وثبت غصبه عند القاضى جسمه حتى رد۔

(ہندیہ ص ۲۳۷ ج ۱۲ الباب التاسع في غصب الوقف)

وفي الحديث المسلم اخوه المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.

(مکلوٰۃ ص ۳۲۲ باب الحفظ والرجوع على احقن فصل اول)

لہذا جہاں مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی قادریانی دفاتیرا گیا ہو، تو وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس قادریانی کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر کسی گڑھے میں وُفْنَ کر دیں، تاکہ ان جرماتم کا ازالہ ہو جائے اور یہ صورت عشِ حرام کی صورت نہ ہوگی کیونکہ غصب کی صورت میں مسلمان میت کا عش بھی جائز ہے تو کافر اور مرتد کا بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ ہندیہ میں ہے۔ المیت بعد مادفن بمدة طویلة او قليلة لا يسع اخراجه من غير عذر و يجوز اخراجه بالعنزو العذر ان يظهر ان الأرض مخصوصة.

(قاوی ہندیہ ص ۳۷۰ ج ۲ الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر الخ)

اور اگر پا الفرض یہ تدقین وہاں کے کسی مسلمان کی اجازت سے ہوئی ہو تو اس کا بھی شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ حق کسی کو حاصل نہیں کہ جمیہ موقوف علیہا میں تغیر اور تبدل کر لیں۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ رواحکار میں رقمطر از ہیں ”فإن شرطت الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله ان يجعل ماله حيث شاء ماله يمكن معصية الخ (ص ۳۹۵ ج ۳ کتاب الوقف وفیه ایض من ۳۱۲ ج ۳ کتاب الوقف) شرط الواقع کنس الشارع ای فی المفہوم والدلالة ووجوب العمل الخ“ اور اسی طرح یہ ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو مسلمانوں کے حق کے دبانے کی اجازت دینے کا مجاز نہیں ہے۔

یہ بھی طویل ہو کہ مسلمانوں کے قبرستان میں قادریانی کو دفاترے کی وجہ سے قادریانی لوگ مسلمانوں کے وقف کے غاصب تھہر جاتے ہیں اور اس میں تصرف کر کے اپنی میت اس میں وُفْنَ کر دیتے ہیں اور اسی طرح ایسی صورت

میں ایسے وقف مخصوصہ کا استرداد ضروری ہے۔ لہذا اسی طرح صورت میں مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو، اپنے مخصوصہ وقف کا استرداد کر لیں۔

ہندیہ میں ہے۔ ولو غصبہا من الواقف اونم والیها خاصب الی قوله فان كان الفاصل زاد في الارض من عنده ان لم تكن الزيادة الی قوله فان القيمة يسترد الارض من الفاصل بغير شی۔ (ص ۲۳۷ ج ۲ الباب التاسع في غصب الوقف)

تتبیہ اور جس طرح کہ ابتدأ کافر اور مرتد کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں منوع ہے، اسی طرح بقاء بھی منوع ہے۔ یدل علی ذالک مافی الہندیہ نصہ هذا مقبرة كانت للمرشکین اراد ما ان يجعلوها مقبرة لل المسلمين فان كانت آثارهم قد اندرست فلا يأس بذلك وان بقيت آثارهم باقى من عظامهم شی ینبش ويقرر ثم يجعل مقبرة للمسلمين (ص ۲۴۹ ج ۲ الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر فلیتمال) اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده (مسلم ص ۵۱ ج ۱ باب بیان کون النہی عن المنکر عن الایمان) اس لیے عالمہ اسلامین پر ہر ایسے مکر کا ازالہ ضروری ہے۔
سیف اللہ حقانی عقا اللہ عنہ

تعدیق از مفتی اعظم حضرت العلام مولانا مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتہم
شیخ الحدیث وصدردار الاقباء دارالعلوم الحقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع نوشهہ
یہ تحقیق باصواب ہے (اور مسلمانوں کے قبرستان میں قادیانی کی تدفین کی صورت میں) حکومت اور لواثقین اور مقامی با اثر اشخاص پر ضروری ہے کہ اس میت کو نکلا کیں یا نکالیں۔ (اتھی قوله المبارک)



لَا يَنْهَاكُنَّ لَّا يَنْهَاكُنَّ لَّا يَنْهَاكُنَّ لَّا يَنْهَاكُنَّ لَّا يَنْهَاكُنَّ لَّا يَنْهَاكُنَّ

مرتد کی سزا اسلامی قانون میں

مولانا سید ابوالعلی مودودی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ مختصر مضمون ایک سوال کے جواب میں لکھا گیا تھا اور رسالہ ترجمان القرآن کے اکتوبر ۱۹۳۲ء سے جون ۱۹۳۳ء تک کے پرچوں میں شائع ہوا تھا جو نک اس میں اسلامی قانون کے ایک بڑے معروکہ الاراء مسئلہ پر بحث کی گئی ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں میں کھلک پیدا کرتا رہتا ہے، اس لیے اب اسے الگ رسالے کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ سوال حسب ذیل تھا:

”کیا اسلام نے مرتد کی سزا قتل قرار دی ہے؟ قرآن میں اس کا کیا ثبوت ملتا ہے؟ اگر قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے کہ امرداد کی سزا قتل ہے تو احادیث و سنت سے کہاں تک اس کا ثبوت فراہم کیا جا رہا ہے۔ نیز حضرت ابو بکرؓ کے قال مرتدین کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ عقلی حیثیت سے قتل مرتدین کا جواز کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟“

کیا ایک صحیح اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں کو اپنے مذاہب کی تبلیغ کا حق اسی طرح حاصل ہو گا جس طرح مسلمانوں کو اپنے مذاہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہونا چاہیے؟ کیا خلافت راشدہ اور بعد کی خلافتوں کے تحت کفار واللہ کتاب کو اپنے مذاہب کی تبلیغ کا حق حاصل تھا؟ قرآن و سنت اور عقلی حیثیت سے اس کے عدم جواز کا کہاں تک ثبوت ملتا ہے؟

”ان دونوں امور کے متعلق میں نے بہت غور کیا مگر کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا ہوں، خلاف اور موافق دونوں دلائل وزن رکھتے ہیں اور قرآن و سنت میں ان امور کی پابند کوئی خاص تصریح نہیں ملتی، کم از کم جہاں تک میرا محدود علم رسانی کرتا ہے۔ اگر اس کا جواب ترجمان القرآن میں شائع ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ میرے سوابہت سے لوگ اس بحث سے دفعہ پھر رکھتے ہیں۔“

اس سوال میں دو امور تنقیح طلب ہیں:

۱..... یہ کہ قتل مرتد اور غیر مسلم کرو ہوں کی مذہبی تبلیغ کے بارے میں اسلام کے واقعی احکام کیا ہیں۔

۲..... ہمارے پاس کیا دلائل ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم ان احکام کی معقولیت پر خود مطمئن ہیں اور دوسروں کو مطمئن کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔

آئندہ انہی دونوں امور پر بحث کی گئی ہے۔

مسئلہ قتل مرتد شرعی حیثیت سے

یہ بات اسلامی قانون کے کسی واقف کار آدمی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اسلام میں اس شخص کی سزا قتل ہے جو مسلمان ہو کر پھر کفر کی طرف پلٹ جائے۔ اس باب میں پہلا نک جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا وہ اخنوں صدی کے دور آخر کی تاریک خیالی کا نتیجہ تھا۔ ورنہ اس سے پہلے کامل ہارہ سو برس تک یہ تمام امت کا تفتق علیہ

مسئلہ رہا ہے اور ہمارا پورا دینی لشیجہر شاہد ہے کہ قتل مرتد کے معاملے میں مسلمانوں کے درمیان کبھی دورائیں نہیں پائی گئیں۔ نبی ﷺ مختلف طبقے راشدین، صحابہ کتابار، تابعین، ائمہ مجتہدین اور ان کے بعد ہر صدی کے علماء شریعت کی تصریحات کتابوں میں موجود ہیں۔ ان سب کو جمع کر کے دیکھ لجھے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ دور نبوت سے لے کر آج تک اس مسئلے میں ایک ہی حکم مسلسل و متواتر چلا آ رہا ہے اور گہنیں اس شہر کے لیے کوئی مخالفش نہیں پائی جاتی کہ شاید مرتد کی سزا قتل نہ ہو۔

ایسے ثابت شدہ مسائل کے متعلق جن لوگوں نے موجودہ زمانے کی روشن خیالی سے متاثر ہو کر اختلافی بحث کا دروازہ کھولا ان کی جیارت فی الواقع سخت ہیکیز ہے۔ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر ایسے امور بھی مخلوک ہو جائیں جن کے لیے اس قدر تسلسل اور تواتر کے ساتھ شہادتیں پائی جاتی ہیں تو معاملہ ایک دو مسائل تک محدود کھاں رہتا ہے۔ اس کے بعد تو زمانہ گزشتہ کی کوئی چیز بھی جو ہم تک روایہ پہنچی ہے تک سے محفوظ نہیں رہتی، خواہ وہ قرآن ہو یا نماز یا روزہ۔ بلکہ سرے سے یہی بات مخلوک ہو جاتی ہے کہ آیا محمد ﷺ کبھی دنیا میں مبouth ہوئے بھی تھے یا نہیں۔ اس حتم کے مخلوک پیدا کرنے کے بجائے درحقیقت ان لوگوں کے لیے زیادہ معتقد طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ واقعہ ہے اور مستند شہادتوں سے ثابت ہے اسے واقعہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے اور پھر غور اس امر پر کرتے کہ آیا ہم اس دین کا اتباع کریں یا نہ کریں جو مرتد کی سزا دھاتا ہے۔ اپنے مدھب کی کسی ثابت و مسلم چیز کو اپنے عقلی معياروں کے خلاف پا کر جو شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز سرے سے مدھب میں ہے ہی نہیں وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ”کافرنوں ای شدنا چار مسلمان شو“ کی حالت میں جلتا ہے۔ یعنی اس کا طریق فکر و نظر جس مدھب کے حقیقی راستے سے مخرف ہو چکا ہے، اس میں رہنے پر وہ صرف اس لیے اصرار کر رہا ہے کہ وہ مدھب اس نے باپ دادا سے پیدا ہے۔

حکم قتل مرتد کا ثبوت قرآن سے

ذرائع معلومات کی کمی وجہ سے جن لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ہے کہ شاید اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہ ہو اور بعد کے ”مولویوں“ نے یہ چیز اپنی طرف سے اس دین میں بڑھا دی ہو۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے میں یہاں مختصر اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنُوْزُكُوْنَكُمْ فِي الْبَيْنَ وَنَفَّصُلُ الْأَلْيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
وَإِنْ نَكْفُوا إِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَغَوْنَا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا إِنَّمَّا الْكُفَّارُ أَنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعْنَهُمْ يَنْتَهُونَ.

(التوبہ ۲) ”مگر اگر وہ (کفر سے) توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر رہے ہیں جو جانتے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ عہد (یعنی قبول اسلام کا عہد) کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر زبان طعن دراز کریں تو پھر کفر کے لیڈروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید کہ وہ اس طرح بازا آ جائیں۔“

یہ آیت سورہ توبہ میں جس مسئلے میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ۹۶ میں حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اعلان برأت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس اعلان کا مفاد یہ تھا کہ جو لوگ اب تک خدا اور اس کے رسول سے نہ تے رہے ہیں اور ہر طرح کی زیادتیوں اور بد عہدیوں سے خدا کے دین کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ان کو

اب زیادہ سے زیادہ چار مینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس مدت میں وہ اپنے معاملے پر غور کر لیں۔ اسلام قبول کرنا ہوتا قبول کر لیں، معاف کر دیے جائیں گے۔ ملک چھوڑ کر لفنا چاہیں تو نکل جائیں، مدت مقررہ کے اندر ان سے تعریض نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو لوگ ایسے رہ جائیں گے جنہوں نے نہ اسلام قبول کیا ہوا اور نہ ملک چھوڑا ہو ان کی خبر تکوار سے ملی جائے گی۔ اس طبقے میں فرمایا گیا کہ ”اگر وہ توہبہ کر کے اداۓ نماز و زکوٰۃ کے پابند ہو جائیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، لیکن اگر اس کے بعد وہ پھر اپنا عہد توڑ دیں تو کفر کے لیڈروں سے جنگ کی جائے۔“ یہاں عہد ٹکنی سے مراد کسی طرح بھی سیاسی معاہدات کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ سیاسی عبارت صریح طور پر اس کے معنی ”اقرار اسلام سے پھر جانا“ متین کر دیتا ہے اور اس کے بعد فَقَاتِلُوا أَلْهَمَةَ الْكُفَّارِ کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے کہ تحریک ارتاد کے لیڈروں سے جنگ کی جائے۔

حکم قتل مرتد کا ثبوت حدیث سے

یہ تو ہے قرآن کا حکم۔ اب حدیث کی طرف آئیے۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

(۱) من بدل دینہ فالقتلواه۔ (بخاری ج ۱ ص ۳۲۳ باب لایذب بعذاب اللہ) ”جو شخص (یعنی مسلمان) اپنادین بدل دے اسے قتل کر دو۔“

یہ حدیث حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت خالد بن ولید اور متعدد دوسرے صحابہ سے مردی ہے اور تمام معتبر کتب حدیث میں موجود ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ لا يحل دم امرء مسلم يشهد ان لا الله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني، والمفارق للدينه التارك للجماعة۔ (بخاري كتاب الديدات ج ۲ ص ۱۰۱۶ باب قول الله ان النفس بالنفس و المسلم كتاب القسامه والمحاربين والقصاص و الديدات ج ۲ ص ۵۹ باب ما يباح به دم المسلم، وابوداؤد كتاب الحدود باب الحكم في من ارتد ج ۲ ص ۱۳۸) ”رسول الله ﷺ نے فرمایا جو شخص مسلمان ہوا اور شہادت دیتا ہواں بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی انہیں اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون تین جرام کے سوا کسی صورت میں حلال نہیں: ایک یہ کہ اس نے کسی کی جان لی ہوا اور قصاص کا مستحق ہو گیا ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ شادی شدہ ہوا اور زنا کرے، تیسرا یہ کہ اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔“

(۳) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔

ان رسول الله ﷺ قال لا يحل دم امرء مسلم الا رجل ذنی بعد احصانه او کفر بعد اسلامه او النفس بالنفس (باب ذکر ما یحل به دم المسلم نائب ج ۲ ص ۱۲۵) ”رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں الایہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کی ہو، یا مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کیا ہو، یا کسی کی جان لی ہو۔“

(۴) حضرت عثمانؓ کی روایت ہے۔

سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث، رجل کفر بعد

اسلامہ او زنی بعد احصانہ او قتل نفسا بغير نفس۔ (نائل ج ۲۲ ص ۱۶۵ باب اینا)

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے تھا ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، بجز تین صورتوں کے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا ہو، دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہونے کے بعد اس نے زنا کی ہو، تیسرا یہ کہ وہ قتل کا مرتكب ہو بغیر اس کے کہ اسے جان کے بدے جان لینے کا حق حاصل ہوا ہو۔“

حضرت عثمانؓ سے دوسری روایت ہے:

سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث رجال ذنى بعد احصانه فعليه الرجم او قتل عمداً فعليه القودا او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل.

(نائل ج ۲۲ ص ۱۶۸ باب الحکم فی المرتد)

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے تھا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین جرام کی پاداش میں، ایک یہ کہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو، اس کی سزا سگساری ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی نے عمدًا قتل کا ارتکاب کیا ہو، اس پر قصاص ہے۔ تیسرا یہ کہ کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، اس کی سزا قتل ہے۔“

تاریخ کی تمام معتبر کتابوں سے ثابت ہے کہ یہ حدیث حضرت عثمانؓ نے اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر ہزاروں آدمیوں کے سامنے اس وقت بیان کی تھی جبکہ باغی آپ کے مکان کا محاصروہ کیے ہوئے تھے اور آپ کے قتل کے درپے تھے۔ باغیوں کے مقابلے میں آپ کے استدلال کی بنا یہ تھی کہ اس حدیث کی رو سے تین جرام کے سوا کسی چوتھے جرم میں ایک مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور میں نے ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا ہے، لہذا مجھے قتل کر کے تم لوگ خود مجرم قرار پاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح یہ حدیث حضرت عثمانؓ کے حق میں باغیوں پر صریح جنت بن رہی تھی۔ اگر یہ امر ذرہ برابر بھی مشتبہ ہوتا کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تو سیکھزوں آوازیں بلند ہو جاتیں کہ آپ کا بیان قلط ہے یا مخلکوں ہے، لیکن باغیوں کے پورے مجع میں سے کوئی ایک شخص بھی اس حدیث کی صحت پر اعتراض نہ کر سکا۔

(۵).....حضرت ابو موسی اشرفؓ سے روایت ہے کہ:

ان النبي ﷺ بعده الى اليمن ثم ارسل معاذ بن جبل بعد ذلك فلما قدم قال ايها الناس انی رسول رسول الله اليکم فالقی له ابو موسی و سادة لیجلس علیها فاتی الرجل کان یہود یا فاسلم ثم کفر فقال معاذ لا اجلس حتى یقتل قضاۃ الله و رسوله ثلاث مرات فلما قتل قعد (نائل واللقطة لج ۲۲ ص ۱۶۹، باب حکم المرتد، بخاری ج ۲ ص ۱۰۲۳ باب حکم المرتد والمرتد واستئتم - ابو داود ج ۲ ص ۱۳۸، کتاب المدد بباب الحکم فی من ارتد) ”نیٰ ﷺ نے ان کو (یعنی حضرت ابو موسیؓ کو) یعنی کا حاکم مقرر کر کے بیجا پھر اس کے بعد معاذ بن جبل کو ان کے معاون کی حیثیت سے روانہ کیا جب معاذ وہاں پہنچنے تو انہوں نے اعلان کیا کہ لوگو! میں تمہاری طرف اللہ کے رسول کا فرستادہ ہوں۔ ابو موسیؓ نے ان کے لیے تکمیل کھاتا کہ اس سے نیک لگا کر بیٹھیں۔“ اتنے میں ایک شخص پیش ہوا جو پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا پھر یہودی ہو گیا۔ معاذ نے کہا میں ہرگز نہ بیٹھوں گا جب تک یہ شخص قتل نہ کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا میکی فیصلہ ہے، معاذ نے یہ بات تین دفعہ کی۔ آخراں جب وہ قتل کر دیا گیا تو معاذ بیٹھ گئے۔“

خیال رہے کہ یہ واقعہ نبی ﷺ کی حیات طیبہ میں پیش آیا۔ اس وقت حضرت ابو موسیؓ آنحضرت ﷺ

کے گورنر کی حیثیت میں اور حضرت معاذ و اس درز کی حیثیت میں تھے۔ اگر ان کا یہ فعل واقعی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر منی نہ ہوتا تو یقیناً نبی ﷺ اس پر باز پر فرماتے۔
(۲).....حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے:

کان عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح یکتب لرسول اللہ ﷺ فاز له الشیطان ملحق بالکفار
فامر به رسول اللہ ﷺ ان یقتل یوم الفتح فاست Guar له عثمان ابن عفان فاجاره رسول اللہ . (ابو اورج ۲
ص ۳۷۹ کتاب الحدود، باب الحکم فی مم ارد سن یعنی ج ۸ ص ۳۷۱ حدیث ۱۶۸۲۹ باب ما گرم ب الدم من الاسلام زندقا)
”عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کسی زمانے میں رسول اللہ ﷺ کا کاتب (سیکرٹری) تھا۔ پھر شیطان نے اس کو پھسلا
دیا اور کفار سے جا طا جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے مگر بعد میں حضرت عثمان
نے اس کے لیے پناہ مانگی اور رسول اللہ نے اس کو پناہ دے دی۔“

اس آخری واقعہ کی تعریف حضرت سعد بن ابی وقارؓ کی روایت میں ہم کو یہ ملتی ہے:

لما كان يوم فتح مكة اختبا عبد الله ابن سعد بن ابى سرح عند عثمان بن عفان فجاء به
حتى اوقفه على النبي ﷺ فقال يا رسول الله بابع عبد الله فرفع راسه فنظر اليه ثلثا كل ذالك يابى
قباعده بعد ذلك ثم اقبل على اصحابه فقال اما فيكم رجل رشيد يقول الى هذا حين رأني كففت يدي
عن بيته فيقتله فقالوا ماندرى يا رسول الله ما في نفسك الا اومات هنا بعينك قال الله لا ينفعني
لئن ان تكون له خالتة الاعین . (ابو اورج ۲ ص ۳۷۹ ایضاً سن یعنی ج ۸ حدیث ۱۶۸۲۹ باب من قول فی المرد میتاب)
”جب مکہ فتح ہوا تو عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح نے عثمان بن عفانؓ کے دامن میں پناہ دی۔ عثمانؓ اس کو
لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عبد اللہ کی بیعت قبول فرمائیجئے۔ حضور ﷺ
نے سراغ ہایا اور اس کی طرف دیکھا اور چپ رہے۔ تین دفعہ سبھی ہوا اور آپ ﷺ اس کی طرف بر دیکھ دیکھ کر رہ
جاتے تھے۔ آخر تین دفعہ کے بعد آپ ﷺ نے اس کو بیعت میں لے لیا۔ پھر آپ ﷺ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ
ہوئے اور فرمایا کیا تمہارے اندر کوئی ایسا بھلا آدمی موجود نہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ میں نے بیعت سے باہم
روک رکھا ہے تو آگے بڑھتا اور اس شخص کو قتل کر دیتا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں معلوم نہ تھا کہ
آپ ﷺ کیا چاہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے آنکھ سے اشارہ کیوں نہ فرمادیا؟ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک نبی
کو یہ زیر بخیل دیتا کہ وہ آنکھوں کی چوری کرے۔“

(۷).....حضرت مائبلؓ سے روایت ہے:

ان امراء ارتدت يوم احد فامر النبي ﷺ ان تستتاب فان قاتلت والا قلت.

(دارقطنی ج ۳ ص ۱۱۸ کتاب الحدود والایات)

جنگ احمد کے موقع پر (جبکہ مسلمانوں کو کلکست ہوئی) ایک غورت مرد ہو گئی۔ اس پر نبی ﷺ نے فرمایا
کہ اس سے قوبہ کرائی جائے۔ اور اگر قوبہ نہ کرے تو قتل کر دی جائے۔

(۸).....حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے:

ان امراء بقال لها ام مروان ارتدت فامر النبي ﷺ بان بعرض عليها الاسلام فان رجعت
والا قلت . (دارقطنی ج ۳ ص ۱۱۸ کتاب الحدود سن یعنی ج ۸ ص ۳۵۳ حدیث ۱۶۸۲۲ باب قتل من ارتد من الاسلام) ایک
غورت ام مروان نبی میں مرد ہو گئی تو نبی ﷺ نے حکم دیا کہ اس کے سامنے پھر اسلام پیش کیا جائے، پھر وہ قوبہ کر

لے تو بہتر ورنہ قتل کر دی جائے۔

دارقطنی کی دوسری روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ فابت ان تسلیم فقتلت.....

(دارقطنی ج ۳ ص ۱۱۹ کتاب الحدود)

"اس نے اسلام قبول کرنے سے اکار کیا۔ اس بنا پر قتل کر دی گئی۔"

خلافت راشدہ کے نظائر

اس کے بعد دور خلافت راشدہ کے نظائر طاحظہ ہوں۔

(۱) حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں ایک گورت جس کا نام ام قرذقہا اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس سے توبہ کا مطالبہ کیا۔ مگر اس نے توبہ نہ کی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسے قتل کر دیا۔

(دارقطنی ج ۳ ص ۱۱۳ حدیث نمبر ۱۰۰ کتاب الحدود والدیات سنی تحقیق ج ۸ ص ۳۵۲ حدیث ۱۲۸۷ باب قتل من ارتداعن الاسلام)

(۲) عرو بن عاصؓ حاکم مصر نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ ایک شخص اسلام لایا تھا، پھر کافر ہو گیا۔ پھر اسلام لایا پھر کافر ہو گیا۔ یہ فعل وہ کئی مرتبہ کر چکا ہے۔ اب اس کا اسلام قبول کیا جائے یا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ جب تک اللہ اس سے اسلام قبول کرتا ہے تم بھی کیے جاؤ۔ اس کے سامنے اسلام پیش کرو، مان لے تو چپوز دو ورنہ گردن مار دو۔

(کنز العمال ج ۱ ص ۳۱۲ حدیث ۱۳۶۷ الارتداد و احکام)

(۳) سعد بن ابی وقارؓ اور ابو موسیٰ اشرفؓ نے تسری قیفیت کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس ایک قاصد بیججا۔ قاصد نے حضرت عمرؓ کے سامنے حالات کی رپورٹ پیش کی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کوئی اور غیر معینی بات؟ اس نے عرض کیا ہاں اے امیر المومنین تھے ایک عرب کو پکڑا جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا پھر آپ نے اس کے ساتھ کیا گیا؟ اس نے کہا ہم نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا "تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اسے ایک کرے میں بند کر کے دروازہ کا تینڈا لگانے پھر تین دن تک روزانہ ایک روٹی اس کے پاس بھیجنے رہتے۔ شاید کہ وہ اس دوران میں توبہ کر لیتا۔ خدا یا یہ کام میرے حکم سے نہیں ہوا، نہ میرے سامنے ہوانہ میں اسے سن کر راضی ہوا۔" لیکن حضرت عمرؓ نے اس پر حضرت سعدؓ اور ابو موسیٰ اشرفؓ سے کوئی باز پرس نہیں کی اور نہ کوئی سزا تجویز کی۔ (طحاوی ج ۲ ص ۱۵۵ کتاب امیر مؤطا ص ۲۴۰ باب القضا فیمن ارتداعن الاسلام نیز تحقیق ج ۸ ص ۳۵۹ حدیث ۱۲۸۸ باب من قال بحسب ملاشیل ایام و کتاب الام لمغارفی)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعدؓ اور ابو موسیٰؓ کا فعل حقاً قانون کی حدود کے اندر، لیکن حضرت عمرؓ رائے میں قتل سے پہلے اس شخص کو توبہ کا موقع دینا زیادہ بہتر تھا۔

(۴) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو اطلاع لی کہ فی خنیفہ کی ایک مسجد میں کچھ لوگ شہادت دے رہے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے پولیس بھیجی اور ان کو گرفتار کر کے بلا لیا۔ جب وہ لوگ ان کے سامنے پیش ہوئے تو سب نے توبہ کر لی اور اقرار کیا کہ ہم آئندہ ایسا نہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ نے اور وہ لوگون کو تو چھوڑ دیا مگر ان میں سے ایک شخص نبی اللہ اہن النواحہ کی موت کی سزا دی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک ہی مقدمہ میں دو مختلف فیصلے کیے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ اہن النواحہ وہ شخص ہے جو مسیلمہ کی طرف سے نبی ﷺ کے پاس سفر بر کر آیا تھا۔ میں اس وقت حاضر تھا۔ ایک دوسرਾ شخص مجرم بن وہاں بھی اس کے ساتھ سفارت میں شریک تھا۔ آئحضرت ﷺ نے ان دونوں سے پوچھا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول

ہوں؟ ان دونوں نے جواب دیا کیا آپ گواہ دیتے ہیں کہ مسیلہ اللہ کا رسول ہے؟ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر سفارتی وفد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت عبد اللہ بن کہاں نے اسی وجہ سے ابن النواح کو سزاۓ محنت دی ہے۔ (طحاوی ج ۲ ص ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷ کتاب الحسر)

(اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی حینہ کا فیصلہ ابن النواح اور جبر بن وہاب سمیت پہلے مسلمان ہو چکا۔ پھر مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ لوگ اس کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ اس بنا پر جب نبی ﷺ نے عبد اللہ بن النواح اور جبر بن وہاب سے فرمایا کہ ”اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تحسین قتل کر دیتا۔“ تو اس کا صریح مطلب یہ تھا کہ اس ارتدا کی وجہ سے واجب القتل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اس وقت تو سفیر بن کر آیا ہے اس لیے تمہار پر شریعت کا یہ حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا۔)

واضح رہے کہ یہ واقعہ حضرت عمرؓ کے زمانے کا ہے جبکہ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کے ماتحت کوفہ کے چیف بیج تھے۔

(۵) کوفہ میں چند آدمی پکڑے گئے جو مسیلہ کی دعوت پھیلا رہے تھے۔ حضرت عثمانؓ کو اس باب میں لکھا گیا۔ آپ نے جواب میں لکھا ان کے سامنے دین حق اور شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کی جائے جو اسے قبول کرے اور مسیلہ سے برآٹ کا اظہار کر دے اسے چھوڑ دیا جائے اور جو دین مسیلہ پر رقمم رہے اسے قتل کر دیا جائے۔ (طحاوی ج ۲ ص ۱۱۵ کتاب الحسر)

(۶) حضرت علیؓ کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جو پہلے عیسائی تھا، پھر مسلمان ہوا پھر عیسائی ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری اس روشن کا کیا سبب ہے؟ جواب دیا میں نے عیسائیوں کے دین کو تمہارے دین سے بہتر پایا۔ حضرت علیؓ نے پوچھا عیسیٰ ﷺ کے بارے میں تیری کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا وہ میرے رب ہیں، یا یہ کہا کہ وہ علیؓ کے رب ہیں۔ اس پر حضرت علیؓ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ (طحاوی ج ۲ ص ۱۱۶)

(۷) حضرت علیؓ کو اطلاع دی گئی کہ ایک گروہ عیسائی سے مسلمان ہوا پھر عیسائی ہو گیا۔ حضرت علیؓ نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے سامنے بلوایا اور حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی تھے، پھر ہمیں اختیار دیا گیا کہ عیسائی رہیں یا مسلمان ہو جائیں، ہم نے اسلام کو اختیار کر لیا، مگر اب ہماری رائے یہ ہے کہ ہمارے سیکی دین سے افضل کوئی دین نہیں ہے۔ لہذا اب ہم عیسائی ہو گئے۔ اس پر حضرت علیؓ کے حکم سے یہ لوگ قتل کر دیے گئے اور ان کے بال پہنچے غلام بنا لیے گئے۔ (طحاوی ج ۲ ص ۱۱۶)

(۸) حضرت علیؓ کو اطلاع دی گئی کہ کچھ لوگ آپ کو اپنارب قرار دیتے ہیں۔ آپ نے انہیں بلا کر پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے رب ہیں اور ہمارے خالق و رازق ہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ تمہاری حالت پر انہوں ہے، میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، تمہاری طرح لگھاتا اور پیتا ہوں، اگر اللہ کی اطاعت کروں گا تو وہ مجھے اجر دے گا اور اگر اس کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے سزا دے گا۔ لہذا تم خدا سے ڈرو اور اپنے اس عقیدہ کو چھوڑ دو۔ مگر انہوں نے انکار کیا۔ دوسرے دن قبیر نے آ کر عرض کیا کہ وہ لوگ پھر وہی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں بلا کر دریافت کیا اور انہوں نے وہی سب باتیں دہرا دیں۔ تیری سے روز حضرت علیؓ نے انہیں بلا کر دیکی دی کہ اگر اب تم نے وہ بات کہی تو میں تم کو بدترین طریقہ سے قتل کروں گا، مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخر کار حضرت علیؓ نے ایک گڑھا کھدو دیا، اس میں آگ جلوائی، پھر ان سے کہا، دیکھو اب بھی اپنے اس قول سے باز آ جاؤ درجنہ میں تھیں اس گڑھے میں پھینک دوں گا، مگر وہ اپنے اسی عقیدے پر رقمم رہے۔ تب حضرت علیؓ کے حکم سے وہ سب اس گڑھے میں پھینک دیے گئے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۳۸ باب اعتباۃ المرتدین)

(۹) حضرت علیؑ رحబ کے مقام پر تھے کہ آپ کو ایک شخص نے آکر اطلاع دی کہ یہاں ایک گھر کے لوگوں نے اپنے ہاں ایک بت رکھ چھوڑا ہے اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علیؑ خود وہاں تشریف لے گئے۔ تلاشی لینے پر بت نکل آیا۔ حضرت علیؑ نے اس گھر میں آگ لگادی اور وہ گھر والوں سمیت جل گیا۔

(فتح الباری راج ۱۲ ص ۲۳۸ باب اینا)

(۱۰) حضرت علیؑ کے زمانے میں ایک شخص پکڑا ہوا آیا جو مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا۔ آپ نے اسے ایک مہینہ تک توبہ کی مہلت دی۔ پھر اس سے پوچھا، مگر اس نے قبہ سے انکار کر دیا۔ آخر کار آپ نے اسے قتل کر دیا۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۳۱۳ حدیث ۱۲۷۲ احادیث اور حکایت)

یہ دس نظیریں پورے دور خلافت راشدہ کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چاروں خلقاء کے زمانے میں جب بھی ارتداد کا واقعہ ہیں آیا ہے اس کی سزا قتل ہی دی گئی ہے، اور ان میں سے کسی واقعہ میں بھی نفس ارتداد کے سوا کسی دوسرے جرم کی مشویت ثابت نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ قتل کی سزا دراصل اس جرم پر دی گئی تھی نہ کہ ارتداد پر۔

مرتدوں کے خلاف خلیفہ اول کا جہاد

مگر ان سب نظیریوں سے بڑھ کر وزنی نظیر اہل رذہ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق کا جہاد ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی پوری جماعت شریک تھی۔ اس سے اگر ابتداء میں کسی نے اختلاف کیا بھی تھا تو بعد میں وہ اختلاف اتفاق سے بدل گیا تھا۔ لہذا یہ معاملہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ جن لوگوں نے برہ راست نبی ﷺ سے دین کی تعلیم و تربیت پائی تھی ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ جو گروہ اسلام سے پھر جائے اس کے خلاف اسلامی حکومت کو جنگ کرنی چاہیے۔

بعض لوگ اس جہادی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ مرتدین کی حیثیت دراصل باغیوں کی تھی کیونکہ انہوں نے حکومت کا نیکس (یعنی زکوٰۃ) دینا بند کر دیا تھا اور وہ حکومت کے عاملوں کو الگ کر کے خود اپنی حکومتیں قائم کرنے لگے تھے۔ لیکن یہ توجیہ چاروں جوہ سے قطعی غلط ہے۔

(۱) جہاد جن لوگوں کے خلاف کیا گیا تھا وہ سارے کے سارے مانعین زکوٰۃ ہی نہیں تھے بلکہ ان میں مختلف قسم کے مرتدین شامل تھے۔ کچھ لوگ ان مدعاں نبوت پر ایمان لے آئے تھے جنہوں نے عرب کے مختلف گاؤں میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا کچھ کو محمد ﷺ کی نبوت کا یقین نہ رہا تھا اور وہ کہتے تھے کہ لوکان محمد نبیاً مامات۔ (بدایہ والنھایہ ج ۲ ص ۳۲۷ ذکر رودۃ حل الجریں)

(اگر محمد نبی ہوتے تو مرتبے نہیں) کچھ لوگ تمام ضروریات دین کے قابل تھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ بطور خود جمع اور خرچ کریں گے، ابو بکر کے عاملوں کو نہیں دیں گے۔ کچھ اور لوگ کہتے تھے:

اطعنا	رسول	الله	اذکان	بیننا
فواجعجا	مابال	ملک	ابی	بکر

”ہم نے خدا کے رسول کی بیرونی کر لی جبکہ وہ ہمارے درمیان تھا، مگر مقام حیرت ہے کہ یہ ابو بکر کی حکومت ہم پر کیوں مسلط ہوئی۔“ (بدایہ والنھایہ ج ۲ ص ۳۳۶ فضل فی تهدی المدین لل تعالیٰ اہل الرداء)

گویا انھیں اعتراض اس بات پر تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا اور سب مسلمانوں کو اسی طرح اس مرکز سے والستہ رہنے پر مجبور کیا جائے جس طرح وہ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت سے وابستہ تھے۔ (۲)..... ان سب مختلف قسم کے لوگوں کے لیے صحابہ نے باعثی کے بجائے "مرتد" کا لفظ اور اس ہنگامے کے لیے بغاوت کے بجائے "ارتداد" کا لفظ استعمال کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں وہ اصل جرم جس کے یہ لوگ مرکب ہوئے تھے، ارتداد تھا، نہ کہ بغاوت، جنوب عرب میں جن لوگوں نے لقیط بن مالک الازدی کی نبوت تسلیم کر لی تھی ان کے خلاف حضرت ابو بکرؓ نے عکرمه بن ابی جہل کو جہاد کے لیے روانہ کرتے وقت یہ ہدایت کی تھی کہ و من لقيته من المرتدۃ بين عمان الى حضرموت واليمن فنكـل بـعـان سے حضرموت اور یمن تک جہاں مردوں کو پاؤ چل ڈالا۔ (بدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۳۰)

(۳)..... جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا ان کے معاملے میں جب یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں تو حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا تھا۔ وَاللَّهُ لَا فَاقْتَلُنَّ مِنْ فَرَقٍ بَيْنَ الْمُصْلِحَةِ وَالْزَكُوٰةِ (بدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۳۱) ذکر رہا میں عمان و یمن) (خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے کا میں اس سے جنگ کروں گا) اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ خلیفہ ولائل کی نگاہ میں ان کا اصل جرم یہیں نہ دینا نہیں تھا بلکہ دین اسلام کے دو اہلکان میں سے ایک کو مانتا اور دوسرے کو نہ مانتا تھا اور آخوند کار جس بنا پر صحابہ کرام نے ان مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کے معاملے میں خلیفہ سے اتفاق کیا وہ یہی تھی کہ خلیفہ برحق کے ولائل سے انھیں اس امر کا پورا اطمینان ہو گیا کہ نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرنے کی وجہ سے یہ لوگ دائرہ دین سے باہر کل چکے ہیں۔

(۴)..... ان سب سے بڑھ کر فیصلہ کن چیز سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا وہ فرمان عام ہے جو آپ نے عرب کے مختلف گوشوں میں مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے ۱۰ فوجیں روانہ کرتے وقت ہر فوج کے کمانڈر کو لکھ کر دیا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی (کتاب البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۱۵-۳۱۶) میں یہ پورا فرمان لفظ کیا ہے۔ اس کے حسب ذیل قدرے خاص طور پر قبل غور ہیں:

"تم میں سے جن لوگوں نے شیطان کی بیوی قول کی ہے اور جو اللہ سے بیخوف ہو کر اسلام سے کفر کی طرف پھر گئے ہیں ان کی اس حرکت کا حال مجھے معلوم ہوا، اب میں نے قلاں شخص کو مہاجرین و انصار اور نیک نہاد تائیمین کی ایک فوج کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا ہے اور اسے ہدایت کر دی ہے کہ ایمان کے سوا کسی سے کچھ قول نہ کرے، اور اللہ عز وجل کی طرف دعوت دیے بغیر کسی کو قتل نہ کرے۔ پس جو کوئی اس کی دعوت ای اللہ کو قول کرے گا اور اقتدار کرنے کے بعد اپنا عمل درست رکھے گا اس کے اقتدار کو وہ قول کرے گا اور اسے راہ راست پر چلنے میں مددوے گا اور جو انکار کرے گا اس سے وہ لڑے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ اس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ انکار کرنے والوں میں سے جس پر وہ قابو پائے اسے جیتا نہ چھوڑے۔ ان کی بستیوں کو جلا دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لے اور اسلام کے سوا کسی سے کچھ قول نہ کرے۔ پس جو اس کی بات مان لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو نہ مانے گا وہ اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا۔ میں نے اپنے فرستادہ امیر کو یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ میری اس جھویز کو تمہارے ہر مجتمع میں سنادے اور یہ کہ اسلام قول کرنے کی علامت اذان ہے۔ جہاں سے اذان کی آواز آئے اس بھتی سے تعریض نہ کرو اور جہاں سے یہ آواز نہ آئے وہاں کے لوگوں سے پوچھو کر وہ کیوں اذان نہیں دیتے۔ اگر وہ انکار کریں تو ان پر ثبوت پڑو اور اگر اقتدار

کریں تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جس کے وہ مستحق ہیں۔“

آخر مجتہدین کا اتفاق اب بحث طویل ہو جائے گی اگر ہم پہلی صدی ہجری سے لے کر اس چند ہویں صدی تک کے فقہاء فی تحریریں مسلسل نقل کریں۔ لیکن ہم اتنا کہئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مسئلہ کے جزئیات میں مذاہب اربعہ کے درمیان خواہ کتنا ہی اختلاف ہو، بہر حال بجائے خود یہ مسئلہ کہ ”مرتد کی سزا قتل ہے“ فقة کے چاروں مذاہب میں متفق علیہ ہے۔

امام مانگ ”کامہب ان کی کتاب موطا میں یوں لکھا ہے:

”زید بن اسلم سے مالک نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنا دین بدلتے اس کی گردون مار دو۔ اس حدیث کے متعلق مالک نے کہا جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں نبی ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام سے نکل کر کسی دوسرے طریقے کا ہیرو ہو جائے مگر اپنے کفر کو چھپا کر اسلام کا اظہار کرتا رہے جیسا کہ زندیقوں اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں کا ذہنگ ہے تو اس کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے اور توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے کیونکہ ایسے لوگوں کی توبہ کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور جو شخص اسلام سے نکل کر اعلانیہ کی دوسرے طریقے کی ہیروی اختیار کرے اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، توبہ کر لے تو خود نہ قتل کیا جائے۔“

(موطا مالک باب القضاء فی من ارتدخن الاسلام ص ۲۲۰)

مثالہ کا نہہب ان کی مستند ترین کتاب ”المختن“ میں اس طرح بیان ہوا ہے:

”امام احمد بن حنبل“ کی رائے یہ ہے کہ جو عاقل و بالغ مرد یا عورت اسلام کے بعد کفر اختیار کرے اسے تین دن تک توبہ کی مہلت دی جائے، اگر توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ بھی رائے حسن بصری، زہری، ابراہیم، نجاشی، بکھول، حماد، مالک، لیث، اوزاعی، شافعی اور اسحاق بن راہو یہ کی ہے۔ (جلد ۱ ص ۷۳)

نہہب خنی کی تصریح امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الاحار میں اس طرح کی ہے:

”اسلام سے مرتد ہونے والے شخص کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے یا نہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر امام اس سے توبہ کا مطالبہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر: گردہ شخص توبہ کر لے تو چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ امام ابوحنیفہ، ابویوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ رائے اختیار کی ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ توبہ کا مطالبہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ان کے نزدیک مرتد کی جیشیت حریق کافر کی سی ہے۔ جن حریق کا فروں تک ہماری دعوت مکنی چکی ہے۔ ان کو جگ شروع کرنے سے پیشتر اسلام کی طرف دعوت دینا غیر ضروری ہے، البتہ جنہیں دعوت نہ پہنچی ہو ان پر حملہ آور ہونے سے پہلے جنت تمام کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو شخص اسلام سے ناویقت کی ہے اپنے مرتد ہوا ہو اس کو تو پہلے سمجھا کر اسلام کی طرف واپس لانے کی کوشش کر لئی چاہیے مگر جو شخص سوچ سمجھ کر اسلام سے لکھا ہوا سے توبہ کی دعوت دیے بغیر قتل کر دیا جائے۔ امام ابویوسف کا بھی ایک قول اسی رائے کی تائید میں ہے، چنانچہ وہ کتاب الاطماء میں فرماتے ہیں کہ میں مرتد کو قتل کروں گا اور توبہ کا مطالبہ نہ کروں گا، ہاں اگر وہ خود ہی جلدی کر کے توبہ کر لے تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کروں گا۔“

(طحاوی شرح معانی الاحار ص ۱۱۵)

نہہب خنی کی مزید تصریح ہدایہ میں اس طرح ہے:

”جب کوئی شخص اسلام سے پھر جائے (العیاذ باللہ) تو اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے۔ اگر اسے کوئی شبہ ہوتا سے صاف کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بہت ممکن ہے وہ کسی شبہ میں جتنا ہوا اور ہم اس کا شبہ دور کر دیں تو اس کا شرایک بذریعہ صورت (یعنی قتل) کے بجائے ایک بذریعہ صورت (یعنی دوبارہ قول اسلام) سے رفع ہو جائے گر مشارع فقہاء کے قول کے مطابق اس کے سامنے اسلام پیش کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ اسلام کی دعوت تو اس کو پہنچ چکی۔“ (ہدایہ ح۲۴ ص۵۶۵ باب احکام المرتدین)

اُنسوں ہے کہ فقہ شافعی کی کوئی معتبر کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے گر ہدایہ میں ان کا جو نہ ہب نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے:

”شافعی سے منقول ہے کہ امام کو لازم ہے کہ مرتد کو تین دن کی مہلت دے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسے قتل کر دے۔ کیونکہ ایک مسلمان کا ارتاد بظاہر کسی شبہ ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک مدت ضرور ہوئی چاہیے، جس میں اس کے لیے غور و تامل کا موقع ہوا اور ہم اس غرض کے لیے تین دن کافی سمجھتے ہیں۔“ (ہدایہ ح۲۴ ص۵۶۵ باب احکام المرتدین)

غائب ان شہادتوں کے بعد کسی شخص کے لیے اس امر میں شبہ کرنے کی کوئی مجبویت باقی نہیں رہتی کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے اور یہ سزا نفس ارتاد کی ہے نہ کہ کسی اور جرم کی جوارہ ارتاد کے ساتھ شامل ہو گیا ہو۔

بعض لوگ حدیث اور فقہ کی باتیں سن کر یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ سزا کہاں لکھی ہے؟ ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے اگرچہ ہم نے اس بحث کی ابتداء میں قرآن کا حکم بھی بیان کر دیا ہے، لیکن اگر بالغرض یہ حکم قرآن میں نہ بھی ہوتا تو حدیث کی لیش التعداد روایات، خلافتے راشدین کے فیصلوں کی نظریں اور فقہاء کی متفقہ رائیں اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے بالکل کافی تھیں۔ مشوتو حکم کے لیے ان چیزوں کو ناکافی سمجھ کر جو لوگ اس کا خواہ قرآن سے مانگتے ہیں ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ تمہاری رائے میں کیا اسلام کا پورا قانون تحریرات وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے؟ اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو گویا تم کہتے ہو کہ قرآن میں جن افعال کو جرم قرار دے کر سزا تجویز کر دی گئی ہے ان کے مساوا کوئی فعل اسلامی حکومت میں جرم مستلزم سزا نہ ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ غور کرلو۔ کیا اس قاعدے پر تم دنیا میں کوئی حکومت ایک دن بھی کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہو؟ اور اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور تم خود بھی تسلیم کرتے ہو کہ قرآن کے بیان کردہ جرائم اور سزاوں کے علاوہ اسلامی نظام حکومت میں دوسرے جرائم بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے تفصیلی قانون تحریرات کی ضرورت ہے، تو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قانون نبی ﷺ اور خلافتے راشدین کی حکومت میں رائج تھا اور جس کو مسلسل تیرہ سو سو تک تمام امت کے نجی، بحسرتی اور علماۓ قانون بالاتفاق تسلیم کرتے رہے ہیں، آیا وہ اسلامی قانون کھلانے کا زیادہ مسحت ہے یا وہ قانون جسے آج چند ایسے لوگ تجویز کریں جو غیر اسلامی علوم اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن سے مغلوب و متأثر ہیں اور جن کو اسلامی علوم کی ادھوری تعلیم بھی میسر نہیں آئی ہے؟

دارالاسلام میں تبلیغ کفر کا مسئلہ

یہاں تک ہماری بحث پہلے سوال سے متعلق تھی، یعنی یہ کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے یا نہیں۔ اب ہم دوسرے سوال کو لیتے ہیں جسے سائل نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے:

”کیا ایک صحیح اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں کو اپنے مذاہب کی تبلیغ کا حق اسی طرح ہو گا جس

طرح مسلمانوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہوتا چاہیے؟ کیا خلافت راشدہ اور بعد کی خلافتوں کے تحت کفار واللہ کتاب کو اپنے مذاہب کی تبلیغ کا حق حاصل تھا؟“

اس مسئلہ کا فیصلہ بڑی حد تک تو قتل مرتد کے قانون نے خود ہی کر دیا ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے حدود اقتدار میں کسی ایسے شخص کو جو مسلمان ہو اسلام سے نکل کر کوئی دوسرا مذہب و مسلک قبول کرنے کا ”حق“ نہیں دیتے تو لامحالہ اس کے معنی بھی ہیں کہ ہم حدود وار الاسلام میں اسلام کے بال مقابل کسی دوسری دعوت کے اٹھنے اور پھیلنے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ دوسرے مذاہب و ممالک کو تبلیغ کا ”حق“ دیتا، اور مسلمان کے لیے تبدیل مذہب کو جرم تھہراتا، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور موخر الذکر قانون مقدم الذکر چیز کو خود بخود کا الحدم کر دیتا ہے، لہذا قتل مرتد کا قانون فی نفعہ یہ تجویز نکالنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام اپنے حدود اقتدار میں تبلیغ کفر کا روادار نہیں ہے۔

لیکن ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کو تبلیغ کفر کے اثرات سے محفوظ رکتا ہے، اس کے بعد یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ آیا اسلام اپنے حدود میں رہنے والے غیر مسلموں اور باہر سے آنے والے داعیوں وغیر مسلم آبادی میں اپنے مذاہب و ممالک کی دعوت پھیلانے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ کی تحقیق اس سوال کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے حقیقی موقف اور اسلامی حکومت کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔

اسلام کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ خود ایک راستہ نوع انسانی کے سامنے پیش کرتا ہے اور پوری قطعیت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ بھی میرا راستہ صحیح ہے اور دوسرے سب راستے غلط ہیں، اسی میں انسان کی فلاح ہے اور دوسرے راستوں میں انسانیت کے لیے جاہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا اسی راہ پر سب لوگوں کو آنا چاہیے اور دوسرے راستوں کو چھوڑ دینا چاہیے:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطُنِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَبْغُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ (انعام ۱۹) اور یہ کہ میرا یہ راستہ ہی ایک سیدھا راستہ ہے جس تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔

اس کی نگاہ میں ہر وہ طریق فکر و عمل جس کی طرف کوئی غیر مسلم دعوت دیتا ہے، گمراہی ہے اور اس کی پیروی کا تجھے انسان کے لیے نقصان اور خالص نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

أُولُوكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔ (ابقرہ ۲۷) وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔

اس دعوے اور اس دعوت میں اسلام اپنے اندر کوئی باطنی تذبذب نہیں رکھتا۔ وہ اس شک میں جتنا ہیں ہے کہ شاید کوئی دوسرਾ راستہ بھی حق اور موجب فلاح انسانیت ہو۔ اس کو اپنے برق اور دوسری تمام راہوں کے باطل ہونے کا پورا یقین ہے۔ وہ وُوق اور اخلاق اور سجادگی کے ساتھ بھی سمجھتا ہے کہ اور سب راستے انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اور صرف اس کا اپنا ہی راستہ انسان کے لیے ایک راہ نجات ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جب اسلام کا اصل موقف یہ ہے تو اس کے لیے اس بات کو پسند کرنا تو درکنار، گوارا کرنا بھی سخت مشکل ہے کہ مرنی آدم کے اندر وہ دعوئیں پھیلیں جو ان کو ابتدی جاہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ وہ

واعیان باطل کو اس امر کا کھلا لائنس نہیں دے سکتا کہ وہ جس آگ کے گڑھ کی طرف خود جا رہے ہیں ابی کی طرف دوسروں کو بھی کھینچیں۔ زیادہ سے زیادہ جس چیز کو وہ بادل ناخواستہ گوارا کرتا ہے وہ بس یہ ہے کہ جو شخص خود کفر پر قائم رہنا چاہتا ہوا سے اختیار ہے کہ اپنی فلاں کے راستے کو چھوڑ کر اپنی بر بادی کے راستے پر چلتا رہے اور یہ بھی وہ صرف اس لیے گوارا کرتا ہے کہ زبردستی کسی کے اندر ایمان اتار دینا قانون قسطر کے تحت ممکن نہیں ہے۔ ورنہ انسانیت کی خیر خواہی کا اقتضا یہ تھا کہ اگر کفر کے زہر سے لوگوں کو نجیر بچانا ممکن ہوتا تو ہر اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا جو اس زہر کا پیالہ پی رہا ہو۔ اس جری خلافت اور نجات دہندگی سے اسلام کا احتساب اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ جاہی کے گڑھ کی طرف جانے کو لوگوں کا "حق" سمجھتا ہے اور انھیں روکنے اور بچانے کو "باطل" خیال کرتا ہے، بلکہ اس کا خیر سے اس کے احتساب کی وجہ صرف یہ ہے کہ خدا نے جس قانون پر کائنات کا موجودہ نظام بنایا ہے اس کی رو سے کوئی شخص کفر کے جاہ کن تائج سے نہیں بچایا جاسکتا، جب تک کہ وہ خود کافرانہ طرز کفر و عمل کی غلطی کا قائل و مخترف ہو کر مسلمانہ رو یہ اختیار کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اور صرف اسی لیے اسلام اللہ کے بندوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ جاہی و بر بادی یعنی کے راستے پر چلتا چاہتے ہوں تو چلیں۔ لیکن اس سے یہ امید کرنا عمیق ہے کہ وہ اس اختیار کے ساتھ ان خود کشی کرنے والوں کو یہ اختیار بھی دے گا کہ جس جاہی کی طرف وہ خود جا رہے ہیں اس کی طرف دوسرے بندگان خدا کو بھی چلنے کی ترغیب دیں۔ جہاں اس کا بس نہیں چتا وہاں تو وہ مجبور ہے، لیکن جہاں اس کی اپنی حکومت قائم ہو اور اللہ کے بندوں کی فلاں و بہبود کا ذمہ اس نے لما ہو وہاں اگر چوری اور ڈاکے اور فیبے گری اور افسون نوشی اور زہر خوری کی تبلیغ کا لائنس دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس سے بدر جہا زیادہ مہلک چیز کفر و شرک اور دہریت اور خدا سے بغاوت کی تبلیغ کا لائنس دینا اس کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟

اسلامی حکومت کا بنیادی مقصد

اسلام جس غرض کے لیے اپنی حکومت قائم کرتا ہے وہ شخص انتظام ملکی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک واضح اور تینیں مقصد ہے جسے وہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَنَذِيرٍ لِّلْمُظْهَرِةِ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.
(انویبہ ۵) وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بیجا تاکہ اسے پوری جس دین پر غالب کر دے، خواہ شرک کرنے والوں کو یہ کتابی نا گوار ہو۔

وَلَأَنَّلُوْهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَلَمْ يَكُونُ الَّذِينَ كُلَّهُ لِلَّهِ. (الانفال ۵) اور تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔

وَكَذَإِلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةً وَسَطَا لِنَكُونُوا فَهَذَا عَلَى النَّاسِ وَلَمْ يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
(ابقرہ ۱۳۳) اور اس طرح ہم نے تم کو ایک امت و سط (بہترین گروہ) بنادیا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔

ان آیات کی رو سے مفہیم کے مبنی کا اصل مدعایہ ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے اسے ہر اس نظام زندگی کے مقابلے میں غالب کر دے جو "دین" کی نوعیت رکھتا ہو۔ اس سے لامحالہ یہ بات لازم آتی ہے کہ جہاں مفہیم کو اپنے اس مبنی میں کامیابی حاصل ہو جائے وہاں وہ کسی ایسی دعوت کو نہ اٹھنے

دے جو خدا کی ہدایت اور اس کے دین کے مقابلے میں کسی دوسرے دین یا نظام زندگی کے غلبے کی کوشش کرنا چاہتی ہو۔

پیغمبر کے بعد جس طرح اس کے جانشین اس دین کے وارث ہوتے ہیں جو وہ خدا کی طرف سے لایا تھا، اسی طرح وہ اس مشن کے بھی وارث ہوتے ہیں جس پر اللہ نے اسے مامور کیا تھا۔ ان کی تمام جدوجہد کا مقصد یہ یقین رپاتا ہے کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے مخصوص ہو۔

لہذا جہاں معاملات زندگی ان کے قبضہ اختیار میں آ جائیں، اور جس ملک یا جس سرزمیں کے انتظام کے متعلق انھیں پوری طرح خدا کے سامنے ذمہ دارانہ گواہی دینی ہو، وہاں ان کے لیے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی حفاظت و گیرانی میں خدا کے دین کے بالمقابل کسی دوسرے دین کی دعوت کو پھیلنے کا موقع دیں۔ اس لیے کہ ایسا موقع دینے کے متنی لازماً یہ ہیں کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے نہ ہونے پائے اور کسی غلط نظام زندگی کا فتنہ اگر باقی ہے تو وہ اور زیادہ بڑھے۔ آخر وہ خدا کے سامنے گواہی کسی چیز کی دیں گے کیا اس چیز کی کہ جہاں تو نے ہمیں حکمرانی کی طاقت بخشی تھی وہاں ہم تیرے دین کے مقابلے میں ایک فتنہ کو سراخانے کا موقع دے آئے ہیں؟

دارالاسلام میں ذمیوں اور مسلمانوں کی حیثیت

اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو اپنے دین پر قائم رہنے کی جو آزادی بخشی تھی ہے اور جزیہ کے معاوضے میں ان کی جان و مال اور ان کی مذہبی زندگی کے تحفظ کا جو ذمہ دیا گیا ہے اس کا مآل زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہے کہ جس طریقے پر وہ خود چنانا چاہتے ہیں اس پر چلتے رہیں۔ اس سے تجاوز کر کے اگر وہ اپنے طریقے کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی اسلامی حکومت جو اس نام سے موسم کیے جانے کے قابل ہو، انھیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی۔ جزیہ کا قانون قرآن مجید کی جس آیت میں بیان ہوا ہے اس کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ **حُتَّى يَعْطُوا الْجِزِيرَةَ عَنْ بَيْدُو هُمْ صَاغِرُونَ** (توبہ ۲۹) (یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں) اس آیت کی رو سے ذمیوں کی صحیح پوزیشن اسلامی حکومت میں یہ ہے کہ وہ ”صاغرون“ بنے پر راضی ہوں۔ ”کابر وون“ بنے کی کوشش وہ ذمی ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے، اسی طرح باہر سے آنے والے غیر مسلم جو مسلمان کی حیثیت سے دارالاسلام میں داخل ہوں، تجارت، صنعت و حرف، سیاست، حصول تعلیم اور دوسرے قام تمدنی مقاصد کے لیے تو ضرور آ سکتے ہیں، لیکن اس غرض کے لیے ہرگز نہیں آ سکتے کہ اللہ کے کلمہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلمہ بلند کریں۔ اللہ نے کفار کے خلاف جو مدد اپنے پیغمبر کو اور اس کے بعد مسلمانوں کو دی یا آئندہ دے گا، اور جس کے نتیجے میں دارالاسلام پہلے قائم ہوا یا آئندہ بھی قائم ہو گا۔ اس کی غرض صرف یہ تھی اور آئندہ بھی بھی ہو گی کہ کفر کا بول بیجا ہو اور اللہ کا بول بالا ہو کر رہے۔ **فَأَنَّزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِحَنْدُدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا** (توبہ ۳۰) پس مسلمان خخت احсан فرماؤں اور کافر نعمت ہوں گے اگر اللہ کی اس مدد سے فائدہ اٹھانے کے بعد وہ اپنے حدود اختیار میں **كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا** کو سفلی سے پھر غلیباً ہونے کے لیے کوشش کرنے دیں۔

دینی نبوت اور خلافت راشدہ کا طرزِ عمل

بیانیہ اور خلافت راشدین کے زمانے میں حکومت کی مستقل پالیسی بھی تھی جو اپر بیان ہوئی۔ عرب

میں مسلمہ، اسود عنی، طیجہ اسدی، سجاج، لقیط بن مالک ازدی اور ان کے سوا جو بھی اسلام کے مقابلے پر کوئی دعوت لے کر اٹھا، اسے فوراً دبا دیا گیا۔ جن غیر مسلم قوموں نے جزیہ پر معاہدہ کر کے اسلامی حکومت میں ذی بن کر رہنا قبول کیا ان میں سے اکثر کے معاہدے لفظ پر لفظ حدیث باہر تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں تمام حقوق و مراحتات کی تفصیل پائی جاتی ہے مگر اس ”حق“ کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی دعوت حدود دار الاسلام میں پھیلا سکیں گی۔ جن غیر مسلموں کو مسلمانوں نے خود اپنی فیاضی سے ذمیت کے حقوق عطا کیے، ان کے حقوق کی تفصیل بھی فتحہ کی کتابوں میں موجود ہے مگر اس نام نہاد ”حق“ کے ذکر سے وہ بھی خالی ہیں۔ مستامن بن کر باہر سے آنے والے غیر مسلموں کے ساتھ حکومت اسلامی کا معاملہ جیسا کچھ بھی ہوتا چاہیے اس کو فقهاء نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں بھی کہیں کوئی اشارہ تک ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ اسلامی حکومت کسی ایسے شخص کو آ کر اپنے حدود میں کام کرنے کی اجازت دے سکتی ہے جو کسی دوسرے مذہب و مسلک کا پرچار کرنا چاہتا ہو۔ اب اگر بعد کے دنیا پرست ”خلفاء اور بادشاہوں نے اس کے خلاف کوئی عمل کیا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ وہ دراصل اس کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ ایک حقیقی اسلامی حکومت کے فرائض سے ناواقف یا ان سے مخالف ہو چکے تھے۔ ”رواداری“ کے موجودہ تصور کو جن لوگوں نے معیار حق سمجھ رکھا ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ بادشاہوں کے یہ کارنائے دادطبی کے لیے غیر مسلموں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں مسلمان بادشاہ نے غیر مسلم معبدوں اور مدرسوں کے لیے اتنی جائیدادیں وقف کیں، اور فلاں کے دور میں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو اپنے اپنے دین کے پرچار کی پوری آزادی حاصل تھی، مگر اسلامی نقطہ نظر سے یہ سب کارنائے ان بادشاہوں کے جرام کی فہرست میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔

قل مرتد پر عقلی بحث

اب ہمیں سوال کے دوسرے پہلو سے بحث کرنی ہے، یعنی یہ کہ اگر اسلام میں واقعی مرتد کی سزا قتل ہے اور وہ فی الواقع اپنے حدود میں کسی حریف دعوت کے اٹھنے اور پھیلنے کا روادار نہیں ہے، تو ہمارے پاس وہ کیا دلائل ہیں جن کی بنا پر ہم اس کے اس روایہ کو صحیح اور معقول سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم پہلے قتل مرتد کے مسئلہ پر گفتگو کریں گے پھر تین کفر کی ممانعت کے سوال کو لیں گے۔

معترضین کے دلائل قتل مرتد پر زیادہ سے زیادہ جو اعتراضات ممکن ہیں وہ یہ ہیں:

اولاً، یہ چیز آزادی خیر کے خلاف ہے۔ ہر انسان کو یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ جس چیز پر اس کا قلب مطمئن ہوا سے قبول کرے اور جس چیز پر اس کاطمیان نہ ہوا سے قبول نہ کرے۔ یہ آزادی جس طرح ایک مسلک کو ابتداء قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملہ میں ہر آدمی کو ملکی چاہیے اسی طرح ایک مسلک کو قبول کرنے کے بعد اس پر قائم رہنے یا نہ رہنے کے معاملہ میں بھی حاصل ہونی چاہیے جو شخص کسی مسلک کی پیروی اختیار کرنے کے بعد اسے چھوڑنے پر آمادہ ہوتا ہے وہ آخر ای بنا پر تو آمادہ ہوتا ہے کہ پہلے اس مسلک کے برحق ہونے کا جو یقین اسے تھا وہ اب نہیں رہا۔ پھر یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ عدم یقین کی بنا پر جب وہ اس مسلک کو چھوڑنے کا ارادہ کرے تو اس کے سامنے پھانسی کا تختہ پیش کر دیا جائے؟ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ تم جس شخص کی رائے دلائل سے نہیں بدلتے اس کو موت کا خوف دلا کر مجبور کرتے ہو کہ اپنی رائے بدلتے اور اگر وہ نہیں بدلتا تو اسے اس بات کی سزا دیتے ہو کہ اس نے اپنی رائے کیوں نہ بدلتی؟

ٹانیا، جو رائے اس طرح جبرا بدی جائے، یا جس رائے پر سزاۓ موت کے خوف سے لوگ قائم رہیں وہ بہر حال ایمان دار نہ رائے تو نہیں ہو سکتی۔ اس کی حیثیت مخفی ایک ایسے مناقفانہ اظہار رائے کی ہو گی جسے جان بچانے کے طور پر اختیار کیا گیا ہو۔ آخر اس مکاری و مناقفت سے ایک مذہب کس طرح مطمئن ہو سکتا ہے؟ مذہب و مسلک خواہ کوئی سا بھی ہو، اس کی پیروی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آدمی پچ دل سے اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور ایمان ظاہر ہے کہ زبردستی کسی کے اندر پیدا نہیں کیا جاسکتا نہ زبردستی باقی رکھا جاسکتا ہے۔ زور زبردستی سے آدمی کی گروہ ضرور جھکوائی جاسکتی ہے لیکن دل و دماغ میں اعتقاد و یقین پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا جو شخص اندر سے کافر ہو چکا ہو وہ اگر سزاۓ موت سے نجیع کے لیے مناقفانہ طریقے سے بظاہر مسلمان بنا رہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نہ وہ اسلام کا صحیح پیروہ ہو گا، نہ خدا کے ہاں یہ ظاہری اسلام اس کی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے اور نہ ایسے شخص کے شامل رہنے سے مسلمانوں کی جماعت میں کسی صالح غصہ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔

حالاً، اگر اس قاعدے کو تسلیم کرایا جائے کہ ایک مذہب ان تمام لوگوں کو اپنی پیروی پر مجبور کرنے کا حق رکھتا ہے جو ایک مرتبہ اس کے حلقة اتباع میں داخل ہو چکے ہوں اور اس کے لیے اپنے دارہ سے نکلنے والوں کو سزاۓ موت دینا جائز ہے، تو اس سے تمام مذاہب کی تبلیغ و اشاعت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور خود اسلام کے راستے میں بھی یہ چیز سخت رکاوٹ بن جائے گی کیونکہ جتنے انسان ہیں وہ بہر حال کسی نہ کسی مذہب و مسلک کے پیرو ضرور ہیں، اور جب ہر مذہب ارتاد کی سزا قتل تجویز کرے گا تو صرف یہی نہ ہو گا کہ مسلمانوں کے لیے کسی دوسرے مذہب کو قبول کرنا مشکل ہو گا بلکہ اسی طرح غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کو قبول کرنا مشکل ہو جائے گا۔

رابعًا، اس معاملے میں اسلام نے بالکل ایک مقاومت رویہ اختیار کیا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ دین میں جبرا کراہ کا کوئی کام نہیں (لَا إِكْرَاهٌ فِي الْإِيمَانِ) (بقر، ۲۵۶)، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے (فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفُرْ) (کہف، ۲۹) دوسری طرف وہ خود ہی اس شخص کو سزاۓ موت کی دھمکی دیتا ہے جو اسلام سے نکل کر کفر کی طرف جانے کا ارادہ کرے۔ ایک طرف وہ نفاق کی سخت نہ مت کرتا ہے اور اپنے پیروؤں کو صادق الایمان دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف وہ خود ہی ایسے مسلمانوں کو جن کا اعتقاد اسلام پر سے اٹھ گیا ہے موت کا خوف دلا کر مناقفانہ اظہار ایمان پر مجبور کرتا ہے۔ ایک طرف وہ ان غیر مسلموں کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہے جو اپنے ہم مذہبوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ دوسری طرف وہ خود مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تمہارے ہم مذہبوں میں سے جو کسی دین پر مجبور کرنا پڑا کر اپنے دین کے جس مسئلے پر مخترضین کی گرفت ہار مان کر لکھتے خوردہ لوگوں کی اس پرانی پالیسی پر عمل کرنا پڑا کر اپنے دین کے جس مسئلے پر مخترضین کی گرفت مضمبوط پڑے اسے اپنی کتاب آئین میں سے چھیل ڈالو اور صاف کہہ دو کہ یہ مسئلہ سرے سے ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ رہا دوسرا گروہ جس کے لیے پہلے گروہ کی طرح حقیقت کا انکار کر دینا ممکن نہ تھا، سو اس نے امر واقعی کے اظہار کا حق تو ادا کر دیا، لیکن ان عقلی اعتراضات کا کوئی معقول جواب اس سے بن نہ پڑا جی کہ اس کی کمزور دلیلوں سے رائج العقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ قتل مرتد کا حکم اسلام میں ہے تو ضرور گمراہے معقول ثابت کرنا مشکل ہے مجھے خوب یاد ہے کہ اس سے تقریباً ۱۸ برس پہلے جب ہندوستان میں ایک موقع پر قتل مرتد کا مسئلہ زور شور سے چھڑ گیا تھا اور چاروں طرف سے اس پر اعتراضات کی بوجھاڑ ہوئی تھی، اس وقت مولانا

محمد علی مرحوم جیسا پا مسلمان بھی ان دلائل سے فکست کھائے بغیر نہ رہ سکا۔ علماء میں سے متعدد بزرگوں نے اس موقع پر اصل مسئلہ شرعی کو تو اسی طرح بیان کیا جیسا کہ اس کا حق تھا، مگر عقلی اعتراضات کے جواب میں اسکی بے جان دلیلیں پیش کیں گیں جن سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید وہ خود بھی اپنے دلوں میں اس مسئلے کو عقلی حیثیت سے کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ اس ضعیف مدافعت کے اثرات آج تک باقی ہیں۔

ایک بنیادی غلط فہمی حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی حیثیت فی الواقع اسی معنی میں ایک "نمہب" لی ہوئی جس معنی میں یہ لفظ آج تک بولا جاتا ہے تو یقیناً اس کا ان لوگوں کے لیے قتل کی سزا تجویز کرنا سخت غیر معقول فعل ہوتا جو اس کے اصولوں سے غیر مطین ہو کر اس کے دائروں سے باہر لکھنا چاہیں۔ نمہب کا موجودہ تصور یہ ہے کہ وہ مابعد الطیبی مسائل کے متعلق ایک عقیدہ و خیال ہے جسے آدمی اختیار کرتا ہے اور حیات بعد الموت میں نجات حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جس پر انسان اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ رعنی سوسائٹی کی تنظیم اور معاملات دنیا کی انجام دہی اور ریاست کی تکمیل تو وہ ایک خالص دینیوی معاملہ ہے جس کا نمہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس تصور کے مطابق نمہب کی حیثیت صرف ایک رائے کی ہے، اور رائے بھی اسی جو زندگی کے ایک بالکل ہی دور از کار پہلو سے تعلق رکھتی ہے، جس کے قائم ہونے اور بدلتے کا کوئی قابل لحاظ اثر حیات انسانی کے بڑے اور اہم شعبوں پر نہیں پڑتا۔ اسکی رائے کے معاملے میں آدمی کو آزاد ہونا ہی چاہیے۔ کوئی معقول وجہ نہیں کہ امور مابعد الطیبیت کے بارے میں ایک خاص رائے کو اختیار کرنے میں تو وہ آزاد ہو، مگر جب اس کے سامنے کچھ دوسرے دلائل آئیں جن کی بنا پر وہ سابق رائے کو غلط محسوس کرنے لگے تو اس کے بدلتے دینے میں وہ آزاد نہ ہو اور اسی طرح کوئی وجہ نہیں کہ جب ایک طریقہ کی پیروی میں اسے اپنی نجات اخروی کی توقع ہو تو اسے اختیار کر سکے اور جب وہ محسوس کرے کہ نجات کی امید اس راستے میں نہیں، کسی دوسرے راستے میں ہے تو اسے بچھلے راستے کو چھوڑنے اور نئے راستے کے اختیار کر لینے کا حق نہ دیا جائے۔ پس اگر اسلام کی حیثیت بھی ہوئی جو نمہب کی حیثیت آج کل قرار پائی ہے تو اس سے زیادہ ہا معقول کوئی بات نہ ہوتی کہ وہ آئنے والوں کے لیے تو اپنا دروازہ کھلا رکھے مگر جانے والوں کے لیے دروازے پر جلا دیخاوے۔

لیکن دراصل اسلام کی یہ حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ اصطلاح جدید کے مطابق مخفی ایک "نمہب" نہیں ہے بلکہ ایک پورا نظام زندگی ہے۔ اس کا تعلق صرف مابعد الطیبیت ہی سے نہیں ہے بلکہ طبیعت اور مافی الطیبیت سے بھی ہے۔ وہ مخفی حیات بعد الموت کی نجات ہی سے بھی نہیں کرتا بلکہ حیات قبل الموت کی فلاحت و بہتری اور تکمیل سچی کے سوال تے بھی بحث کرتا ہے اور نجات بعد الموت کو اسی حیات قبل الموت کی تکمیل سچی پر منحصر قرار دیتا ہے۔ مانا کہ پھر بھی وہ ایک رائے ہی ہے، مگر وہ رائے نہیں جو زندگی کے کسی دور از کار پہلو سے تعلق رکھتی ہو بلکہ وہ رائے جس کی بنیاد پر پوری زندگی کا نقشہ قائم ہوتا ہے۔ وہ رائے نہیں جس کے قائم ہونے اور بدلتے کا کوئی قابل لحاظ اثر زندگی کے بڑے اور اہم شعبوں پر نہ پڑتا ہو بلکہ وہ رائے جس کے قیام پر تمدن اور ریاست کا قیام منحصر ہے اور جس کے بدلتے کے معنی نظام تمدن و ریاست کے بدل جانے کے ہیں۔ وہ رائے نہیں جو صرف انفرادی طور پر ایک شخص اختیار کرتا ہو بلکہ وہ رائے جس کی بنا پر انسانوں کی ایک جماعت تمدن کے پورے نظام کو ایک خاص مسئلہ پر قائم کرتی ہے اور اسے چلانے کے لیے ایک ریاست وجود میں لاتی ہے۔ اسکی رائے اور ایسے نظریہ کو انفرادی آزادیوں کا کھلونا نہیں میا جاسکتا، نہ اس جماعت کو جو اس رائے پر تمدن و ریاست کا نظام قائم

کرتی ہے، رہگور بنا یا جا سکتا ہے کہ جب فضائے دماغی میں ایک لہر اٹھے تو اس میں داخل ہو جائیے اور جب دوسرا لہر اٹھے تو اس سے نکل جائیے اور پھر جب بھی چاہے اندر آئیے اور جب چاہے باہر چلے جائیے۔ یہ کوئی کھیل اور تفریق نہیں ہے جس سے بالکل ایک غیر ذمہ دارانہ طریقہ پر دل بھلا کیا جائے۔ یہ تو ایک نہایت سمجھیدہ اور انہنہی نزاکت رکھنے والا کام ہے جس کے ذرا ذرا سے نشیب و فراز سوسائٹی اور اسٹیٹ کے نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس کے بننے اور بگڑنے کے ساتھ لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کی زندگیوں کا بناواد اور بگاڑ وابستہ ہوتا ہے، جس کی انجام دہی میں ایک بہت بڑی جماعت اپنی زندگی و موت کی بازی لگاتی ہے۔ اسی رائے اور اسی رائے رکھنے والی جماعت کی رکنیت کو انفرادی آزادیوں کا کھلونا دینا میں کب بنا یا گیا ہے اور کون بناتا ہے کہ اسلام سے اس کی توقع رکھی جائے۔

منظلم سوسائٹی کا فطری اقتضا ایک منظم سوسائٹی جو ریاست کی شکل اختیار کر چکی ہو ایسے لوگوں کے لیے اپنے حدود میں بھیکل ہی گھبائش نکال سکتی ہے جو بنیادی امور میں اس سے اختلاف رکھتے ہوں۔ فروعی اختلافات تو کم و بیش برداشت کیے جاسکتے ہیں لیکن جو لوگ سرے سے ان بنیادوں ہی سے اختلاف رکھتے ہوں جن پر سوسائٹی اور ریاست کا نظام قائم ہوا ہو، ان کو سوسائٹی میں جگہ دینا اور اسٹیٹ کا جز بھاناخت مشکل ہے۔ اس معاملے میں اسلام نے جتنی رواداری برقراری ہے، دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی دوسرے نظام نے نہیں برقراری۔ دوسرے جتنے نظام ہیں وہ اساسی اختلاف رکھتے والوں کو یا تو زبردستی اپنے اصولوں کا پابند بناتے ہیں یا انھیں بالکل فنا کر دیتے ہیں۔ وہ صرف اسلام ہی ہے جو ایسے لوگوں کو ذمی بنا کر اور انھیں زیادہ سے زیادہ حکم آزادی عمل دے کر اپنے حدود میں جگہ دینا ہے اور ان کے بہت سے ایسے اعمال کو برداشت کرتا ہے جو براو راست اسلامی سوسائٹی اور اسٹیٹ کی اساس سے متصادم ہوتے ہیں۔ اس رواداری کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام انسانی فطرت سے مالیوں نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندوں سے آخر وقت تک یہ امید وابستہ رکھتا ہے کہ جب انھیں دین حق کے ماتحت رہ کر اس کی نعمتوں اور برکتوں کے مشاہدہ کا موقع ملے گا تو بلا خردہ اس حق کو قبول کر لیں گے جس کی روشنی فی الحال انھیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے وہ صبر سے کام لیتا ہے اور ان سکریزیوں کو جو اس کی سوسائٹی اور ریاست میں حل نہیں ہوتے اس امید پر برداشت کرتا رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی قلب ماہیت ہو جائے گی اور وہ قابل ہونا قبول کر لیں گے۔ لیکن جو سکریزیہ ایک مرتبہ قابل ہونے کے بعد پھر سکریزیہ بن جائے اور ثابت کر دے کہ وہ سرے سے اس نظام میں حل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کا کوئی علاج اس کے سوانحیں کہ اسے نکال کر پھینک دیا جائے۔ اس کی انفرادی حصتی خواہ کتنی ہی قیمتی ہو، مگر بہر حال وہ اتنی قیمتی تو نہیں ہو سکتی کہ سوسائٹی کے پورے نظام کی خرابی اس کی خاطر گوارا کر لی جائے۔

اعتراضات کا جواب قتل مرتد کو جو شخص یہ سمعی پہناتا ہے کہ یہ محض ایک رائے کو اختیار کرنے کے بعد اسے بدل دینے کی سزا ہے وہ دراصل ایک معاملہ کو پہلے خود ہی قحط طریقے سے تغیر کرتا ہے اور پھر خود ہی اس پر ایک قحط حکم لگاتا ہے، جیسا کہ اوپر اشارہ کیا چکا ہے، مرتد کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے ارتداو سے اس بات کا ثبوت بھی لے پاتا ہے کہ سوسائٹی اور اسٹیٹ کی تنظیم جس بنیاد پر کمی گئی ہے اس کو وہ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی آسندہ بھی یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ اسے قبول کرے گا۔ ایسے شخص کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب وہ اپنے لیے اس بنیاد کو ناقابل قبول پاتا ہے جس پر سوسائٹی اور اسٹیٹ کی تغیر ہوئی ہے تو خود اس کے حدود سے نکل

جائے۔ مگر جب وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے دو ہی علاج ممکن ہیں یا تو اسے اشیت میں تمام حقوقی شہرت سے محروم کر کے زندہ رہنے دیا جائے، یا پھر اس کی زندگی کا خاتمه کر دیا جائے۔ پہلی صورت فی الواقع دوسرا صورت سے شدید تر سزا ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لا یمُؤْثِ فِیْهَا وَلَا یَخْتَیِ کی حالت میں جتنا رہے اور اس صورت میں سوسائٹی کے لیے بھی وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ذات سے ایک مستقل قتنہ لوگوں کے درمیان پھیلتا رہے گا اور دوسرے صحیح و سالم اعضا میں بھی اس کے زہر کے سراحت کر جانے کا اندریشہ ہو گا۔ اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اسے موت کی سزا دے کر اس کی اور سوسائٹی کی مصیبت کا بیک وقت خاتمه کر دیا جائے۔

عقل مرتد کو یہ معنی پہنانا بھی غلط ہے کہ ہم ایک شخص کو موت کا خوف دلا کر منافقانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دراصل معاملہ اس کے بر عکس ہے۔

ہم اپنے لوگوں کے لیے اپنی جماعت کے اندر آنے کا دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں جو تلوں کے مرض میں جتنا ہیں اور نظریات کی تبدیلی کا کھیل تفریخ کے طور پر کھیلتے رہتے ہیں اور جن کی رائے اور سیرت میں وہ استھنام سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو ایک نظام زندگی کی تعمیر کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔ کسی نظام زندگی کی تعمیر ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو جماعت اس کام کے لیے اتنے اس میں لہری طبیعت کے ہلنڈرے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو صرف ان لوگوں سے مرکب ہونا چاہیے جو واقعی سنجیدگی کے ساتھ اس نظام کو قبول کریں، اور جب قبول کر لیں تو دل و جان سے اس کے قیام اور اس کی تعمیر میں لگ جائیں۔ لہذا یہ عین حکمت و داش ہے کہ ہر اس شخص کو جو اس جماعت کے اندر آتا چاہے پہلے مطلع کر دیا جائے کہ یہاں سے پلٹ کر جانے کی سزا موت ہے، تاکہ وہ داخل ہونے سے پہلے سو مرتبہ سوچ لے کہ آیا اسے ایسی جماعت میں داخل ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس طرح جماعت میں آئے گا ہی وہ جسے بھی باہر جانا نہ ہو گا۔

تیرے نمبر پر جو اعتراض ہم نے نقل کیا ہے اس کی بنیاد بھی غلط ہے۔ مفترضین کے پیش نظر دراصل ان ”ذمہ بہ“ کا اور انہی کے پرچار کا معاملہ ہے جن کی تعریف ہم ابتداء میں کر چکے ہیں۔ ایسے ذمہ بہ کو واقعی اپنا دروازہ آنے اور جانے والوں کے لیے کھلا رکھنا چاہیے۔ وہ اگر جانے والوں کے لیے اسے بند کریں گے تو ایک بے جا حرکت کریں گے۔ لیکن جس ذمہ بہ فکر و عمل پر سوسائٹی اور اشیت کی تعمیر کی گئی ہو اسے کوئی معقول آدمی جو اجتماعیات میں کچھ بھی بصیرت رکھتا ہو، یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی تحریک اور اپنے اجزاء تعمیر کے انتشار اور اپنی بندش وجود ہی کا دروازہ خود ہی کھلا رکھے۔ منظم سوسائٹی اور اشیت وہ چیز ہے جس کا بنانا اور بگاثا بھی شہی سے جان جو کھوں کا کام رہا ہے اور اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ کام ہمیشہ ایسا ہی رہے گا دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس کی اسید ہے کہ آگ اور خون کا کھیل کھیلے بغیر کسی نظام زندگی کو تبدیل کر دیا جائے۔ کسی مزاحمت کے بغیر خود تبدیل ہونے کے لیے صرف وہی نظام زندگی تیار ہو سکتا ہے جس کی جڑیں گل پھی ہوں اور جس کی بنیاد میں اپنے اتحادی وجود کا یقین یا قی نہ رہا ہو۔

رہا تلقیش کا اعتراض تو اپر کی بحث کو بغور پڑھنے سے بڑی حد تک وہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ لا ایک راہ فی المیین کے معنی یہ ہیں کہ ہم کسی کو اپنے دین میں آنے کے لیے مجبور نہیں کرتے اور واقعی ہماری روشن بھی ہے۔ مگر جسے آ کرو اپس جانا ہو اسے ہم پہلے ہی خبردار کر دیتے ہیں کہ یہ دروازہ آمد و رفت کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے، لہذا اگر آتے ہو تو یہ فیصلہ کر کے آؤ کہ واپس نہیں جانا ہے ورنہ براو کرم آؤ ہی نہیں۔ کوئی بتائے کہ آخر

اس میں تناقض کیا ہے؟ بلاشبہ ہم نفاق کی ندمت کرتے ہیں اور اپنی جماعت میں ہر شخص کو صادق الائیان دیکھ چاہتے ہیں۔ مگر جس شخص نے اپنی جماعت سے خود اس دروازے میں قدم رکھا جس کے متعلق اسے معلوم تھا کہ وہ جانے کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے، وہ اگر نفاق کی حالت میں جلا ہوتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اس کو اس حالت سے نکالنے کے لیے ہم اپنے نظام کی بڑھی کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ وہ اگر ایسا ہی راستی پسند ہے کہ منافق بن کر نہیں رہنا چاہتا بلکہ جس چیز پر اب ایمان لایا ہے اس کی پیروی میں صادق ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سزاۓ موت کے لیے کیوں نہیں پیش کرتا؟

ہاں یہ اعتراض بظاہر کچھ وزن رکھتا ہے کہ اسلام جب خود اپنے پیروؤں کو تبدیل مذہب پر سزا دیتا ہے اور اسے قابل ندمت نہیں سمجھتا تو دوسراے مذاہب کے پیرواؤں کو اسلام قبول کرنے پر سزا دینے ہیں تو وہ ان کی ندمت کیوں کرتا ہے؟ لیکن ان دور قویوں میں بظاہر جو تناقض نظر آتا ہے فی الواقع وہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر دونوں صورتوں میں ایک ہی روایہ اختیار کیا جاتا تو البتہ تناقض ہوتا۔ اسلام اپنے آپ کو حق کہتا ہے اور بالکل خلوص کے ساتھ حق ہی سمجھتا ہے، اس لیے وہ حق کی طرف آنے والے اور حق سے منہ موز کرواؤ پس جانے والے کو مساوی مرتبہ پر ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ حق کی طرف آنے والے کے لیے یہ حق ہے کہ اس کی طرف آئے اور جو اس کی راہ میں مراحت کرتا ہے وہ ندمت کا مستحق ہے اور حق سے واپس جانے والے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس سے واپس جائے اور جو اس کی راہ روکتا ہے وہ ندمت کا مستحق نہیں ہے۔ تناقض اس روایہ میں نہیں ہے۔ البتہ اگر اسلام اپنے آپ کو حق بھی کہتا اور پھر ساتھ ہی اپنی طرف آنے والے اور اپنے سے منہ موز کر جانے والے کو ایک ہی مرتبہ میں رکھتا تو بلاشبہ یہ ایک تناقض طرز عمل ہوتا۔

مجرد مذہب اور مذہبی ریاست کا بنیادی فرق

اوپر ہم نے قتل مرتد پر اعتراض کرنے والوں کے جو دلائل نقش کیے ہیں اور ان کے جواب میں اپنی طرف سے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کا مقابلہ کرنے سے ایک بات بالکل واضح طور پر نظر کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفترضین مرتد کی سزا پر جتنے اعتراض کرتے ہیں مخفی ایک ”مذہب“ کو نگاہ میں رکھ کر کرتے ہیں اور اس کے برعکس ہم اس سزا کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیتے ہیں ان میں ہمارے پیش نظر مجرد ”مذہب“ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا اسٹیٹ ہوتا ہے جو کسی خاندان یا طبقہ یا قوم کی حاکیت کے مجاہے ایک دین اور اس کے اصولوں کی حاکیت پر تغیر ہوا ہو۔

جہاں تک مجرد مذہب کا تعلق ہے، ہمارے اور مفترضین کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا مذہب مرتد کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا بلکہ سوسائٹی کا نظام و نسق اور ریاست کا وجود عملاً اس کی بنیاد پر قائم نہ ہو۔ جہاں اور جن حالات میں اسلام فی الواقع دیسے ہی ایک مذہب کی حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ مفترضین کا تصور مذہب ہے، وہاں ہم خود بھی مرتد کو سزاۓ موت دینے کے قائل نہیں ہیں۔ فقہ اسلامی کی رو سے مخفی ارتداد کی سزا ہی نہیں۔ اسلام کے تعریری احکام میں سے کوئی حکم بھی ایسے حالات میں قابل نفاذ نہیں رہتا بلکہ اسلامی ریاست (یا

با صطلاح شرح "سلطان" موجود نہ ہو۔ لہذا مسئلہ کے اس پہلو میں ہمارے اور مفترضین کے درمیان بحث خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔

اب قابل بحث صرف دوسرا پہلو رہ جاتا ہے یعنی یہ کہ جہاں مذہب خود حاکم ہو، جہاں مذہبی قانون ہی ملکی قانون ہو، اور جہاں مذہب ہی نے امن و انتظام کے برقرار رکھنے کی ذمے داری اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہو، آیا وہاں بھی مذہب ایسے لوگوں کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے یا انہیں جو اس کی اطاعت و وفاداری کا عہد کرنے کے بعد اس سے پھر جائیں؟ ہم اس سوال کا جواب ثابت میں دیتے ہیں۔ کیا ہمارے مفترضین کے پاس اس کا جواب نفی میں ہے؟ اگر نہیں تو اختلاف بالکل ہی دور ہو جاتا ہے اور اگر ہے تو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر انہیں کیا اعتراض ہے اور کیا ان کے دلائل ہیں؟

ریاست کا قانونی حق یہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا مذہبی ریاست بجائے خود صحیح ہے یا نہیں۔ چونکہ الہ مغرب کی پشت پر پایا جان روم کی ایک المناک تاریخ ہے جس کے زخم خورده ہونے کی وجہ سے وہ مذہبی ریاست کا نام سنتے ہی خوف سے لرا شستہ ہیں، اس لیے جب کبھی کسی ایسی چیز کے متعلق انہیں گفتگو کا اتفاق ہوتا ہے جس پر "مذہبی ریاست" ہونے کا گمان کیا جاسکتا ہو (اگرچہ اس کی نوعیت پایا ہے سے بالکل مختلف ہی کیوں نہ ہو) تو جذبات کا بیجان ان کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ بچارے اس پر محنٹے دل سے معقول گفتگو کر سکیں۔ رہے ان کے مشرقی شاگرد تو اجتماعی و عمرانی مسائل پر ان کا سرمایہ علم جو کچھ بھی ہے مغرب سے مانگے پر لیا ہوا ہے، اور یہ اپنے استادوں سے صرف ان کی معلومات ہی درٹے میں حاصل نہیں کرتے بلکہ میراث علمی کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات، رجحانات اور تعصبات بھی لے لیتے ہیں، اس لیے قتل مرتد اور اس نوعیت کے دوسرے مسائل پر جب بحث کی جاتی ہے تو خواہ الہ مغرب ہوں یا ان کے مشرقی شاگرد بالعلوم دونوں ہی اپنا تو ازن کھو دیتے ہیں اور اصل قانونی و دستوری سوال کو ان بحثوں میں الجھانے لگتے ہیں جو مذہبی ریاست کے بذاتِ خود صحیح یا غلط ہونے کی بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر بالفرض اسلامی ریاست انہی معنون میں ایک "مذہبی ریاست" ہو جن معنون میں الہ مغرب اسے لیتے ہیں، تب بھی اس مسئلہ میں یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ جو ریاست کسی خطہ زمین پر حاکیت رکھتی ہو، آیا وہ اپنے وجود کی حفاظت کے لیے ایسے افعال کو جرم قرار دینے کا حق رکھتی ہے یا نہیں جو اس کے نظام کو درہم کرنے والے ہوں، اس پر اگر کوئی مفترض ہو تو وہ ہمیں بتائے کہ دنیا میں کب ریاست نے یہ حق استعمال نہیں کیا ہے؟ اور آج کوئی ریاست ایسی ہے جو اس حق کو استعمال نہیں کر رہی ہے؟ اشتراکی اور فاشیست رپاستوں کو چھوڑ دیے۔ ان جمہوری ریاستوں ہی کو دیکھ لیجئے جن کی تاریخ اور جن کے نظریات سے موجودہ زمانے کی دنیا نے جمہوریت کا سبق سیکھا ہے اور جن کو آج جمہوری نظام کی علیحدگاری کا شرف حاصل ہے۔ کیا یہ اس حق کو استعمال نہیں کر رہی ہے؟

انگلستان کی مثالی مثال کے طور پر انگلستان کو لیجئے۔ اگر یہی قانون جن لوگوں سے بحث کرتا ہے وہ دو بڑی قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں: ایک برطانوی رعایا (British Subjects) دوسرے اغیار (Aliens)۔ برطانوی رعایا کا اطلاق اولاً ان لوگوں پر ہوتا ہے جو برطانوی حدود کے اندر یا باہر ایسے باپوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہوں

جو شاہ برطانیہ کی اطاعت و وفاداری کے ملتمم ہوں۔ یہ فطرہ پیدائشی رعایاۓ بريطانیہ (Natural Born British Subjects) کہلاتے ہیں اور ان کو آپ سے آپ اطاعت و وفاداری کا ملتمم قرار دیا جاتا ہے بغیر اس کے کافیوں نے بالارادہ شاہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف لیا ہو۔ مانیا یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پہلے اغیار میں سے تھے اور پھر چند قانونی شرائط کی تکمیل کے بعد انھوں نے شاہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف لے کر برطانوی رعایا ہونے کا سرتیقیت حاصل کر لیا ہو۔ زبے اغیار تو اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کسی دوسری قومیت سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی دوسرے اشیٹ کی وفاداری کے ملتمم ہوں مگر برطانوی مملکت کی حدود میں مقیم ہوں۔ ان مختلف قسم کے اشخاص کے متعلق انگریزی قانون کے حسب ذیل اصول قابل ملاحظہ ہیں۔

(۱)..... اغیار میں سے ہر شخص جو برطانوی رعایا ہونے کے لیے ضروری قانونی شرائط کی تکمیل کر چکا ہو، یہ اختیار رکھتا ہے کہ اپنی سابق قومیت ترک کر کے برطانوی قومیت میں داخل ہونے کی درخواست کرے۔ اس صورت میں سیکرٹری آف اشیٹ اس کے حالات کی تحقیق کرنے کے بعد شاہ برطانیہ کی اطاعت و وفاداری کا حلف لے کر اسے برطانوی قومیت کا سرتیقیت عطا کر دے گا۔

(۲)..... کوئی شخص خواہ پیدائشی برطانیہ ہو، یا با اختیار خود برطانوی رعایا میں داخل ہوا ہو، از روئے قانون یہ حق نہیں رکھتا کہ مملکت برطانیہ کے حدود میں رہتے ہوئے کسی دوسری قومیت کو اختیار کر لے اور کسی دوسرے اشیٹ کی وفاداری کا حلف اٹھائے، یا جس قومیت سے وہ پہلے تعلق رکھتا تھا اس کی طرف پھر واپس چلا جائے۔ یہ حق اسے صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ برطانوی حدود سے باہر مقیم ہو۔

(۳)..... برطانوی حدود سے باہر مقیم ہونے کی صورت میں بھی رعایاۓ برطانیہ کا کوئی فرد (خواہ وہ پیدائشی رعیت ہو یا رعیت بن گیا ہو) یہ حق نہیں رکھتا کہ حالت جنگ میں برطانوی قومیت ترک کر کے کسی ایسی قوم کی قومیت اور کسی ایسے اشیٹ کی وفاداری اختیار کرے جو شاہ برطانیہ سے پرس جنگ ہو۔ یہ فعل برطانوی قانون کی رو سے غدر کبیر (High Treason) ہے جس کی سزا موت ہے۔

(۴)..... برطانوی رعایا میں سے جو شخص برطانوی حدود کے اندر یا باہر رہتے ہوئے بادشاہ کے دشمنوں سے تعلق رکھے اور ان کو مدد اور آسائش بھی پہنچائے یا کوئی ایسا فعل کرے جو بادشاہ کے دشمنوں کو توقیت پہنچانے والا یا بادشاہ اور ملک کی قوت تحلیل و مدافعت کو کمزور کرنے والا ہو وہ بھی غدر کبیر کا مرکب ہے اور اس کی سزا بھی موت ہے۔

(۵)..... بادشاہ، ملکے یا ولی عہد کی موت کے درپے ہونا یا اس کا تصور کرنا، بادشاہ کی رفیقة یا اس کی بڑی بیٹی یا ولی عہد کی بیوی کو بے حرمت کرنا، بادشاہ کی طرف تھیمار سے اشارہ کرنا یا ناشانہ تاکنیا یا تھیمار اس کے سامنے لانا جس سے تھوڑا اس کو نقصان پہنچانا یا خوف زدہ کرنا ہو، اشیٹ کے مذہب کو تبدیل کرنے یا اشیٹ کے قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے قوت استعمال کرنا، یہ سب افعال بھی غدر کبیر ہیں اور ان کا مرکب بھی سزا موت کا مستحق ہے۔

(۶)..... بادشاہ کو اس کے منصب، اعزاز یا القاب سے محروم یا معزول کرنا بھی جرم ہے جس کی سزا جس دوام تک ہو سکتی ہے۔

ان سب امور میں بادشاہ سے مراد وہ شخص ہے جو بالفعل (De Facto) بادشاہ ہو، خواہ بالحق (De Jure) بادشاہ ہو یا نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ قوانین کسی جذباتی بنیاد پر مبنی نہیں ہیں بلکہ اس اصول پر مبنی ہیں کہ قائم شدہ ریاست، جس کے قیام پر ایک خطہ زمین میں سوسائٹی کے لحاظ کا قائم مختصر ہو، اپنے اجزاء تکمیل کو

انتشار سے بھر رونکے اور اپنے نظام کو خرابی سے بچانے کے لیے طاقت کے استعمال کا حق رکھتی ہے۔ اب دیکھئے کہ برطانوی قانون جسیں ”اعیار“ کہتا ہے۔ ان کی حیثیت قوڑے سے فرق کے ساتھ وہی ہے جو اسلامی قانون میں ان لوگوں کی حیثیت ہے جو ”ذی“ کہلاتے ہیں۔ جس طرح ”برطانوی رعایا“ کا اطلاق پیدائش اور اختیاری رعایا پر ہوتا ہے اسی طرح اسلام میں بھی ”مسلمان“ کا اطلاق دو قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے، ایک وہ جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوں، دوسرے وہ جو غیر مسلموں میں سے باختیار خود اسلام قبول کریں۔ ”برطانوی قانون“ پادشاہ اور شاہی خاندان کو صاحب حاکیت ہونے کی حیثیت سے جو مقام دیتا ہے اسلامی قانون وہی حیثیت خدا اور اس کے رسول کو دیتا ہے۔ پھر جس طرح برطانوی قانون برطانوی رعایا اور اعیار کے حقوق و واجبات میں فرق کرتا ہے اسی طرح اسلام بھی مسلم اور ذی کے حقوق و واجبات میں فرق کرتا ہے۔ جس طرح برطانوی قانون برطانوی رعایا میں سے کسی شخص کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ حدودِ مملکت برطانیہ میں رہتے ہوئے کسی دوسری قومیت کو اختیار کرے اور کسی دوسرے اٹیٹیت کی وفاداری کا حلف اٹھائے یا اپنی سابقہ قومیت کی طرف پلٹ جائے، اسی طرح اسلامی قانون بھی کسی مسلم کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ دارالاسلام کے اندر رہتے ہوئے کوئی دوسرا دین

لے۔ اس بخش کو بھی کہے کے لیے یہ ان شہین کر لیما ضروری ہے کہ برطانوی قانون میں ”غیر“ (Alich) سے مراد وہ شخص ہے جو تابع برطانیہ کی وفاداری کا ملتزم نہ ہو اور برطانوی حدود میں آ کر رہے۔ ایسے شخص کو، بشرطیکہ وہ جائز طریقے سے ملک میں آئے اور ملک کے قوانین اور قلم و نق کا احترام مخوذ رکے، برطانوی حدود میں تحفظ تو عطا کیا جائے گا، مگر کسی تم کے حقوق شہریت نہ دیے جائیں گے۔ حقوق شہریت صرف ان لوگوں کا حصہ ہیں جو تابع برطانیہ کی وفاداری کے ملتزم ہوں۔ علاوہ بریں ”غیر“ بن کر حدود برطانیہ میں رہنے کا حق صرف عارضی طور پر باہر سے آ کر رہنے والوں ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ برطانوی مملکت کے مستقل باشندوں اور پیدائشی باشندوں کو یہ اجازت نہیں دی جائی کہ وہ ”غیر“ بن کر (یعنی تابع برطانیہ کے سوا اسکی اور کسی وفاداری کے ملتزم ہو کر) حدود برطانیہ میں رہیں۔

اس کے بعد اسلام کا دستوری قانون ان سب لوگوں کو ”غیر مسلم“ قرار دیتا ہے جو خدا اور رسول کی وفاداری کے ملتزم نہ ہوں، پھر وہ ان کو حیثیات اور حقوق کے لحاظ سے اس طرح تقسیم کرتا ہے:

(۱) جو ”غیر مسلم“ باہر سے اسلامی مملکت میں جائز طریقے سے آئیں اور ملک کے قوانین اور قلم و نق کے احترام کا اتزام کریں وہ ”متاہمن“ ہیں ان کو تحفظ عطا کیا جائے گا، مگر حقوق شہریت نہ دیے جائیں گے۔

(۲) جو لوگ اسلامی مملکت کے مستقل اور پیدائشی باشندے ہوں ان کو بھی اسلامی قانون (تمام دنیا کے دستوری قوانین کے مقابل) یہ حق دیتا ہے کہ وہ مملکت میں ”غیر مسلم“ بن کر رہیں، یعنی خدا اور رسول کی وفاداری کے ملتزم نہ ہوں۔ ایسے لوگ اگر اسلامی مملکت کی اطاعت اور خیر خواہی کا اقرار کریں تو اسلامی قانون ان کو ”ذی رعایا“ بنایتا ہے اور انھیں صرف تحفظ ہی عطا نہیں کرتا بلکہ ایک حدود تک شہریت کے حقوق بھی دیتا ہے۔

(۳) باہر سے آئے والے ”غیر مسلم“ بھی اگر ”ذی رعایا“ بنناچاہیں تو ذمیت کی شرائط پوری کر کے وہ اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کو بھی تحفظ کے ساتھ نہیں شہریت کے حقوق مل سکتے ہیں۔ لیکن ”ذی“ بن جانے کے بعد پھر ان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے ”ذمہ“ سے تخلی کی صورت ان کے لیے صرف یہ کہ مملکت سے کل جائیں۔

(۴) اسلامی مملکت میں کامل شہریت (Full-Citizenship) کے حقوق صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو ”مسلم“ یعنی خدا اور رسول کی وفاداری و اطاعت کے ملتزم ہوں، خواہ مملکت کے پیدائشی باشندے ہوں یا باہر سے بھر کر کے آئیں۔ مگر جو شخص ”مسلم“ ہو یا ”مسلم“ بن چکا ہو وہ مملکت میں رہتے ہوئے پھر ”غیر مسلم“ نہیں بن سکتا۔ یہ پوزیشن وہ مملکت سے باہر جا کر چاہے تو اختیار کر لے لیکن مملکت کے اندر وہ ایسا کرے گا تو صرف نہیں کہ اسے ”ذی“ یا ”متاہمن“ کے حقوق نہ ملیں گے بلکہ اس کا یہ ضل بجائے خود غدر قرار دیا جائے گا۔)

اختیار کرے یا اس دین کی طرف پلٹ جائے جسے ترک کر کے وہ دین اسلام میں آیا تھا۔ جس طرح برطانوی قانون کی رو سے برطانوی رعایا کا وہ فرد سزاۓ موت کا مستحق ہے جو برطانوی حدود کے باہر رہتے ہوئے شاہ برطانی کے ڈننوں کی قومیت اختیار کر لے اور کسی ڈنن سلطنت کی وفاداری کا حلف اٹھائے، اسی طرح اسلامی قانون کی رو سے وہ مسلمان بھی سزاۓ موت کا مستحق ہے جو دارالاسلام کے باہر رہتے ہوئے حرbi کافروں کا فروں کا دین اختیار کر لے اور جس طرح برطانوی قانون ان لوگوں کو "اغیار" کے سے حقوق دینے کے لیے تیار ہے جنہوں نے برطانوی قومیت چھوڑ کر کسی برسصلح قوم کی قومیت اختیار کر لی ہوا اسی طرح اسلامی قانون بھی ایسے مرتدین کے ساتھ معابدہ قوم کے کافروں کا سامعااملہ کرتا ہے جو دارالاسلام سے نکل کر کسی ایسی کافر قوم سے جاتے ہوں جس سے اسلامی حکومت کا معابدہ ہو۔ اب یہ ہمارے لیے ایک ناقابل حل معملا ہے کہ جن لوگوں کی سمجھ میں اسلامی قانون کی پوزیشن نہیں آتی ان کی سمجھ میں برطانوی قانون کی پوزیشن کیسے آ جاتی ہے۔

امریکہ کی مثال برطانیہ کے بعد اب دنیا کے دوسرے علمبردار جمہوریت ملک امریکہ کو بھجے اس کے قوانین اگرچہ تفصیلات میں کسی حد تک برطانیہ سے مختلف ہیں، لیکن اصول میں وہ بھی اس کے ساتھ پوری موافق رکھتے ہیں۔ فرق بس یہ ہے کہ یہاں جو مقام بادشاہ کو دیا گیا ہے وہاں وہی مقام ممالک متحده کی قوی حاکیت اور وفاقی دستور کو دیا گیا ہے۔ ممالک متحده کا پیدائشی شہری ہر وہ شخص ہے جو شہری کی اولاد سے پیدا ہوا ہو خواہ ممالک متحده کے حدود میں پیدا ہوا ہو یا ان سے باہر اور اختیاری شہری ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو چند قانونی شرائط کی تکمیل کے بعد دستور ممالک متحده کے اصولوں کی وفاداری کا حلف اٹھائے۔ ان دونوں قسم کے شہریوں کے مساوا باتی سب لوگ امریکی قانون کی نگاہ میں "غیر" ہیں۔ شہری اور اغیار کے حقوق و واجبات کے درمیان امریکی قانون وہی فرق کرتا ہے جو برطانوی قانون "رعیت" اور "اغیار" کے حقوق و واجبات میں کرتا ہے۔ ایک غیر شخص شہریت کی قانونی شرطیں پوری کرنے کے بعد ممالک متحده کا شہری بن جانے میں تو آزاد ہے مگر شہری بن جانے کے بعد پھر اسے یہ آزادی حاصل نہیں رہتی کہ ممالک متحده کے حدود میں رہتے ہوئے وہ اس شہریت کو ترک کر کے پھر اپنی سابق قومیت کی طرف پلٹ جائے۔ اسی طرح کسی پیدائشی شہری کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ممالک متحده کے حدود میں کسی دوسری قومیت کو اختیار کرے اور کسی دوسرے اسٹیٹ کی وفاداری کا حلف اٹھائے۔ علی ہذا القیاس شہریوں کے لیے غدر اور بغاوت قوانین ممالک متحده میں بھی انہی اصولوں پر مبنی ہیں جن پر برطانوی قوانین غدر و بغاوت کی اساس رکھتی ہیں۔

اور یہ کچھ انہی دونوں سلطنتوں پر موقوف نہیں ہے بلکہ دنیا کے جس ملک کا قانون بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہاں آپ کو بھی اصول کام کرتا نظر آئے گا کہ ایک اسٹیٹ جن عناصر کے اجتماع سے تغیر ہوتا ہے ان کو وہ منتشر ہونے سے بزور رکتا ہے اور ہر اس چیز کو طاقت سے دباتا ہے جو اس کے نظام کو درہم برہم کرنے کا رجحان رکھتی ہو۔

ریاست کا فطری حق یہ ایک جدا گانہ بحث ہے کہ ایک اسٹیٹ کا وجود بجائے خود جائز ہے یا نہیں۔ اس معاملہ میں ہمارا اور دنیوی ریاستوں (Secular State) کے حامیوں کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ ہمارے نزدیک خدا کی حاکیت کے سوا ہر دوسری حاکیت پر ریاست کی تغیر سے ناجائز ہے اس لیے جو ریاست بجائے خود ناجائز بنیاد پر قائم ہو اس کے لیے ہم اس بات کو جائز تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ناجائز وجود اور غلط نظام کی حفاظت کے

لیے وقت استعمال کرے۔ اس کے برعکس ہمارے مخالفین الہی ریاست کو ناجائز اور صرف دنیوی ریاست ہی کو جائز سمجھتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک دنیوی ریاست کا اپنے وجود و نظام کی حفاظت میں جبر سے کام لینا میں حق اور الہی ریاست کا بھی فعل کرنا میں باطل ہے۔ لیکن اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ قاعدہ اپنی جگہ عالمگیر مقبولیت رکھتا ہے کہ ریاست اور حاکیت کی میں فطرت اس امر کی متفضی ہے کہ اسے اپنے وجود اور اپنے نظام کی حفاظت کے لیے جر اور وقت کے استعمال کا حق حاصل ہو۔ یہ حق ریاست میں چیز اس حق کا ذاتی حق (Right Inherent) ہے اور اگر کوئی چیز اس حق کو باطل بنا سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ جو ریاست اس حق سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو وہ آپ ہی باطل پر قائم ہوئی ہو۔ اس لیے کہ باطل کا وجود بجائے خود ایک جرم ہے اور اگر وہ اپنے قیام و بقا کے لیے طاقت سے کام لیتا ہے تو یہ شدید تر جرم ہو جاتا ہے۔

کافر اور مرتد کے ساتھ مختلف معاملہ کیوں ہے؟

یہاں پہنچ کر ایک عام آدی کے ذہن میں یہ سوال الجھن پیدا کرنے لگتا ہے کہ ابتداء کافر ہونے اور اسلام سے مرتد ہو کر کافر بن جانے میں آخر کیا فرق ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ جو قانون ایک شخص کے ابتداء کافر ہونے کو برداشت کر لیتا ہے اور اسے اپنے حدود میں امن کی جگہ عطا کرتا ہے وہ آخر اسی شخص کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر کافر ہو جانے کو، یا ایک پیدائشی مسلمان کے کفر اختیار کر لینے کو کیوں برداشت نہیں کرتا؟ پہلی قسم کے کافر کافر اس دوسری قسم کے کافر کے کفر سے اصولاً کیا اختلاف رکھتا ہے کہ وہ تو قانون کی نگاہ میں مجرم نہ ہو اور یہ مجرم ہو، اس کو ذمی بنا کر اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اور اسے زندگی کے جملہ حقوق سے محروم کر کے دار پر پڑھادیا جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نہ ملنے والے اور مل کر الگ ہو جانے والے کے درمیان انسانی فطرت لازماً فرق کرتی ہے۔ نہ ملنا تھی، نفرت اور عداوت کو تسلیم نہیں ہے۔ گرمل کر الگ ہو جانا قریب سو فیصدی حالات میں ان جذبات کو تسلیم ہے۔ نہ ملنے والا کبھی ان فتنوں کا موجب نہیں بن سکتا جن کا موجب مل کر الگ ہو جانے والا، بنتا ہے۔ نہ ملنے والے کے ساتھ آپ تعاون، دوستی، رازداری، لین دین، شادی بیانہ اور بیشمار قسم کے تمدنی و اخلاقی رشتہ قائم نہیں کرتے جو ملنے والے کے طاپ پر اعتماد کر کے اس کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں۔ اس لیے نہ ملنے والا، کبھی ان نقصانات کا سبب نہیں بن سکتا جن کا موجب مل کر الگ ہو جانے والا بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نہ ملنے والوں کی پہنچت ان لوگوں کے ساتھ فطرہ بالکل دوسری ہی قسم کا برہتا کرتا ہے جو مل کر الگ ہو جاتے ہیں۔ انفرادی زندگی میں اتصال کے بعد افتراق کا نتیجہ محدود ہوتا ہے اس لیے عموماً کشیدگی تک پہنچ کر رہ جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں یہ چیز زیادہ بڑے پیمانے پر نقصان کی موجب ہوتی ہے اس لیے فرد کے خلاف جماعت کی کارروائی بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اور جہاں الگ ہونے والا کوئی فرد واحد نہیں بلکہ کوئی بڑا گروہ ہوتا ہے وہاں نقصان کا پیمانہ بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے اس کا نتیجہ لازماً جنگ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

جو لوگ اس بات پر توجہ کرتے ہیں کہ کافر اور مرتد کے ساتھ اسلام و مختلف رویے کیوں اختیار کرتا ہے، انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اجتماعی نظام ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر شامل نہ ہوئے والوں اور شامل ہو کر الگ ہو جانے والوں کے ساتھ یکساں برہتا کرتا ہو۔ الگ ہونے والوں کو اکثر کسی نہ کسی نوعیت کی سزا ضرور دی جاتی ہے اور بارہا ان کو واپس آنے پر مجبور بھی کیا جاتا ہے۔ خصوصاً جو نظام حقیقی زیادہ اہم اجتماعی ذمہ داریوں کا

حال ہواں کا رویہ اس معاملہ میں اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فوج کو لجھے۔ قریب قریب تمام دنیا کے فوجی قوانین میں یہ بات مشترک ہے کہ فوجی ملازمت اختیار کرنے پر تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا مگر جو شخص باختیار خود فوجی ملازمت میں داخل ہو چکا ہو اسے ملازمت میں رہنے پر لازماً مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ استفادے تو ناقابل قول ہے۔ خود چھوڑ جائے تو مجرم ہے۔ جنگ کی عملی خدمت (Active Service) سے فرار ہو تو سزاۓ موت کا مستحق ہے۔ عام فوجی خدمات سے بھاگے تو جس دوام تک سزا پا سکتا ہے اور جو کوئی اس بھاگنے والے کو نہادے یا اس کے جرم پر پردہ ڈالے تو وہ بھی جرم ٹھہرتا ہے۔ بھی طرز عمل انقلابی پاریاں اختیار کرتی ہیں۔ وہ بھی کسی کو اپنے اندر شامل ہونے پر مجبور نہیں کرتیں گے۔ جو شامل ہو کر الگ ہو جائے اسے گولی مار دیتی ہیں۔

یہ معاملہ تو فرد اور جماعت کے درمیان ہے اور جہاں جماعت اور جماعت کے درمیان یہ صورت پیش آتی ہے وہاں اس سے زیادہ شدید معاملہ کیا جاتا ہے۔ وفاق (Federation) اور تھائف (Confederacy) کے متعلق اکثر آپ نے سنا ہو گا کہ جو ریاستیں اس قسم کے اتحاد میں شریک ہوتی ہیں ان کو شریک ہونے یا نہ ہونے کا اختیار تو دیا جاتا ہے مگر شریک ہو چکنے کے بعد الگ ہو جانے کا دروازہ ازروئے دستور بند کر دیا جاتا ہے بلکہ جہاں دستور میں اس قسم کی کوئی تصریح نہیں ہوتی وہاں بھی علیحدگی کے حق کا استعمال اکثر جنگ تک نوبت پہنچا دیتا ہے۔ انیسویں صدی میں دولاً یا اسی مسئلہ پر ہو چکی ہیں۔ پہلی لڑائی سو شریک لینڈ میں ہوئی جبکہ ۱۸۶۳ء میں سات رومن کیتوں کو ریاستوں نے کافنڈریسی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس پر کافنڈریسی کے باقی شرکاء ان الگ ہونے والی ریاستوں سے برس پکار ہو گئے اور انہوں نے لا کر انھیں مجبور کیا کہ پھر ان کی وفاقی ریاست میں شامل ہو جائیں۔ دوسرا لڑائی امریکہ کی خانہ جنگی (American Civil War) کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۸۶۰ء میں ممالک، تھدہ امریکہ اتحاد سے سات ریاستیں الگ ہو گئیں اور انہوں نے اپنا علیحدہ تھائف قائم کر لیا۔ بعد میں چار مرید ریاستیں الگ ہو کر اس جمٹے میں آئیں۔ نیز چھ ریاستوں کی رائے عام یہ تھی کہ اصولاً ہر ریاست کو الگ ہو جانے کا حق حاصل ہے اور وفاقی حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ انھیں زبردستی ممالک تھدہ کے وفاق میں واپس آنے پر مجبور کرے۔ اس پر ۱۸۶۱ء میں وفاقی حکومت نے ان ریاستوں کے خلاف جنگ چھینگ دی اور تمیں چار سال کی شدید خوزیری کے بعد انھیں پھر اتحاد میں شریک ہونے پر مجبور کر دیا۔

افتراق بعد اصال کے خلاف بالعموم تمام اجتماعی نظام اور بالخصوص سیاسی و فوجی نویعت کے نظام یہ سخت کارروائی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے حق میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ جماعتی نظم اپنی کامیابی کے لیے فطرہ استحکام کا مقتضی ہوتا ہے اور یہ استحکام سراسرا اس بات پر مخصر ہوتا ہے کہ جن عنابر کے طالب سے یہ نظم وجود میں آیا ہو ان کے طالب پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جاسکے۔ ناقابل اعتماد، متذوول اور انتشار پذیر عناصر کا اجتماع جس کے قائم رہنے پر بھروسہ نہ کیا جاسکے اور جس کے ثابت قدم رہنے کا تین نہ ہو، بھی کوئی صحیح قسم کی جماعتی زندگی پیدا نہیں کر سکتا۔ خصوصاً جو اجتماعی ادارہ تمدن کی اہم خدمات کا بار اٹھانے والا ہو وہ تو کبھی اس خطے کے کومول لینے پر آمادہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ترکیب ایسے اجزا سے ہو جو ہر وقت پارہ پارہ ہو سکتے ہوں۔ انتشار پذیر اینہوں اور پھر وہ سے بنی ہوئی عمارت ویسے بھی انسانی سکونت کے لیے کوئی قابل اطمینان چیز نہیں ہوتی کجا کہ ایک قلعہ جس پر ایک پورے ملک کے امن کا انحصار ہو ایسے بکھر جانے والے اجزا سے بنا ڈالا جائے۔ تفریجی اجتماعیں، جن کی حیثیت پہلوں کے گھروندوں سے زیادہ نہ ہو، افراد کی شخصی آزادی کو اپنے جماعتی وجود کے مقابلے میں ضرور ترجیح دے سکتی

ہیں، لیکن کسی بڑے جماعتی مقصد کے لیے جان جو کھوں کا کھلیل کھینے والے ادارے اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ لہذا ریاست، اور فوج اور وہ پارٹیاں جو سمجھدگی کے ساتھ کسی اہم اجتماعی نصبِ اعین کی خدمت کا پرخظر کام کرنے کے لیے بنی ہوں اور اسی نوعیت کے دوسرے نظام اس امر پر قطعی مجبور ہیں کہ واپس جانے والوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیں اور اپنے اجزاء تکمیل کو منتشر ہونے سے باز رکھیں۔ مسکم اور قابل اعتماد اجزاء حاصل کرنے کا اس سے زیادہ کامیاب ذریعہ اور کوئی نہیں ہے کہ آنے والے کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے کہ یہاں سے جانے کا نتیجہ موت ہے کیونکہ اس طرح کمزور قوتِ فیصلہ رکھنے والے لوگ خود ہی اندر آنے سے باز رہیں گے۔ اسی طرح موجودہ اجزاء کو پھرنے سے باز رکھنے کا بھی قوی ترین ذریعہ یہی ہے کہ جو اجزاء پھرنے پر اصرار کریں اُسیں پھل ڈالا جائے تاکہ جہاں جہاں علیحدگی کے میلانات پر ورش پار ہے ہوں۔ وہاں ان کا خود بخود قلع قع ہو جائے۔ البتہ یہاں اس حقیقت کو پھرہ ہن نہیں کر لیتا چاہیے کہ جماعتی نظم کے لیے اس تدبیر کو صحیح قرار دینے کا مطلب نہیں ہے کہ ہر جماعتی نظم کے لیے اس تدبیر کا استعمال بحق ہے قطع نظر اس سے کہ وہ بجائے خود صاحب ہو یا فاسد۔ یہ چیز حق صرف اس جماعتی نظم کے لیے ہے جو اپنی ذات میں صالح ہو۔ رہا ایک فاسد نظام، تو جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اس کا وجود بجائے خود ایک ظلم ہے اور اگر وہ اپنے اجزاء کو مستعار رکھنے کے لیے جابرانہ قوت استعمال کرے تو یہ اس سے زیادہ بڑا ظلم ہے۔

جو ای کارروائی کا خطرہ پھرے صفات میں ہم نے دنیا کے دوسرے نظاموں سے سزاۓ ارتدا کی جو مثالیں پیش کی ہیں وہ ایک اور ایک جو سمجھنے کو بھی رفع کر دیتی ہیں جو اس مسئلے میں اکثر طبعی انظر لوگوں کے دماغ کو پریشان کیا کرتی ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر دوسرے ادیان بھی اسی طرح اپنے دائرے سے باہر جانے والوں کے لیے سزاۓ موت کا قانون مقرر کر دیں جس طرح اسلام نے کیا ہے، تو یہ چیز اسلام کی تبلیغ کے راستے میں بھی ویسی ہی رکاوٹ بن جائے گی جیسی دوسرے ادیان کی راہ میں بنتی ہے۔ اس کا اصولی جواب اس سے پہلے ہم دے چکے ہیں، مگر یہاں نہیں اس کا عملی جواب بھی مل جاتا ہے۔ معتبرین ناؤقینیت کی بنا پر اپنا اعتراض لفظ ”اگر“ کے ساتھ پیش کرتے ہیں، گویا کہ واقعہ یہ نہیں ہے، حالانکہ دراصل وہ چیز جس کا یہ اندیشہ ظاہر کرتے ہیں، واقعہ کی صورت میں موجود ہے۔ دنیا میں جو دین بھی اپنی ریاست رکھتا ہے وہ اپنے حدود اقتدار میں ارتدا کا دروازہ بزور بند کیے ہوئے ہے۔ غلط فہمی صرف اس وجہ سے واقع ہوتی ہے کہ آج کل عیسائی قومیں اپنی مملکتوں میں عیسائیت سے مرتد ہو جانے والوں کو کسی قسم کی سزا نہیں دیتیں اور ہر شخص کو آزادی عطا کر دیتی ہیں کہ جس نہ سب کو چاہے اختیار کرے۔ اس سے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان کے قانون میں ارتدا جنم نہیں ہے اور یہ ایک رحمت ہے، جس کی وجہ سے نہ بھی تبلیغ تمام رکاوتوں سے آزاد ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائیت ان قوموں کے افراد کا مخفی ایک شخصی نہ سب ہے، ان کا ”اجتمائی دین“ نہیں ہے جس پر ان کی سوسائٹی کا نظام اور ان کے ایشیت کی عمارت قائم ہو، اس لیے عیسائیت سے پھر جانے کو وہ کوئی اہمیت نہیں کہ اس پر رکاوٹ عائد کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ رہا ان کا ”اجتمائی دین“ جس پر ان کی سوسائٹی اور ریاست کی بنیاد قائم ہوتی ہے، تو اس سے مرتد ہونے کو وہ بھی اسی طرح جرم قرار دیتی ہیں جس طرح اسلام اسے جرم قرار دیتا ہے اور اس کو دبانے کے معاملے میں وہ بھی اتنی ہی سخت ہیں، جتنی اسلامی ریاست سخت ہے۔ انگریزوں کا اجتماعی دین عیسائیت نہیں ہے بلکہ برطانوی قوم کا اقتدار اور برطانوی دستور و آئین کی فرمائشوائی ہے جس کی نمائندگی تاج برطانیہ کرتا ہے۔ ممالک متحدہ امریکہ کا اجتماعی دین بھی

عیسائیت نہیں بلکہ امریکی قویت اور وفاقی دستور کا اقتدار ہے جس پر ان کی سوسائٹی ایک ریاست کی ٹھکل میں منظم ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسری عیسائی قوموں کے اجتماعی دین بھی عیسائیت کے بجائے ان کے اپنے قوی ایشیت اور دستور ہیں۔ ان ادیان سے ان کا کوئی پیدائشی یا اختیاری پیرو ذرا مرد ہو کر دیکھ لے، اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ہاں ارتدا درجہ ہے یا نہیں۔

اس معاملے کو انگریزی قانون کے ایک مصنف نے خوب واضح کر دیا ہے وہ لکھتا ہے:

”یہاں ہم تفصیل کے ساتھ ان وجوہ کی تحقیق نہیں کرنا چاہتے جن کی بنیاد پر ریاست نے مذہب کے خلاف بعض جرائم پر سزا دینے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ تحریر سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض خاص افعال یا طرز عمل جو مذہب میں منوع ہیں، اجتماعی زندگی کے لیے بھی اخربا اور بدظی کے موجب ہوتے ہیں، اس لیے یہ افعال غیر قانونی اور ان کے مرکب مسئلہ سزا قرار دیے گئے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ وہ خدا کے قانون کو توڑتے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ملکی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔“ آگے پل کروہ پھر لکھتا ہے:

”ایک زمانہ دراز تک انگریزی قانون میں ارتدا، یعنی عیسائیت سے بالکل پھر جانے کی سزا موت تھی۔ بعد میں یہ قانون بنایا گیا کہ اگر کوئی شخص جس نے عیسائیت کی تعلیم حاصل کی ہو یا عیسائی مذہب کی پیروی کا اقرار کیا ہو، تحریر یا طباعت یا تعلیم یا سوچی سمجھی ہوئی تقریر کے سلسلے میں اس خیال کا اظہار کرے کہ خدا ایک کے بجائے متعدد ہیں، یا عیسائی مذہب کے حق ہونے سے یا کتاب مقدس کے من جانب اللہ ہونے سے انکار کرے، تو پہلی خطاب پر وہ ملکی اور فوجی ملازمت میں داخل ہونے سے محروم کیا جائے گا اور دوسری خطاب پر اسے تین سال کے لیے قید کی سزا دی جائے گی۔ لیکن یقین کیا جاتا ہے کہ اس قانون کے تحت کبھی کسی شخص پر مقدمہ نہیں چلا یا گیا۔“

(Principles of the Criminal Law, By Seymour F. Harris London 1912, (P.61)

چند طور کے بعد پھر لکھتا ہے:

”کہا گیا ہے کہ عیسائیت انگریزی قانون کا ایک جز ہے اور اس کے خلاف کسی فاحش جملہ کے ارتکاب پر ریاست کی طرف سے سزا دی جاتی ہے۔ اس جرم کے حدود میں تحریر یا تقریر کے ذریعہ سے خدا کی ہستی یا اس کی تقدیر کا انکار، ہمارے خداوند اور مجھ کی اہانت اور کتب مقدسہ یا ان کے کسی جزو کا استہزاء شامل ہے۔ اس پر صرف اتنا اضافہ کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ اس قانون کو شاذ و نادر ہی بھی استعمال کیا گیا ہے۔“ (کتاب مذکور ص ۶۲)

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ عیسائیت (یعنی جسے وہ خدا کا ”قانون“ کہتے ہیں) چونکہ اب ملکی قانون نہیں ہے۔ اس لیے ریاست اول تو اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو سزا دینے کی ذمہ داری اپنے سر لیتی ہی نہیں۔ یا اگر اس بنا پر کہابھی تک یہ عیسائیت حکمران افراد کا مذہب ہے۔ وہ برائے نام اس ذمہ داری کو قبول کرتی بھی ہے تو عملاً اس کو ادا کرنے سے پہلو تھی کرتی ہے۔ لیکن خود ملکی قانون جو دراصل ان کا اجتماعی دین ہے، کیا اس کے معاملے میں بھی ان کا طرز عمل بھی ہے؟ اس کا جواب آپ عملاً پاسکتے ہیں اگر ذرا ہمت کر کے برتاؤی رعایا کا کوئی فرد برتاؤی حدود میں رہتے ہوئے تاج برطانیہ کے اقتدار اعلیٰ اور سلطنت کے آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔

پس درحقیقت وہ حالات تو عملاً قائم ہے جس کے متعلق غلط فہمی کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ”اگر“ ایسا ہوا تو

کیا ہوگا، لیکن اس حالت کے قائم ہونے سے موجودہ زمانے کی مذہبی تبلیغ میں کوئی رکاوٹ اس لیے واقع نہیں ہوتی کہ آج کل دنیا میں جن مختلف مذاہب کی تبلیغ کی جا رہی ہے ان میں سے کسی مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں چلے جانے سے دنیوی مملکتوں کے "اجتہادی دین" میں کوئی رخنہ نہیں پڑتا۔ تمام مذاہب بالفعل اس اجتہادی دین کے تابع بن کر رہتے ہیں اور ان حدود کی پابندی کرتے ہیں جن میں اس نے انھیں محدود کر دیا ہے۔ لہذا اس کے تابع فرمان اور مطیع امر رہتے ہوئے اگر آپ نے ایک مذہبی عقیدہ و عمل کو چھوڑ کر دوسرا مذہبی عقیدہ و عمل اختیار کر لیا تو اجتہادی دین کے نقطہ نظر سے فی الواقع آپ کے اندر کوئی فرق رونما نہیں ہوا، نہ آپ نے کسی ارتاد کا ارتکاب کیا کہ وہ آپ سے باز پرس کرے۔ ہاں اگر آپ اس اجتہادی دین کے اعتقاد و عمل کا فر بن جائیں اور کسی دوسرے اجتہادی دین کے اعتقادی مومن بن کر عملی مسلم بنیت کی کوشش کریں، تو آج کا ہر حکمران آپ کے ساتھ وہی کچھ کرنے کے لیے تیار ہے جو آج سے سازھے تین ہزار برس پہلے کا حکمران حضرت موسیٰ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوا تھا کہ فَرُزُونِيَ الْقُلْمُونْيَ الْمُؤْسِيَ وَلَهُدُّ رَبَّهِ إِنَّ أَخَافَ أَنْ يُمَلِّ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ۔ (الموسیٰ ۳)

پیدائشی مسلمانوں کا مسئلہ اس سلسلے میں ایک آخری سوال اور باقی رہ جاتا ہے جو "قتل مرتد" کے حکم پر بہت سے دماغوں میں تشویش پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص پہلے غیر مسلم تھا، پھر اس نے باختیار خود اسلام قبول کیا اور اس کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لیا، اس کے متعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جان بوجہ کر غلطی کی۔ کیوں نہ وہ ذمی بن کر رہا اور کیوں ایسے اجتہادی دین میں داخل ہوا جس سے نئنے کا دروازہ اسے معلوم تھا کہ بند ہے۔ لیکن اس شخص کا معاملہ ذرا مختلف ہے جس نے اسلام کو خود نہ قبول کیا ہو بلکہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اسلام آپ سے آپ اس کا دین بن گیا ہو۔ ایسا شخص اگر ہوش سنجائے کے بعد اسلام سے مطلب نہ ہو اور اس سے کل جانا چاہے تو یہ بڑا غصب ہے کہ آپ اسے بھی مزاۓ موت کی دھمکی دے کر اسلام کے اندر رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک زیادتی معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ پیدائشی مناققوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اسلام کے اجتہادی نظام کے اندر پروش پاتی رہے۔

اس شبہ کا ایک جواب اصولی ہے اور ایک عملی۔ اصولی جواب یہ ہے کہ پیدائشی اور اختیاری بیرونوں کے درمیان احکام میں فرق نہ کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی دین نے کبھی ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ ہر دین اپنے بیرونوں کی اولاد کو فطرۃ اپنا بیرونی قرار دیتا ہے اور ان پر وہ سب احکام جاری کرتا ہے جو اختیاری بیرونوں پر جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ بات عملنا ناممکن اور عقلنا بالکل لغو ہے کہ بیرونی دین، یا سیاسی اصطلاح میں رعایا اور شہریوں کی اولاد کو ابتداء لفڑا یا اغیار (Ailens) کی حیثیت سے پروش کیا جائے اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس بات کا فیصلہ ان کے اختیار پر چھوڑ دیا جائے کہ آیا وہ اس دین کی بیرونی یا اس اسیت کی وفاداری قبول کرتے ہیں یا نہیں جس میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح تو کوئی اجتہادی نظام دنیا میں کبھی جل ہی نہیں سکتا۔ اجتہادی نظام کے بقاء و استحکام کا زیادہ تر انحراف اس مستقل آبادی پر ہوتا ہے جو اس کی بیرونی پر ثابت و قائم اور اس کے تسلیل حیات کی ضامن ہو۔ اور اسی مستقل آبادی صرف اسی طرح بنتی ہے کہ نسل کے بعد نسل آ کر اس نظام کو جاری رکھنے کی ذمہ داری لیتی چلی جائے۔ اگر بیرونی اور شہریوں کی ہر نسل کے بعد دوسری نسل کا اس بیرونی و شہریت پر قائم رہتا اور اس نظام کو برقرار رکھنا مشتبہ اور غیر لائقی ہو، تو اجتہادی نظام کی بنیاد و اہم مترکبول رہے گی اور کبھی اس کو احکام نصیب ہی نہ ہوگا۔ لہذا پیدائشی بیرونی و شہریت کو اختیاری میں تبدیل کر دینا، اور ہر بعد کی نسل کے لیے دین اور دستور و آئین

اور تمام وقادار بیوں سے اخراج کا دروازہ کھلا رکھنا، ایک ایسی جگہ یہ ہے جو بجائے خود سخت نامقوول ہے، اور دنیا میں آج تک کسی دین، کسی اجتماعی نظام اور کسی ریاست نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے۔

اس کا عملی جواب یہ ہے کہ جو اندر یہ ہمارے معتبرین پیان کرتے ہیں وہ درحقیقت عملی دنیا میں بھی رونما نہیں ہوتا۔ ہر اجتماعی نظام جس میں کچھ بھی زندگی کی طاقت اور خواہش موجود ہو، پوری توجہ کے ساتھ اس کا انتظام کیا کرتا ہے کہ اسے دائرے میں پیدا ہونے والی تنی طلوں کی طرف اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنے اصولوں، اور اپنی وقادار بیوں کو تحفظ کرے اور انھیں اپنے لیے زیادہ قابل اعتاد بنائے۔ اس تعلیم و تربیت کی وجہ سے تنی طلوں کی بہت بڑی اکثریت ۹۹۹ فی ہزار سے بھی زیادہ اکثریت، اس نظام کے اتباع پر راضی اور اس کی وقادار بن کر اٹھتی ہے جس میں وہ پیدا ہوتی ہے۔ ان حالات میں صرف چند ہی افراد ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جو مختلف وجوہ سے اخراج بغاوت کا میلان لیے ہوئے اُمیں یا بعد میں اس کا اکتساب کر لیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے چند افراد کی خاطر اصول میں کوئی ایسا تغیر نہیں کیا جاسکتا جس سے پوری سوسائٹی کی زندگی خطرے اور بے اطمینانی میں جلا ہو جائے۔ ایسے چند افراد اگر اجتماعی دین سے اخراج کرنا چاہیں تو ان کے لیے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں یا تو ریاست کے حدود سے باہر جا کر اس سے اخراج کریں یا اگر وہ اپنے اس اخراج میں راضی ہیں اور جس دوسرے نظام کو انھوں نے پسند کیا ہے اس کی بھروسی میں صادق الایمان ہیں، اور اپنے آبائی دین کی جگہ اسے قائم کرنے کا سچا عزم رکھتے ہیں، تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اور جان جو کھوں کا وہ کھیل کھیلیں جس کے بغیر کسی نظام کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

پس جہاں تک نہیں مسئلہ کا تعلق ہے، وہ بہر حال بھی رہے گا کہ مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہونے والی اولاد مسلمان ہی بھی جائے گی اور قانون اسلام کی طرف سے ان کے لیے ارتدا کا دروازہ ہرگز نہ کھولا جائے گا، اگر ان میں سے کوئی اسلام سے پھرے گا تو وہ بھی اسی طرح قتل کا مستحق ہو گا جس طرح وہ شخص جس نے کفر سے اسلام کی طرف آ کر پھر کفر کا راستہ اختیار کیا ہو۔ یہ تمام تفہیے اسلام کا تتفق علیہ فیصلہ ہے اور اس باب میں ماہرین شریعت کے درمیان قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس معاملے کا ایک پہلو ایسا ہے جس میں مجھے کچھ پہچیدگی نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک مدت درواز سے ہمارا اجتماعی نظام نہایت ڈھیلا اورست رہا۔ ہمارے ہاں کوئی شیلیں ایسی گزر بچی ہیں کہ ہر نسل نے بعد کی نسل کو اسلامی تعلیم و تربیت دینے میں سخت کوتاہی کی ہے۔ خصوصاً بچتے دور غلابی میں تو ہماری قومی بے شوری اس حد کو پہنچ گئی کہ ہمارے لاکھوں افراد نے بے پرواہی کے ساتھ، اور ہزاروں نے جان بوجھ کر اپنی اولاد کو کافرانہ تعلیم و تربیت کے حوالے کر دیا۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں اسلام سے بغاوت و اخراج کے میلانات رکھنے والوں کا تابع خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آگے چل کر کسی وقت اسلامی نظام حکومت قائم ہو اور قتل مرتد کا قانون نافذ کر کے ان سب لوگوں کو بیزور اسلام کے دائرے میں مقید کر دیا گیا جو مسلمانوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اسلام کے پیدائشی بیرو قرار دیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بلاشبہ یہ اندیشہ ہے کہ اسلام کے نظام اجتماعی میں منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو جائے گی جس سے ہر وقت ہر غداری کا خطرہ رہے گا۔

میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے واللہ الموفق للصواب کہ جس علاقے میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوش دے دیا جائے کہ ”جو لوگ اسلام سے اعتقاد اور عمل مخالف ہو چکے ہیں اور مخفف ہی رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ انتہا کر کے ہمارے نظام

اجتہادی سے باہر نکل جائیں۔“ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا، تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کیے جائیں گے۔ فرائض و واجبات دینی کے التزام پر انھیں مجبور کیا جائے گا، اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کی جائے کہ جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو فرکی گود میں جانے سے بچایا جاسکتا ہے بچالیا جائے گا، پھر جو کسی طرح نہ بچائے جاسکیں، انھیں دل پر پھر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی سوسائٹی سے کاث پھینکا جائے اور اس عمل تطہیر کے بعد اسلامی سوسائٹی کی نئی زندگی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے جو اسلام پر راضی ہوں۔

تبیغ کفر کے باب میں..... اسلامی روایہ کی معقولیت

سائل کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے دائرے میں تبلیغ کفر کی اجازت نہیں ہے تو عقلی حیثیت سے اس ممانعت کو کیسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس باب میں کوئی بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جس تبلیغ کفر کی اسلام ممانعت کرنا ہے اس کی نوعیت واضح طور پر سمجھ لی جائے۔ اسلام اس چیز میں مانع نہیں ہے کہ دارالاسلام کے حدود میں کوئی غیر مسلم اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تعلیم دے، یا اپنے مذہب کے عقائد اور اصول لوگوں کے ساتھ تقریر یا تقریر کے ذریعے سے بیان کرے، یا اسلام پر اگر وہ کچھ اعتراضات رکھتا ہو تو انھیں تہذیب کے ساتھ تقریر و تحریر میں پیش کرے۔ نیز اسلام اس میں بھی مانع نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے خیالات سے متاثر ہو کر دارالاسلام کی ذمی رعایا میں سے کوئی شخص اس کا مذہب قول کر لے۔ ممانعت دراصل جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی مذہب یا نظام فکر و عمل کی تائید میں کوئی اسی مقتضم تحریک اٹھاتی جائے جو دارالاسلام کے حدود میں رہنے والوں کو اس مذہب یا نظام کی طرف دعوت دینی ہو۔ اسی مقتضم دعوت، قطع نظر اس سے کہ وہ ذمیوں میں سے اٹھے یا باہر سے آنے والے غیر مسلموں کی طرف سے بہرحال اسلام اپنے حدود میں اس کے ظہور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

اس کی صاف اور سیدھی وجہ یہ ہے کہ ایک مقتضم دعوت لا حالہ یا تو سیاسی نوعیت کی ہو گی یا مذہبی و اخلاقی نوعیت کی۔ اگر وہ سیاسی نوعیت کی ہو اور اس کے پیش نظر نظام زندگی کا تغیر ہو تو جس طرح دنیا کی ہر ریاست ایسی دعوت کی مزاحمت کرتی ہے، اسی طرح اسلامی ریاست بھی کرتی ہے اور اگر وہ دوسری نوعیت کی دعوت ہو تو خالص دینیوں ریاستوں کے برکس اسلام اسے اس لیے گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی اعتقادی و اخلاقی گمراہی کو اپنی گمراہی و حفاظت میں سراخانے کا موقع دینا۔ قطعی طور پر اس مقصد کی ضد ہے جس کے لیے اسلام ملک کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس معاملہ میں خالص دینیوں حکومتوں کا طرزِ عمل اسلامی حکومت کے طرزِ عمل سے یقیناً مختلف ہے، کیونکہ دونوں کے مقاصد حکومت مختلف ہیں۔ دینیوں حکومتیں ہر جھوٹ، ہر اعتقادی فساد اور ہر قسم کی بد عملی و بد اخلاقی کو اور اسی طرح ہر مذہبی گمراہی کو بھی، اپنے حدود میں پھیلنے کی اجازت دیتی ہیں اور خوب ڈھیلی رہی چھوڑے رکھتی ہیں جب تک کہ ان مختلف چیزوں کے پھیلانے والے ان کے وفادار رہیں، ان کو نیکس ادا کرتے رہیں اور اسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے ان کے سیاسی اقتدار پر آجُ آتی ہو۔ البتہ جن تحریکوں سے اپنے سیاسی اقتدار پر آجُ آنے کا انھیں ذرا سا بھی خطرہ ہو جاتا ہے ان کو خلاف قانون قرار دینے اور قوت سے پکال دینے میں وہ ذرہ برابر ہاں نہیں کرتی۔ ان کے اس طرزِ عمل کی وجہ یہ ہے کہ انھیں بندگان خدا کی اخلاقی و روحانی فلاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے لیے تو اپنا سیاسی اقتدار اور اپنی مادی اغراض ہی سب کچھ ہیں۔ مگر اسلام کو اصل دلچسپی خدا کے

بندوں کی روحانی و اخلاقی فلاح ہی سے ہے اور اسی کی خاطر وہ انتظام مکمل اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس لیے وہ سیاسی فساد یا انقلاب برپا کرنے والی تحریکوں کی طرح ان تحریکوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا جو اخلاقی فساد یا اعتقادی گمراہی پھیلانے والی ہوں۔

یہاں پھر وہی سوال ہمارے سامنے آتا ہے جو قتل مرتد کے مسئلہ میں آیا کرتا ہے، یعنی یہ کہ اگر غیر مسلم حکومتیں بھی اسی طرح اپنے حدود میں اسلام کی دعوت کو خلاف قانون قرار دے دیں تو کیا ہو؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام اس قیمت پر حق و صداقت کی اشاعت کی آزادی خریدنا نہیں چاہتا کہ اس کے جواب میں اسے جھوٹ اور باطل کی اشاعت کی آزادی دینی پڑے۔ وہ اپنے پیروکوں سے کہتا ہے کہ ”اگر تم چچے دل سے مجھے حق سمجھتے ہو اور میری پیروی ہی میں اپنی اور انسانیت کی نجات دیکھتے ہو تو میری پیروی کرو، مجھے قائم کرو، اور دنیا کو میری طرف دعوت دو خواہ اس کام میں تم کو گزار ابراء یحیم ﷺ سے سابقہ پیش آئے یا آتش نمرود سے گزرنا پڑے۔ یہ تمہارے اپنے ایمان کا تقاضا ہے اور یہ بات تمہاری خدا پرستی پر محصر ہے کہ اس کی رضا چاہتے ہو تو اس تقاضے کو پورا کرو ورنہ نہ کرو۔ لیکن میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ تمہیں اس راہ کی خطرناکیوں سے بچانے اور اس کام کو تمہارے حق میں سہل بناۓ کی خاطر باطل پرستوں کو یہ جوابی ”حق“ عطا کروں کہ وہ خدا کے بندوں کو گمراہ کریں اور ایسے راستوں پر انھیں ہاتک لے جائیں جن میں مجھے معلوم ہے کہ ان کے لیے تباہی و بریادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ناقابل تغیر فیصلہ ہے اور اس میں وہ کسی سے مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم حکومتیں آج یا آئندہ کسی وقت اسلام کی تبلیغ کو اسی طرح جرم قرار دیں جس طرح وہ پہلے اسے جرم قرار دیتی رہی ہیں تب بھی اس فیصلہ میں کوئی ترمیم نہ کی جائے گی۔ بلکہ تجھی بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے وہ گھری بہت منحوس تھی جب کفار کی نگاہ میں وہ اتنا بے ضرر بن گیا کہ اس کی دعوت و تبلیغ کو وہ بخوبی گوارا کرنے لگے اور قانون کفر کی حفاظت و گمراہی میں اسے چھیننے کی پوری سہولتیں بھم چینچے گیں۔ اسلام کے ساتھ کفر کی یہ رعایتیں حقیقت میں خوش آئند نہیں ہیں یہ تو اس بات کی علامت ہیں کہ اسلام کے قلب میں اس کی روح موجود نہیں رہی ہے۔ ورنہ آج کے کافر کو مجھ نمرود و فرعون اور ایز جہل والوں سے بڑھ کر نیک دل نہیں ہیں کہ اس مسلم نما قلب میں اسلام کا اصلی جوہ موجود ہوا در پھر بھی وہ اسے اپنی سر پرستی و حمایت سے سرفراز کریں یا کم از کم اسے چھیننے کی آزادی ہی عطا کروں۔ جب سے ان کی عنایات کی بدولت اسلام کی دعوت محض گزار ابراء یحیم ﷺ کی گلگشت بن کر رہ گئی اسی وقت سے اسلام کو یہ ذلت نصیب ہوئی کہ وہ ان مذاہب کی صفت میں شامل کر دیا گیا جو ہر ظالم نظام تمدن و سیاست کے ماتحت آرام کی جگہ پا سکتے ہیں۔ بڑی مبارک ہوئی وہ ساعت جب یہ رعایتیں واپس لے لی جائیں گی اور دنیا حق کی طرف دعوت دینے والوں کی راہ میں پھر آتش نمرود حائل ہو جائے گی۔ اسی وقت اسلام کو وہ چچے پیرو اور داعی ملیں گے جو طاغوت کا سرخچا کر کے حق کو اس پر غالب کرنے کے قابل ہوں گے۔



لَا نَنْسِيَنَا مَنْ يَعْلَمُ
الْأَنْتِيَنَيْنَ لَكَنَّا بَعْلَمُ

اظهار حق انبیت و ابطال قادیانیت

ابوالسعود محمد سعد اللہ المکی

بسم الله الرحمن الرحيم

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین کر زید نے کمی مرتبہ قادیانی مذهب اختیار کیا اور کمی مرتبہ توبہ کر کے مسلمان ہوا اور اپنے اس فعل سے شہر کے مسلمانوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتا رہا۔ بالآخر جب مذکور نے اپنے ذاتی فوائد مسلمانوں میں ملنے کی وجہ سے حاصل کر لیے تو پھر علی الاعلان مسجد میں مسلمانوں کے رو برو قادیانیت و مرزا بیت کا اعلان کر دیا کہ میں قادیانی ہوں۔ جب شہر کے مسلمان قادیانی مذکور کی شرارت اور کمرو فریب سے عاجز آ گئے تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم کو زید کے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ آئندہ اس کے ناجائز تسلط سے محفوظ رہ سکیں۔ چنانچہ شہر کے مسلمان ایک دن جامع مسجد میں مجمع ہوئے اور ایک عالم کے ہاتھ میں قرآن کریم دیا اور پھر تمام مسلمانوں نے باوضو قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا کہ میں اپنے خدا کو جاстро ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ آئندہ زید قادیانی سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھوں گا اور اس کے بائیکاٹ کی کوشش میں ہر ممکن امداد دوں گا اور یہ عہد مسلمانوں نے قادیانی کی شرارت اور مرزا بیوں کی اسلامی دینی سے مجبور ہو کر کیا ہے۔ (تو کیا)

مسلمانوں کو ایسا عہد کرنا اور قادیانی مذکور کا بائیکاٹ کرنا از روئے شرع محمدی جائز ہے جبکہ اس کے ساتھ میں جوں میں ہر وقت فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ براہ کرم ولائل و برائیں سے مفصل جواب دستیجھے۔

سائل محمد سعید غفرلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجواب (۱)

الحمد لله رب العالمين، أستمد التوفيق منه والعون "سائل محترم کے سوال میں قبل غور دو باتیں ہیں۔"

(۱)..... اول قادیانی مذکور کا مقاطعہ کرنا۔

(۲)..... مسلمانوں کا ایسا عہد کرنا۔

تو واضح ہو کہ یہ دونوں امر مطابق شریعت اور جائز ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی قادیانی چپ چاپ بھی رہے اور کسی قسم کے فتنہ و فساد کی آگ نہ بھڑکائے تو بھی اس کا بائیکاٹ اور قطع تعلق کرنا بلا عہد و پیمان ہر ایک مسلمان کو اپنے اسلام پر برقرار رہنے کے لیے اور اپنے خدا اور رسول ﷺ کو ناراض نہ کرنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے فرض ہے۔ چہ جایکہ جب زید کی مرتبہ قادیانی مذهب اختیار کر کے اور کمی مرتبہ توبہ کر کے اپنے اس فعل سے شہر کے تمام مسلمانوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا چکا ہو۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَسْكُمُ النَّازُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونَ اللَّهِ مِنْ أُولَيَاءِ فَمَ لَا تَنْصَرُونَ (عدو ۳۳) "یعنی اے مسلمانوں تھجھو طرف ان لوگوں کی کہ ظلم کرتے ہیں۔ پس لگے گی تم کو

آگ اور نہیں واسطے تھا رے سوائے اللہ کے کوئی دوست پھر نہیں مدد دیے جاؤ گے۔ ”مفسرین علیہم الرحمۃ فرماتے ہیں۔ (وَلَا تَرْكُنُوا إِذْنَى مَيْلٍ (إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) أَئِ إِلَى الَّذِينَ وَجَدَ مِنْهُمُ الظُّلْمُ فِي الْجَهَنَّمَ (فَتَمَسَّكُمْ) أَئِ وَلَا تَمْلِئُوا أَذْنَى مَيْلٍ (إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) أَئِ إِلَى الَّذِينَ وَجَدَ مِنْهُمُ الظُّلْمُ فِي الْجَهَنَّمَ (فَتَمَسَّكُمْ) أَئِ بِسَبِّ ذَلِكَ (النَّارُ) وَإِذَا كَانَ الرُّكُونُ إِلَى مَنْ صَدَرَ مِنْهُمْ ظُلْمٌ مَرَّةً فِي الْأَفْضَاءِ إِلَى مَسَاسِ النَّارِ هَكَذَا فَمَا ظُلْكَ بِالرُّكُونِ إِلَى مَنْ صَدَرَ مِنْهُمُ الظُّلْمُ مِرَارًا وَرَسَخُوا فِيهِ ثُمَّ بِالْمُقْبِلِ إِلَيْهِمْ كُلُّ الْمُيْلِ وَدَخَلُ فِي الرُّكُونِ إِلَى الظَّلَمِيْنَ الْمُدَاهَّةَ وَالرَّاضِيَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَمَحَاجَةِهِمْ وَمَعَاشِرِهِمْ وَمَدُّ الْعَيْنِ إِلَى زَهْرَاهِمْ الْفَانِيَةِ وَغَبْطَلَتْهُمْ فِيمَا أُوتُوا مِنَ الْقُطُوفِ الدَّانِيَةِ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ بِالْبَقَاءِ وَتَطْعِيمِ ذَكْرِهِمْ وَاصْلَاحِ دَوَاتِهِمْ وَقَلْمِهِمْ وَرَمَعِ الْقَلْمِ أَوِ الْكَاغِدِ إِلَى آيَدِيهِمْ وَالْمَشْتِيَ خَلْفَهُمْ وَالْتَّرْتِي بِزَيْهِمْ وَأَشْبَهُهُمْ وَخِيَاطَةَ نَيَابِهِمْ وَحَلْقَ رُؤْسِهِمْ۔“ حضرات مفسرین علیہم الرحمۃ آیت شریفہ ولا ترکوا الی الذين ظلموا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ولا ترکتو ایش خطاب رسول اللہ علیہ السلام اور تمام مسلمانوں سے کیا گیا ہے اور رکون کے معنی قدرے جھکنا ہے تو معنی ولا ترکتوا کے یہ ہوئے کہ اے رسول علیہ السلام اور تمام مسلمانوں نہ بھکوڑ راس بھی جھکنا (الی الذين ظلموا) ان لوگوں کی طرف جن سے ظلم فی الجملہ (کم سے کم) صادر ہو پس جب ظالم کے قدرے ظلم کی طرف میلان کی وجہ سے بھی آگ جہنم کی ان لوگوں کو لگے گی تو پھر اس غص کے متعلق آگ میں جلنے کی سزا ظاہر ہے۔ جو سرتاسر ظالم کی طرف مشغول ہو اور جو ظالم کی طرف بالکل مائل ہو۔ اور ظالموں کی طرف میلان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ظالموں کی خوشاء کریں اور ان کے اقوال و اعمال سے خوش ہوں اور ان کی دوستی میں محبت رکھیں اور ان کی تہذیب کو پسند کریں اور ان کی فانی آرائش وزیب و زینت کو حشم رغبت سے دیکھیں اور ان کی جگلی ہوئی میوکنی ڈالیوں پر ریک کریں اور ان کی طول عمر کے لیے دعا کریں اور ان کا ذکر عزت کے ساتھ کریں اور جوان کی دوامت و قلم کی اصلاح کریں اور جو قلم یا کاغذ ان کے ہاتھوں میں دیں اور جو تنظیم کی غرض سے ان کے پیچھے چلیں اور جوان کی شکل و شباہت اختیار کریں اور ان کے کپڑے سکیں اور ان کے ستر کے بال موٹدیں۔“

اور عام کفار جن سے کوئی خطرہ قند و فساد کا نہیں ان سے جو موذت و محبت منوع ہے۔ وہ دینی امور اسلام کے مقابل دنیوی امور میں ہے۔ رہا سن معاشرت و خوش اخلاقی اور نیکی اور احسان جس کے بنی آدم مستحق ہیں۔ یہ بغرض تایف قلوب مشروع ہے منوع نہیں۔ گراییے قادیانی مسدوں سے تمام امور میں بایکاٹ کرنا اشد ضروری ہے بلکہ اس کے باپ کو اور اس کی اولاد کو اور بھائی ہبھوں کو اور تمام کنبے کے لوگوں کو بھی قادیانی مذکور سے سخت بایکاٹ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَوْمَ الْآذُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَنْتَهُمْ أَوْ أَنَّا نَهُمْ أَوْ أَخْوَاهُنَّمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ (بخاری ۲۲) یعنی اے محمد علیہ السلام اسی قوم نہ پاؤ گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔

الیضا۔ اس قادیانی کی بیوی اس پر حرام ہے اور اگر اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرے گا وہ زنا ہے اور اسی حالت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد الزنا ہو گی اور مرتد قادیانی جب بغیر توبہ کے مر جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھتا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے بلکہ مانند کتے کے بغیر غسل و کفن گڑھے میں ڈالا جائے۔

آنکہ اگر وہ قادریانی کبھی کسی ذاتی فائدہ کے لیے توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ کا اعتبار مدت پرداز تک جب تک کہ قرآن سے صادق نہ معلوم ہو جائے ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کی حجتوں توبہ سے مسلمانوں کو مندرجہ ذیل قسم کے بہت سے دھوکوں میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ مثلاً حجتوں توبہ کر کے مسلمان لڑکی سے شادی کر لینا کسی مدرسہ میں مقرر ہو جانا یا کسی ذات مفاد کے لیے ووٹ حاصل کر لینا اور اس طرح مسلمانوں کا اس کو ووٹ دے کر قادر اسلامیں ہاتا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تمام مسلمانوں کو بچائے۔

خدائے برتر کا بڑا شکر و احسان ہے کہ شہر کے مسلمانوں کو جب اس قادریانی کے مکروہ فریب بخوبی معلوم ہو گئے، تو اور دیگر مسلمانوں کو اس کے شر و فساد سے بچانے کے لیے اور اس کے ناجائز تسلط سے محفوظ رہنے کے لیے آئسیں میں یہ صحیح فیصلہ کیا اور ایسا راستہ اختیار کیا، تاکہ سخت سے سخت مفسدہ کے لیے، سخت سے سخت بایکاٹ کیا جائے۔ لہذا شہر کے مسلمانوں نے ایک اللہ کے دین کے عالم کے رو برو اور اللہ کے کلام قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر اور اللہ کے گھر یعنی جامع مسجد میں جمع ہو کر با تقاضا رائے خدا کو حاضر و ناظر جان کر اللہ عزوجل سے عہد دیا کیا کہ ہم سب اس مفسدہ پرداز سے آئندہ میں جو حرام کر لیں گے۔ اور اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے اور اس کے بایکاٹ کی کوشش میں ہر ممکن امداد کریں گے۔

تو اس قسم کے معاهدے شرعاً جائز ہیں بلکہ اس میں جتنے فوائد ہیں سب کے سب قواعد مشروعة اور فوائد مودودی فی الشرع ہیں اور جو لوگ ایسے معاهدے مشروع کر کے مضبوط بایکاٹ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ عزوجل کی طرف سے چند خوش خبریاں ہیں۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

أُولَئِكَ الْمُكَبِّرُونَ فِي الْفُلُوزِ بِهِمُ الْأَيْمَانُ وَأَيْلَكُمْ بِرُؤْسِهِمْ وَيُذْخَلُهُمْ جَهَنَّمَ تَعْبُرُنِي مِنْ تَعْبُرِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ الَّا إِنْ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
(بحدائق ۲۲) ملی خوشخبری اولئک سمجھتے ہیں کہ فلوز بھی ایمان سیکی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ یعنی ان کے الواح قلوب پر ازیزی قلم سے ایمان لکھا گیا ہے وہ صرف زبانی ایمان والوں میں ہیں۔

دوسری خوشخبری و ایلکھم بروج مفتہ اور ان کی اپنی روح سے مدد کی ہے۔ روح موید کے علماء کرام نے کسی ایک معنی پہنچان فرمائے ہیں۔ نور قلب، قرآن مجید، دشمنوں پر فتحیابی، اور ان سے ایمان داروں کی تائید ہوئی۔ تیسرا خوشخبری و ایلکھم جنت تعبیری من تعبیرها الانہار خالدین فیہا اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے یخی نہیں بہتی ہوں گی۔ جہاں وہ سدارہ کریں گے۔ یہ جسمانی بہشت کی طرف اشارہ ہے۔

چوتھی خوشخبری رضی اللہ عنہم و رحموا عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ روحانی بہشت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ س انعام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام جسمیں کو نصیب ہوئے۔ خصوصاً حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم نے جگ بد رواحد وغیرہ کے موقع پر اپنے اقارب سے دل کھول کر جگ کی اور ہر موقع میں آخرت تکمیل کے رو برو اور بعد میں دین پر ثابت قدم رہے ہیں۔ اس لیے یہ خوبیاں ان کو نصیب ہوئیں اس لیے صحابہ کرام کے نام پر رضی اللہ عنہ کہنے کا اہلست میں قدیم و متور ہو گیا۔

پانچویں خوشخبری اولئک حِزْبُ اللَّهِ الَّا إِنْ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میکی ہے اللہ کا گروہ دیکھو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اپنے فضل و کرم سے یہ بات حطا کر دی کہ اہل حق کبھی مظلوم نہ ہوں گے دیکھو صحابہ کرام چند روز میں دنیا کی بڑی بڑی عالیشان سلطنتوں پر غالب آگئے اور قیامت تک اہل حق

غالب رہیں گے اب مثال اور معلومات کے طور پر کذاب قادیانیوں کے چند عقائد خیشہ بیان کرنا ضروری ہیں۔ آئینہ کمالات میں اپنے آپ کو یعنی خدا دیکھا اور زمین و آسمان بنانے کا دعویٰ اس کے ص ۵۲۳ و ۵۲۵ خزانہ ج ۵ ص ایضاً پر یوں لکھا ہے۔ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ..... وَتَهَفَّتَ أَتَيْنِي هُوَ لَعْلَكَ لِتَسْمَوْتِ
وَالْأَرْضِ..... میں نے یعنی اپنے آپ کو خدا دیکھا اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے زمین و آسمان بنانے، اور البشری ص ۲۹ ج ۱ پر میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ لکھتا ہے (مجھے خدا نے کہا ہے) اس سمع
وَلَدِي (اے میرے بیٹے سن) اور (حقیقت الحقیقی ص ۷۰ خزانہ ج ۲۲ ص ۱۱) میں رسول اکرم سے افضلیت کا دعویٰ
اس طرح لکھا ہے **الآنِي مَالِمُ بُوْثُكَ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ** خدا نے مجھ کو وہ عزت دی جو کسی کو نہیں دی گئی اور اس کے
اجام آنکھیں ۷۶ ص ۱۱ ج ۱۱ میں حضرت عیسیٰ ﷺ پر نہایت درجہ تریخ اور اللہ عز وجل اور اس کے
کلام کو جھلانا مقصود ہے اس پر لکھا ہے یوسع سعی کی تین دادیاں اور تین نانیاں زنا کار تھیں۔ معاذ اللہ۔ (ضیغم انبیاء
آنکھیں ۵ خزانہ ج ۱۱ ص ۲۸۹) پر لکھتا ہے۔ یوسع سعی کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی معاذ اللہ ایضاً اس
کے (ص ۷۰ خزانہ ج ۱۱ ص ۲۹۱) حاشیہ میں لکھتا ہے یوسع سعی کے مجرمات مسربیم تھے۔ اس کے پاس بجدوں کے
اور کچھ نہ تھا اور (داغ الماء میں خزانہ ج ۱۸ ص ۲۲۰) میں مرتد مرزا نے لکھا ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

سب سے بہتر غلام احمد ہے

اور ازالہ میں چار سو انیسہ کرام مخصوصین کو مرزا کذاب نے جھوٹا بتایا ہے۔ (ازالہ ص ۶۲۹ خزانہ ج ۳۳۹ ص ۳۳۹)
پر ہے (ایک زمانہ میں چار سو نبیوں کی پیشیں گئی غلط ہوئی اور وہ جبوٹے ہوئے) مرزا کذاب کے کفریات
بدینیات پر استدلال کی چند اس ضرورت نہیں۔ لہذا اس کے تمام تبعین کافر و مرتد ہیں۔ خواہ لاہوری جماعت ہو یا
قاریانی جماعت، یا گوجرانوالی، اروپی ہو یا جاپانی جماعت ہو یا سکھ یا یہ جماعت ہو ان سب جماعتوں کا اس پر
اتفاق ہے کہ سعی مسعود مرزا قادریانی ہی تھے اور ان کا کلام وہی من اللہ ہے۔ لہذا ہم اہل اسلام میں اور مرزا نبیوں
میں اصولی فرق ہے اور باوجود وہی اسلام اور اسلام گری کے جو اکفر الکفریات بکیں وہ فرعون و غمرود جیسے کافر سے
بدتر کافر اور شرعاً حکم میں مرتد کے ہیں اور جوان کو کافرنہ جانے، وہ بھی کافر اور ایسے مرتد کی توبہ بھی قول نہیں ہو
سکتی۔ اس لیے نہ صرف مرتد و زندیق ہے بلکہ مرتد گرا اور زندیق گر ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعْنُهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْذَلُهُمُ عَذَابًا
مُهْنَاهُ وَاجْمَعَ الْفُلَمَاءُ عَلَى أَنْ شَاهِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُتَقَصِّصُ لَهُ كَافِرٌ وَالْقَدَابُ جَارٌ عَلَيْهِ وَحُكْمُهُ كَحْكِمُ
الرَّزْنِيَّقِ وَمَنْ فَكَّ فِي كُفُرِهِ وَعَذَابِهِ فَكَفَرَ أَفْوَلُ هَذَا إِذَا هَنَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَكَيْفَ بِمَنْ هَنَّمَ الْأَنْبِيَاءَ
وَعَاهَنَمُ وَنَقَصَهُمُ وَكَلَّهُمُ وَقَلَّلَهُمُ بَلْ وَكَيْفَ مَنْ الْفَرِیَ عَلَى اللَّهِ بِإِنْوَاعِ الْأَفْرِيَاءِ بِالْكَادِيَّةِ
الْوَاهِيَّةِ لَا فَكَّ اللَّهُ زِنْبِقِ وَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ الْأَنْلِي مَمَارَسَةٌ فِي الْعِلْمِ وَلِيَ الْفَتَاوَىِ
الْعَالَمِ كَمِرِيَّةٍ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ فِي أَحْكَامِ الْمُرْتَلِيَّنَ ص ۳۵۸ ج ۲ يُكَفِّرُ إِذَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا لَا
يَلْقَى بِهِ أَوْ سَعَرَ بِاَسْمَائِهِ أَوْ يَأْسِرَ بِنَ اَسْمَائِهِ أَوْ يَأْسِرَ بِنَ اَسْمَائِهِ أَوْ يَأْسِرَ بِنَ اَسْمَائِهِ أَوْ يَأْسِرَ بِنَ اَسْمَائِهِ
أَوْ رَوْجَةٌ أَوْ نَسَمَةٌ إِلَى الشَّهْلِ أَوِ الْقَبْرِ أَوِ النَّقْصِ وَلِيَهُ (تاریخ عالمگیری ص ۳۲۳ باب اقسام المرتدین)
إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الرَّجُلُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْرُ الْأَنْبِيَاءَ لَلَّهُسِ بِمُسْلِمٍ وَلِيَهُ لَوْ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ
قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ بِهِمْ بِرَمَ بِهِمْ بِرَمَ وَكَبَّ الْبَقْوَةَ كَالْعَالِيَّةَ وَالْهُرُوَّ وَالْبَغْرُ وَمَجْمَعِ

الأنهارِ وملحقِ الأنهرِ وفتحِ القديرِ والبدائعِ والمسبوطِ مشحونةٌ بأحكامِ المُرتدِينَ أعادنا اللهُ
والمُسلِّمِينَ أجمعينَ بجاهِهِ وكرمهِ واللهُ أعلمُ وعلمهُ آثمُ وأحکمُ.

اب اگر کوئی مسلمان حکم خدا اور رسول کے خلاف اور مسلمانوں کی اکثریت کے شرعی فیصلے کے بعد بھی
قادیانی مذکور کے بایکاٹ میں حصہ نہ لے تو مسلمانوں پر اس مسلمان کا بایکاٹ کرنا واجب ہے کیونکہ وہ چند بڑے
بڑے جرموں کا مرکب ہے۔ (۱)..... ایک حکم خدا اور رسول کو محکرانے کا۔

(۲)..... دوسرے اس عہد کو توڑنے کا۔ جو اس نے جامع مسجد میں ایک عالم کے رو برو قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر
اپنے اللہ سے کیا تھا۔

(۳)..... تیسرا مسلمانوں کے متفقہ شرعی فیصلے کے خلاف درزی کرنے کا تھا۔

(۴)..... چوتھے اعانت کفر کا۔

وَمَا عَلِيَّا إِلَّا إِلْلَاهُ

حرره ابوالسعود محمد سعد اللہ الہمکی

خادم زکریا مسجد بمبئی۔ ۲۹ جمادی الاولی ۱۳۵۲ھ

لقد اصاب من اجاب والحق ماحوره، فی هذ الكتاب

کتبه العبد العاجز السيد محمود، خادم مسجد رنگاری محلہ بمبنی۔

الجواب صحيح والمجيب نجيع

احقر العباد محمد عثمان میر داد المکی، خطیب حمیدیہ مسجد بمبنی۔

الجواب صحيح والمجيب نجيع

العبد الضعيف الفقير محمد جسمیم، الراجی الى الله القدیر پیش امام مسجد مرغی محلہ بمبنی۔
خلاصہ فیصلہ واضح ہو کہ خان بہادر ڈاکٹر عبد العزیز صاحب نے مسلمانان دارجلینگ پر جو مقدمہ وائر کیا تھا تھیں اور
سال تک طول پکڑا لہذا عدالت کی جانب سے فقیر کمترین ابوالسعود محمد سعد اللہ الہمکی اور مفتی مسجد ناخدا کلکتہ صاحب کو
تقدیق فتویٰ کے لیے طلب کیا گیا علمائے کرام کے مفتی کے بعد جناب الحاج مسٹر عبدالرحیم امیم ایل کی اور خان
بہادر عبدالمومن صاحب اور مسٹر عزیز الحق وزیر تعلیم بنگال اور جناب یوسف اطہر وکیل صاحب کی مخلصانہ سعی سے صلح
ہو گئی اور ڈاکٹر عبد العزیز نے مسلمانوں کے عام مجمع میں حضرات مذکورین کے علاوہ جناب سرخواجہ ناظم الدین
صاحب بھی موجود تھے۔ یہ اعلان کر دیا کہ میں الہست و الجماعت حقی مسلمان ہوں اور علماء کرام کے فتوے کے
مطابق مرزا اور اس کی دونوں جماعتوں کو کافر اور مرتد سمجھتا ہوں الحال مقدمہ اٹھا لیا گیا اور دونوں مولوی صاحبان
جنھوں نے بعض شرعی غلط بیان دیے تھے تائب ہو گئے اور سب معاملے باحسن الوجه ختم ہو گئے۔ جیسا کہ اخبار ہند
کلکتہ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۲۵ء میں بعنوان (قضیۃ دارجلینگ کا بہترین فیصلہ) اور اخبار عصر جدید مورخہ ۵ نومبر بعنوان
(خان بہادر ڈاکٹر عبد العزیز صاحب تائب ہو گئے) اور اخبار سیارہ مورخہ ۷ نومبر بعنوان (مرزا نیت سے توبہ) وغیرہ
اخبارات میں مفصل درج ہے فقط۔

۱۵ اربیع الاول ۱۴۲۷ھ

فقیر ابوالسعود محمد سعد اللہ الہمکی

خادم مسجد زکریا بمبنی سابقًا خادم مسجد حمیدیہ بمبنی حالاً

لَا يَنْهَا النَّعِيْمَ لَا يَنْهَا بَعْرَقَهُ

السُّؤالُ عَلَى اْمُوسِيْحِ الْكَذَابِ

مولانا احمد رضا خان

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئلہ از امرت سرکثرہ گرباگھ کوچ غذا شاہ مرسلہ مولانا
 مولوی محمد عبدالخان واعظ ریجسٹریشن الآخری ۱۳۲۰ھ

مسئلے نے ظاہر کیا کہ ایک شخص نے درآنہ عالمہ مسلمان تھا ایک مسلم سے نکاح کیا زوجین عرصہ تک باہم معاشرت کرتے رہے اولاد بھی ہوئی اب کسی قدر عرصہ سے شخص مذکور مرزا قادریانی کے مریدوں میں نسلک ہو کر صفحہ عقائد کفریہ مرزا یتی سے مطلع ہو کر علی روں الا شہاد ضروریات دین سے انکار کرتا رہتا ہے سو مطلوب عن الاتهار یہ ہے کہ شخص مذکور شرعاً مرد ہو چکا اور اس کی مخصوصیت اس کی زوجیت سے عیم ہو چکی ہے اور مخصوصہ مذکورہ کا کل مہر معقل و متو بل مرد مذکور کے ذمہ ہے اولاد صغار اپنے والد مرد کی ولایت سے کل جل یا نہ۔ بیتوا تو جروا۔

خلاصہ جوابات امرتسر

(۱) شخص مذکور بیانیت آنکہ بھیم عقیدہ مرزا کا ہے جو پانچ طائے دین کافر ہے مرد ہو چکا، مخصوصہ زوجیت سے عیم ہو چکی، کل مہر بزم مرد واجب الادا ہو چکا، مرد کو اپنی اولاد صغار پر ولایت نہیں۔

ابوالحمد للہ غلام رسول الحنفی القاسمی عن

(۲) لکھ نہیں کہ مرزا قادریانی اپنے آپ کو رسول اللہ نبی اللہ کہتا ہے اور اس کے مرید اس کو نبی مرسل جانتے ہیں اور وہی نبوت کا بعد رسول اللہ ﷺ کے بالامحاج کفر ہے جب اس طائے کا مرد اثبات ہوا میں مسلم ایسے شخص کے نکاح سے خارج ہوتی ہے مورت کو مہر ملتا ضروری ہے اور اولاد کی ولایت بھی مال کا حق ہے۔

عبدالجبار بن عبد اللہ المفرزوی

(۳) لا يشك في ارتفاع من نسب المسمى زم الذي هو من القسام السحر على الانبياء عليهم السلام واهان روح الله عيسى بن مریم عليهما السلام وادھی النبوة ومحبرها من الكفریات كالمرزا فکاح المسلمۃ لا يشك في فسخه لكن لها المھر والاولاد الصدھار، ابوالحسن خلام مصطفی عضی عنہ۔

(۴) لکھ نہیں کہ مرزا کے معتقدات کا معتقد مرد ہے نکاح مشخص ہوا اولاد مورت کو دی جائے گی مورت کا مل میر لے سکتی ہے۔

ابوالحمد للہ غلام الحنفی الدین علی عن

(۵) آنچہ طائے کرام از عرب و هند و هنگام در عکفیر مرزا قادریانی و مستخدمان وے۔ نتوی داده انکار ثابت و صحیح است قادریانی خود را نی و مرسل یزدانی قرار میده و توہین و تحقیر انہیاً ملیهم اصلوٰۃ و مسلمان و انکار مفہومات شیوه اوس است کہ اب از تحریر آتش پر ظاہرست (نقش مبارات ازالہ کے از رسائل مرزا است)۔ اختر جہاد اللہ اعلیٰ واعظ محمد عبدالخان۔

(۶) اختر العہاد خدا یعنی امام مجتبی خیر الدین۔

(۷) لکھ نہیں کہ مرزا قادریانی مدح نبوت و رسالت ہے (نقش مبارات کثیرہ ازالہ وغیرہ تحریریات مرزا) میں

ایسا شخص کافر تو کیا میرا وجہ ان بھی کہتا ہے کہ اس کو خدا پر بھی ایمان نہیں۔ ابوالوفا شاناء اللہ

(۸)..... قادریانی کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ضروریاتِ دین سے اکار ہے نیز دعویٰ رسالت کا بھی، چنانچہ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۲ خزانہ ح ۱۸ ص ۲۰۶) میں اس نے صراحت لکھا ہے کہ میں رسول ہوں لہذا غلام احمد اور اس کے معتقدین بھی کافر بلکہ اکفر ہوئے۔ مرتد کا لکاح فتح ہو جاتا ہے۔ اولاد صفار والد کے حق سے کل جاتی ہے۔ ہس مرزاًی مرتد سے اولاد لے لئی چاہیے اور ہر مبلغ اور متو جل لے کر عورت کو اس سے علیحدہ کرنا چاہیے۔

ابوزابد محمد عبدالحق امیرتر بازار صابونیان

(۹)..... مرزاًی مرتد ہیں اور انہیاء علیہم الصلوٰۃ والسَّلَامُ کے مکر مجروات کو سریز محرر کیا ہے۔ مرزا کافر ہے مرزا سے جو دوست ہو یا اس کے دوست سے دوست وہ بھی کافر مرتد ہے۔

صاحبزادہ سید ظہور الحسن قادری فاضلی سجادہ نشین حضرات سادات جیلانی بیاللہ شریف

(۱۰)..... آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ اور ضروریاتِ دین کا اکار بیک موجب کفر و ارتاد ہے ایسے شخص پر قادریانی ہو یا غیر، مرتدوں کے احکام جاری ہوں گے۔ نور الحمد علی عنہ

مراسلات حائی سنت مولانا مولوی محمد عبدالحق امیرت سری

باقیہم سائی حضرت عالم المستحب دام ظلہم العالی

بعد مدت شریف جناب فیض مآب قائم فساد و بدعتات واضح جہالت و مخلافات مخفر العلماء الحنفیہ قاطع اصول الفرقۃ الشalaۃ الجدیہ مولانا مولوی محمد احمد رضا خان صاحب حصنۃ اللہ جملہ تخفیت تحیبات و تسلیمات مسنونہ رسانیدہ کشف غمیز میر مہر انجلا آنکہ چھوٹ درین بلا داز دمت مدیدہ بہ ظہور دجال کذاب قادریانی فتور و فساد برخاست است بمحض حکم آزادگی بہ یقین صورتے در پنگ علماء آں دہری راہزن دین اسلام فی آیدا کنون ایں واقعہ درخانہ یک شخص خلی شد کر زنے مسلمہ در عقد غنیمہ یوہ آں مرد مرزاًی گردید زن نمکوہ ازوئے ایں کفریات شنیدہ گریز نمودہ بخاتہ پدر سید لہذا برائے آس و برائے سد آئندہ و تجیہہ مرزاًیاں فتوے ہذا طبع کردہ آئندہ امید کہ آنحضرت بھی بمہرو و دھنخل شریف خود حرمین فرمانید کہ باعث افتخار پاشد سفیر از ندوہ کدام مولوی غلام محمد ہوشیار پوری وارد امیرت سراز دمت دو ماہ شدہ است فتوائے ہذا ترددے فرستادم مشارکیہ و دھنخل نمود و گفت اگر درین فتوے دھنخل کتم ندوہ از من پڑیار شوڈ خلکش بدہن از صحیحہ مرد مان بلده را بسیار بدلتی در حق ندوہ میشود زیادہ چہ تو شدہ آئید جزاکم اللہ من الاسلام و امسکین۔ امسک بندہ کثیر المعاہی۔

فتویٰ از حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی۔

الحمد لله وحدة الصلوة والسلام على من لا يرى بعده و على الله و صحبه المكرمين
عنه، رب انى اعوذ بك من همزة الشيطين واعوذ بك رب ان يحضر ورن. اللہ عز وجل دین حق پر استقامت عطا فرمائے اور ہر خلال و دبائل و کمال سے بچائے قادریانی مرزا کا اپنے آپ کو سچ و مل سمجھ کہنا تو شہر آفاق ہے اور بحکم آنکہ ع

میب مے جملہ بکھتی ہنزہ نیز بگو

فقیر کو بھی اس دعوے سے اتفاق ہے۔ مرزا کے کج دھن سچ ہونے میں اصلاح بک نہیں گر لا واللہ نہ سچ کلمۃ اللہ علیہ صلوٰۃ اللہ، بلکہ سچ دجال علیہ للعن والکمال پہلے اس ادعائے کاذب کی نسبت سہار پور سے سوال آیا تھا

جس کا ایک بہسٹ جواب ولد اعز فاضل نوجوان مولوی حامد رضا خان محمد حفظ اللہ تعالیٰ نے لکھا اور یہاں تاریخی الصارم الربانی علی اسراف القادیانی سکی کیا یہ رسالہ حامی سنن ماحی فتن کمر مناقصی عبد الوہید صاحب خفی فردوسی صین عن الفتن نے اپنے رسالہ مبارکہ تحریک حفظیہ میں کہ عظیم آباد سے ماہوار شائع ہوتا ہے طبع فرمادیا محمد اللہ تعالیٰ اس شہر میں مرزا کا قتنہ نہ آیا اور اللہ عز وجل قدر ہے کہ کبھی نہ لائے اس کی تحریرات یہاں نہیں ملتیں مجیب ہفت نے جو اتوال ملعونہ اس کی کتابیوں سے بہتان صفحات نقل کیے مثیل صحیح ہونے کے ادعاء کو شاعت و نجاست میں ان سے کچھ نسبت نہیں ان میں صاف صاف انکار ضروریات دین اور یو جوہ کثیرہ کفر و ارتدا دمین ہے نقیر ان میں سے بعض کی اجمالی تفصیل کرے۔

کفر اول..... مرزا کا ایک رسالہ ہے جس کا نام (ازالہ اوہام ص ۲۷۳ خزانہ حج ۳ ص ۳۶۳) پر لکھتا ہے میں احمد ہوں جو آئیت مبشر ابرسول یا تی من بعدی اسمہ احمد میں مراد ہے، آئی کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا مسیح رباني عیسیٰ بن مریم روح اللہ علیہما الصلوٰۃ والسلام نے میں اسرائیل سے فرمایا کہ مجھے اللہ عز وجل نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تو ریت کی تقدیق کرتا اور اس رسول کی خوشخبری سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے جس کا نام پاک احمد ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازالہ کے قول ملعون مذکور میں صراحت ادعا ہوا کہ وہ رسول پاک جن کی چلوہ افروزی کا مژده حضرت صحیح لائے، معاذ اللہ مرزا قادیانی ہے۔

کفر دوم..... (توضیح مرام ص ۱۸ خزانہ حج ۳ ص ۲۰) پر لکھتا ہے کہ میں محدث ہوں اور محمد شاہی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے۔

کفر سوم..... (دالع البلاص اخزانہ حج ۱۸ ص ۲۳۱) پر لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیانی میں اپنا رسول بھیجا۔ **کفر چہارم.....** مجیب پیغم نے نقل کیا و نیز میگوید کہ خدائے تعالیٰ نے برائیں احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہے اور نبی بھی۔ (ازالہ اوہام ص ۵۳۳ خزانہ حج ۳ ص ۳۸۶) ان اتوال خبیث میں اولاً کلام الہی کے معنی میں صریح تحریف کی کہ معاذ اللہ آئیہ کریمہ میں یہ شخص مراد ہے نہ حضور سید عالم علیہ السلام ہائی اللہ و رسول اللہ و کلمۃ اللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر افڑا کیا کہ وہ اس کی بشارت دینے کو اپنا تشریف لانا یہاں فرماتے تھے ہائی اللہ عز وجل پر افڑا کیا کہ اس نے عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس شخص کی بشارت دینے کے لیے بھیجا اور اللہ عز وجل فرماتا ہے ان الہیں یہ فتوون علی اللہ الکذب لا یفطرون (یونس ۴۹) یہک جو لوگ اللہ عز وجل پر جھوٹ بہتان

ل۔ لا الہ الا اللہ لقد کذب عدو اللہ ایها المسلمون، سید المحدثین امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ شخص کے واسطے حدیث حدیثین آئی انجیں کے صدقے میں ہم نے اس پر اطلاع پائی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قد کان فیما مضی قبلکم من الامم الناس محدثون فان بکن فی امته منہم احد فانه عمر بن الخطاب اگلی ایتوں میں کچھ لوگ حدث ہوتے تھے یعنی فراست صادق الہام حق والے اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہو گا تو وہ ضرور عمر ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (رواہ احمد ص ۳۲۹ حدیث نمبر ۲۲۲۵ البخاری ح اس ۵۲۱ باب مناقب عمر بن خطاب میں ابی هریرۃ وسلم ح ۲۷۶ باب نقض ایتوں میں عصر والترمذی ح ۲۲۰ میں باب مناقب عمر بن خطاب میں ابی عاصی اللہ تعالیٰ عنہما) فاروق اعظم نے نبوت کے کوئی مسیت نہ پائے صرف ارشاد آیا لوکان بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ہوتا تو عمر ہوتا رواہ احمد ح ۲۸۲ ص ۲۲۳ حدیث نمبر ۲۰۵ حدیث نمبر ۲۰۹ باب مناقب ابی حفص عمر بن خطاب والحاکم ح ۳۲ ص ۳۲ حدیث نمبر ۲۵۱ عن عقبہ بن عامر والطرانی فی الکیر ح ۷۷ میں ابی عاصی اللہ تعالیٰ عنہما) مگر بخوبی کہ محدث حداثت کہ حقیقت نہ محدث ہے نہ محدث یہ ضرور لیک مسیت پر نبی ہو گیا۔ الا لعنة اللہ علی الکذبین والیاذ باللہ رب العلمین۔

انھاتے ہیں فلاج نہ پائیں گے اور فرماتا ہے انما یفتري الکذب الدین لا یؤمنون (الخل ۱۰۵) ایسے افڑا وہی باندھتے ہیں جو بے ایمان کافر ہیں رابعاً اپنی گردھی ہوئی کتاب برائیں غلامیہ کو اللہ عزوجل کا کلام ٹھہرایا کہ خداۓ تعالیٰ بنے برائیں احمدیہ میں یوں فرمایا ہے۔

(ازالہ اوہام ص ۵۳۳ ج ۳ خزانہ)

اور اللہ عزوجل فرماتا ہے فویل الذین یکتبون الکتب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو! بهم ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتب ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ (بقرہ ۷۹) خرابی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں کتاب لکھیں پھر کہہ دیں۔ یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے بد لے کچھ ذلیل قیمت حاصل کریں سو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے ان سب سے قطع نظر، ان کلمات ملعونہ میں صراحت اپنے لیے نبوت و رسالت کا ادعائے فتح ہے اور وہ باجماع قطعی کفر صرخ ہے فقیر نے رسالہ جزا اللہ عزوجل بابا ختم النبیة خاص اسی مسئلے میں لکھا اور اس میں آیت قرآن عظیم اور ایک سو دس حدیثوں اور تمیں نصوں کو جلوہ دیا اور ثابت کیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین مانا ان کے زمانہ میں خواہ ان کے بعد کسی نبی چدید کی بعثت کو یقیناً قطعاً محال و باطل جاننا فرض اجل و جزو ایقان ہے۔ ولكن رسول الله و خاتم النبیین نفس قطعی قرآن ہے اس کا مکرہ مکر بلکہ شک کرنے والا نہ شاک کہ ادنیٰ ضعیف احتمال خفیف سے تو ہم خلاف رکھنے والا قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی المیر ان ہے نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے اس عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہونے میں شک و تردود کو راہ دے وہ بھی کافر ہیں الکفر جل الکفر ان ہے۔ قول دوم و سوم میں شاید وہ یا اس کے اذتاب، آج کل کے بعض شیاطین سے سیکھ کر تاویل کی آڑ لیں کہ یہاں نبی و رسول سے معنی لنغوی مراد ہیں یعنی خبردار یا خبر دہنہ اور فرستادہ مگر یہ بھض ہوں ہے۔ اولاً صرخ لفظ میں تاویل نہیں سنی جاتی فتاویٰ خلاصہ و فضول عمادیہ و جامع الفضولین و فتاویٰ ہندیہ ج ۲۶۳ ص ۲۶۳ مطب موجبات الکفر وغیرہا میں ہے واللکاظ للعمادی قال قال انا رسول الله او قال بالفارسیہ من پیغمبرم یرید به من پیغام می برم یکفر یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہے یا کہے میں پیغمبر ہوں اور مراد یہ لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا اچھی ہوں کافر ہو جائے گا امام قاضی عیاض کتاب (الختان ص ۱۹۱ باب الاول فی سہ میں فرماتے ہیں) قال احمد بن ابی سلیمان صاحب سخنون رحمہما اللہ تعالیٰ فی رجل قیل له ماتقول یا عدو اللہ فی حق رسول اللہ قال فعل اللہ برسول اللہ کذا و کذا ذکر کلاماً قبیحاً فقیل له ماتقول یا عدو اللہ فی حق رسول اللہ فقال اشد من کلامه الا اول ثم قال انما اردت برسول اللہ العقرب فقال ابن ابی سلیمان للذی ساله اشهد عليه وانا شریک یرید فی قتلہ و نواب ذلك قال حبیب بن الربيع لان ادعاءه و التاویل فی لفظ صراح لا یقبل یعنی امام احمد بن ابی سلیمان تکیذ و رفیق امام سخنون رحمہما اللہ تعالیٰ سے ایک مردک کی نسبت کسی نے پوچھا کہ اس سے کہا گیا تھا رسول اللہ ﷺ کے حق کی قسم اس نے کہا اللہ رسول اللہ کے ساتھ ایسا ایسا کرے اور ایک بدکلام ذکر کیا کہا گیا اے وہن خدا تو رسول اللہ کے بارے میں کیا بتتا ہے تو اس سے بھی سخت تر لفظ بکا پھر بولا میں نے تو رسول اللہ سے بچھو مراد لیا تھا۔ امام ابن ابی سلیمان نے مستحقی سے فرمایا تم اس پر گواہ ہو جاؤ اور اسے سزاۓ موت دلانے اور اس پر جو ثواب ملے گا اس میں میں تمہارا شریک ہوں یعنی تم حاکم شرع کے حضور اس پر شہادت دو اور میں بھی سمجھی کروں گا کہ ہم تم دونوں بحکم حاکم اسے سزاۓ موت دلانے کا ثواب عظیم پائیں۔ امام حبیب بن الربيع نے فرمایا یہ اس لیے کہ کھلے لفظ میں تاویل کا دعویٰ مسحون نہیں ہوتا) ملا علی

قاری (شرح شفاج ۳۹۶ باب فی حق سب اقص) میں فرماتے ہیں ثم قال انما اردت برسول الله العقرب فانه ارسل من عند الحق وسلط على الخلق تاویلا للرسالة العرفية بالارادة اللغوية وهو مردود عند القواعد الشرعية یعنی وہ جو اس مردک نے کہا کہ میں نے پھوسرادیا اس میں اس نے رسالت عربی کو معنی لغوی کی طرف ڈھالا کہ پھوکو بھی خدا ہی نے بیججا اور خلق پر مسلط کیا ہے اور اسکی تاویل قواعد شرع کے نزدیک مردود ہے۔ علامہ شہاب خنجری (تیم الریاض ج ۲ ص ۳۳۳ باب اینما) میں فرماتے ہیں۔ هذا حقيقة معنی الارسال وهذا مما لا شك في معناه وانکاره مکابرہ لکھہ لا يقبل من قاتله ادعاؤه انه مراده لبعده غایة البعد وصرف اللفظ عن اظهراه لا يقبل كما لو قال انت طالق وقال ارادت محلولة غير مربوطة لا بلغت لمثله و بعد هذينما اه ملقطا یعنی یہ لغوی معنی جن کی طرف اس نے ڈھالا ضرور بلا کٹ حقیقی معنی ہیں اس کا الکارہت درہی ہے با این ہمہ قائل کا یہ ادعا مقبول نہیں کہ اس نے یہ معنی لغوی مراد لے تے اس لیے کہ یہ تاویل نہایت دوراز کا رہے اور لفظ کا اس کے معنی ظاہر سے پھیرنا مسوغ نہیں ہوتا جیسے کوئی اپنی عورت کو کہے تو طالق ہے اور کہے میں نے تو یہ مراد لیا تھا کہ تو کملی ہوئی ہے بندگی نہیں (کلفت میں خالق کشادہ کو کہتے ہیں) تو اسکی تاویل کی طرف الفاظ نہ ہو گا اور اسے نہیں کہا جائے گا) ہذا وہ بالتفصین ان الفاظ کو اپنے لیے مدح و فضل جانتا ہے نہ ایک ایسی عام بات کہ ۔

وکران تو جلد درد ہائند

چسام تو زیر امیر دائر

کوئی عاقل بلکہ نہیں پاگل بھی ایسی بات کو جو ہر انسان ہر بھی چار بلکہ ہر جانور بلکہ ہر کافر مرتد میں موجود ہو جل مدح میں ذکر نہ کرے گا نہ اس میں اپنے لیے فضل و شرف جانے گا بھلا کہیں برائیں غلامیہ میں یہ بھی لکھا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے مرزا کی ناک میں دونتھے رکھے مرزا کے کان میں دو گھوٹے ہنائے پا خدا نے برائیں احمد یہ میں لکھا ہے کہ اس عاجز کی ناک ہونٹوں سے اوپر اور بھوؤں کے نیچے ہے کیا اسکی بات لکھنے والا پورا مجنون پاگل نہ کہلایا جائے گا اور بلکہ نہیں کہ وہ معنی لغوی یعنی کسی چیز کی خبر رکھنا یا دینا یا بیججا ہوا ہونا ان مثالوں سے بھی زیادہ عام ہیں بہت جانوروں کے ناک کان بھوؤں اصلًا نہیں ہوتیں۔ مگر خدا کے بیسے ہوئے وہ بھی ہیں اللہ نے اُسیں عدم سے وجود زکی پیشہ سے مادہ کے پیٹ سے دنیا کے میدان میں بیججا جس طرح اس مردک خبیث نے پھوکو رسول بمعنی لغوی ہنایا۔ مولوی محتوی قدس سرہ القوی مشنی شریف میں فرماتے ہیں۔

کل یوم مو نی شان بخوان مرورا بیکار و بے فعلے مال
مکترین کارش کہ آں رب احمد روز سے لٹکر روانہ میکند
لٹکرے ز اصلب سوئے امہات تا بروید در رجہا شان بات
لٹکرے زار حام سوئے خاکداں تا زر و مادہ پر گردد جہان
لٹکرے از خاکداں سوئے اہل تابہ بیند ہر کے حسن عمل

حق عزوجل فرماتا ہے فارسلنا عليهم الطوفان والجرادو القمل والضفادع والدم (الاعراف ۱۳۳) ہم نے فروع نہیں پر بیجے طوفان اور جریاں اور جوئیں اور مینڈ کیں اور خون کیا، مرزا ایسی ہی رسالت پر فخر رکھتا ہے جسے ثیری اور مینڈ ک اور جون اور کتے اور سور سب کو شامل مانے گا۔ ہر جانور بلکہ ہر جزو و شہر بہت علوم سے

خبردار ہے اور ایک دوسرے کو خبر دینا بھی صحاح احادیث سے ثابت حضرت مولوی قدس سرہ المحتوى ان کی طرف سے فرماتے ہیں۔

اسمهیم و بسمیل و خوشیم باشا نامن ما خاشم

اللہ عزوجل فرماتا ہے و ان من هی الا یسیح بحمده ولكن لا تفهون تسپیهم (الاسراء ۲۳) کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر ان کی تسبیح تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ مامن هی الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرة الجن والانس کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو سوا کافر جن اور آدمیوں کے (رواه البطرانی فی الکبیر ح ۲۲ ص ۲۶۱ حدیث نمبر ۲۷۲) عن یعلیٰ بن مرہ و صحیحہ خاتم الحفاظ حق سیحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لعکٹ غیر بعید فقال احاطت بمالم تحاط به و جتنک من مبابنها یقین (اندل ۲۲) کچھ دیر تھہر کر ہد پر بارگاہ سیمانی میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے ایک بات وہ معلوم ہوئی ہے جس پر حضور کو اطلاع نہیں اور میں خدمت عالیٰ میں ملک سب سے ایک یقینی خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ مامن صباح ولا رواح الا وبقاء الارض ينادي بعضها بعضاً يا جارة هل متىك اليوم عبد صالح صلي عليك او ذكر الله فان قالـت نعم رأت ان لها بذلك فضلاً كوي صح او روكى شام اىسی نہیں ہوتی کہ زمین کے کلوے ایک دوسرے کو پکار کرنے کہتے ہوں کہ اے ہمارے آج تیری طرف کوئی نیک بندہ ہو کر لکلا جس نے تھہ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا اگر وہ کلزا جواب دیتا ہے کہ ہاں تو وہ پوچھنے والا کلزا اعتماد کرتا ہے کہ اے مجھ پر فضیلت ہے۔ (رواه البطرانی فی الادسنج ح ۱۷۴ حدیث نمبر ۵۶۲ وابویم فی الخلیفۃ ح ۲ ص ۱۸۷ حدیث نمبر ۸۲۲۳) عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خبر رکھنا خبر دینا سب کچھ ثابت ہے کیا مرزا ہر ایمت پھر ہربت پرست کافر ہر پیچھے بندہ ہر کتنے سورہ کو بھی اپنی طرح ہی و رسول کہنے گا ہر گز نہیں تو صاف روشن ہوا کہ معنی لغوی ہر کمز مراد نہیں بلکہ یقیناً وعی شرعی و عرفی رسالت و نبوت مقصود اور کفر و ارتداد یقینی قطعی موجود و معبارہ اختر سے محتی چار عین قسم ہیں لغوی شرعی عرفی عام یا خاص۔ یہاں عرف عام تو یعنی وہی معنی شرعی ہے جس پر کفر قطعاً حاصل اور ارادہ لغوی کا ادعا یقیناً باطل اب یہی رہا کہ فریب وہی عوام کو یوں کہہ دے کہ میں نے اپنی خاص اصطلاح میں نبی و رسول کے معنی اور رکھنے ہیں جن میں مجھے سگ و خوک سے امتیاز بھی ہے اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وصف نبوت میں اشتراک بھی نہیں مگر حاش اللہ ایسا باطل ادعا اصلاح عاقل اعرفاً کسی طرح بادشتر سے زیادہ وقت نہیں رکھتا اسکی جگہ لغت و شرع و عرف عام سب سے الگ اپنی نئی اصلاح کا مدی ہوں قابل قبول ہو تو کبھی کسی کافر کی کسی خخت سے ختح بات پر کرفت نہ ہو سکے کوئی مجرم کسی مظہم کی کیسی ہی شدید توہین کر کے مجرم نہ پھر سکے کہ ہر ایک کو اختیار ہے اپنی کسی اصطلاح خاص کا دعویٰ کر دے جس میں کفر و توہین کچھ نہ ہو کیا زید کہہ سکتا ہے خدا دو ہیں جب اس پر اعتراض ہو کہہ دے میری اصطلاح میں ایک کو دو کہتے ہیں کیا عمر و جنگل میں سورہ کو بھاگتا دیکھ کر کہہ سکتا ہے وہ قادریانی بھاگا جاتا ہے جب کوئی مرزاً گرفت چاہے، کہہ دے میری مراد وہ نہیں جو آپ سمجھے میری اصطلاح میں ہر بھگوڑے یا جنگل کو قادریانی کہتے ہیں اگر کہے کوئی مناسبت بھی، تو جواب دے کہ اصطلاح میں مناسبت شرط نہیں۔ لامناقشہ فی الاصطلاح آخر سب جگہ منقول ہی ہوتا کیا ضرور لفظ مرحل بھی ہوتا ہے جس میں معنی اول سے مناسب اصلاح مظہر نہیں میہدا قاری بھی جلدی کنندہ ہے یا جنگل سے

آنے والا (قاومون ج ۲۷۹ فصل القاف مع الواو والياء) میں ہے قدت قادیۃ جاء قوم قد القحوما من البدایۃ والفرس قد یانا اسرع، قادیان اس کی جمع اور قادیانی اس کی طرف منسوب یعنی جلدی کرنے والوں یا جنگل سے آنے والوں کا ایک اس مناسبت سے میری اصطلاح میں ہر جھوڑے جنگل کا نام قادیانی ہوا کیا زید کی وہ تقریر کسی مسلمان یا عمرو کی یہ توجیہ کسی مرزاںی کو مقبول ہو سکتی ہے حاشا وکلا کوئی عاقل ایسی بناوٹوں کو نہ مانے گا بلکہ اسی پر کیا موقف یوں اصطلاح خاص کا ادعا مسحیوں ہو جائے تو دین و دنیا کے تمام کارخانے درہم و برہم ہوں عورتیں شوہروں کے پاس سے نکل کر جس سے چاہیں نکاح کر لیں کہ ہم نے تو ایجاد و قبول نہ کیا تھا اجازت لیتے وقت ہاں کہا تھا ہماری اصطلاح (ہاں) بمعنی کلمہ زجر و انکار ہے۔ لوگ حق نامے لکھ کر جھڑی کرا کر جائیدادیں چھین لیں کہ ہم نے تو حق نہ کی تھی پیچنا لکھا تھا ہماری اصطلاح میں عاریت یا اجارے کو پیچنا کہتے ہیں الی غیر ذلک من فسادات لا تحصی تو ایسی جھوٹی تاویل والا خود اپنے معاملات میں اسے نہ مانے گا کیا مسلمانوں کو زن و مال اللہ و رسول سے زیادہ پیارے ہیں کہ جورو اور جائیداد کے باب میں تاویل نہ سنیں اور اللہ و رسول کے معاملے میں ایسی ناپاک بیانوں قول کر لیں لا الہ الا اللہ مسلمان ہرگز ایسے مردود بہانوں پر التفات بھی نہ کریں گے اُنھیں اللہ و رسول اپنی جان اور تمام جہان سے زیادہ عزیز ہیں و لله الحمد جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ان کا رب جل و علا قرآن عظیم میں ایسے بیہودہ عذروں کا دربار جلا چکا ہے فرماتا ہے قل لا تعتذر و اقہ کفرتم بعد ایمانکم ان سے کہہ دو بہانے نہ بناو بے شک تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد، والعياذ بالله رب العلمین.

مثالاً کفر چہارم میں اتنی و نبی کا مقابلہ صاف اسی معنی شرعی و عرفی کی تعین کر رہا ہے۔ راجعاً کفر اول میں تو کسی چھوٹے ادعائے تاویل کی بھی گنجائش نہیں آیت میں قطعاً معنی شرعی ہی مراد ہیں نہ لغوی نہ اس شخص کی کوئی اصطلاح خاص اور اسی کو اس نے اپنے نفس کے لیے مانا تو قطعاً یقیناً بمعنی شرعی ہی اپنے نبی اللہ و رسول اللہ ہونے کا مدحی اور ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا مکمل اور باجماع قطبی جمیع امت مرحومہ مرتد و کافر ہوا جع فرمایا۔ پچھے خدا کے پچھے رسول پچھے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ﷺ نے کہ عقریب میرے بعد آئیں گے ثلاثون دجالوں کذابوں کلہم یزعم انه نبی تیس دجال کذاب کہ ہر ایک اپنے کو نبی کہے گا و انا خاتم النبیین لانتی بعدی حالاتکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں امانت امانت صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم اسی لیے فقیر نے عرض کیا تھا کہ مرزا ضرور مثلی تجھے ہے بلکہ تجھے دجال کا کہ ایسے مدیعوں کو یہ لقب خود بارگاہ رسالت سے عطا ہوا ہے والعياذ بالله رب العلمین.

کفر چشم (دلف البلاء م ۳۰ خزان ج ۱۸ ص ۲۲۳) پر حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنی برتری کا اظہار کیا ہے۔ کفر ششم اسی (رسالہ دلف البلاء م ۳۰ خزان ج ۱۸ ص ۲۲۰) پر لکھا ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔

کفر ہفتہ (محمد اشتہارات ج ۳ ص ۲۷۸ اشتہار معيار الاخیار) میں لکھا ہے میں بعض نبیوں سے بھی افضل ہوں یہ ادعاء بھی باجماع قطبی کفر و ارتداد یقینی ہیں فقیر نے اپنے فتوے مسی بہ ردارفہ نہ میں شفاقت شریف امام قاضی عیاض و روضہ امام نووی و ارشاد الساری امام قسطلانی و شرح عقائد شیعی و شرح مقاصد امام تقی تازانی و اعلام امام ابن حجر عسکری و مخ روض علماء قاری و طریقہ محمد یہ علامہ برکوی وحدیۃ ندیہ مولی نابلسی وغیرہا کتب کثیرہ کے نصوص سے ثابت کیا ہے

کہ باجماع مسلمین کوئی ولی کوئی غوث کوئی صدیق بھی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا جو ایسا کہے قطعاً اجماعاً کافر طور
ہے از الجملہ شرح صحیح بخاری شریف میں ہے النبی الفضل من الولی وہ امر مقطوع بہ والقاتل بخلالہ
کافر کانہ معلوم من الشرع بالضرورة یعنی ہر نبی ہر ولی سے افضل ہے اور یہ امر یقینی ہے اور اس کے خلاف
کہنے والا کافر ہے کہ یہ ضروریات دین سے ہے کفر ہشم میں اسے ایک لطیف تاویل کی سمجھائش تھی کہ یہ لفظ (نبیوں)
بندہ یہم نون نہیں بلکہ (نبیوں) بندہ یہم با ہے۔ یعنی بھلی درستار کہ خود ان کے تواں گروکا بھائی ہوں ان سے تو افضل
ہوا ہی چاہوں میں تو بعض نبیوں سے بھی افضل ہوں کہ انہوں نے صرف آئئے دال میں ڈھنڈی ماری اور یہاں وہ
ہٹھ پھیری کی کہ میسوں کا دین ہی اڑ گیا۔ مگر افسوس کہ دیگر تصریحات نے اس تاویل کی جگہ نہ رکھی۔

کفر ہشم (ازالہ ص ۳۰۶ حاشیہ خزانہ ح ۳ ص ۲۵۱) پر حضرت سعیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مجہوات کو جن کا ذکر
خداوند تعالیٰ بطور احسان فرماتا ہے مسکریم کھے کر کہتا ہے اگر میں اس قسم کے مجہوات کو مکروہ نہ جانتا تو ابن مریم سے
کم نہ رہتا یہ کفر متعدد کفروں کا خیرہ ہے مجہوات کو مسکریم کہنا ایک کفر کہ اس تقدیر پر وہ مجہور نہ ہوئے بلکہ معاذ
الله ایک کسی کر شے تمہرے۔ اگلے کافروں نے بھی ایسا ہی کہا تھا حق عز وجل فرماتا ہے اذ قال اللہ یعیسیٰ بن
مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتك اذا يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكھلا
واذ علمتك الكتاب والحكمة والتورة والانجيل و اذ تخلق من الطين كهينة الطير باذنی فتنفح
فيها ف تكون طيرا باذنی و تبرئ الاكمة والابرص باذنی واذ تخرج الموتی باذنی واذ كفتت بني
اسرائيل عنك الذجتتهم بالبيت فقال اللذين كفروا منهم ان هذا الاسحر مبين۔ (الماءہ ۱۰) جب فرمایا
اللہ سجادہ نے اے مریم کے بیٹے یاد کر میری نعمتی اپنے اوپر اپنی ماں پر جب میں نے پاک روح سے تجھے
قوت بخشی لوگوں سے باتیں کرتا پانے میں اور کمی عمر کا ہو کر اور جب میں نے تجھے سکھایا لکھنا اور علم کی تحقیق باتیں
اور توریت و انجیل اور جب تو بنا تامثی سے پرند کی سی ٹھلی میری پروانگی سے پھر تو اس میں پھونکتا تو وہ پرند ہو جاتی
میرے حکم سے اور تو چنگا کرتا مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میری اجازت سے اور جب تو قبروں سے جیتا
لکھا تا مردوں کو میرے اذن سے اور جب میں نے یہود کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس یہ روشن مجہزے لے کر
آیا تو ان میں کے کافر بولے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ ”مسکریم بتایا یا جادو کہا بات ایک ہی ہوئی یعنی الہی مجہزے
نہیں کسی ڈھکوٹے ہیں ایسے ہی مکروہوں کے خیال ملال کو حضرت سعیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تحدیہ و علیہ وسلم نے
بار بار بتا کی در فرمادیا تھا اپنے مجہوات مذکورہ ارشاد کرنے سے پہلے فرمایا انی قد جنتکم بایہ من ربکم انی اخلاق
لکم من الطین کھینہ الطیور (آل عمران ۲۹) میں تمہارے پاس رب کی طرف سے مجہزے لایا کہ میں مٹی سے
پرند بناتا اور پھوک مار کر اسے جلاتا اور اونٹھے اور بدن بکڑے کو شفادیتا اور خدا کے حکم سے مردے جلاتا اور جو کچھ
مگر سے کھا کر آؤ اور جو کچھ مگر میں اخخار کھو وہ سب تھیں بتاتا ہوں۔ ”اور اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لا یہ
لکم ان کنتم مؤمنین (البقرہ ۲۲۸) بے فک ان میں تمہارے لیے یہی نشانی ہے اگر تم ایمان لا اور پھر مکر فرمایا
جنتکم بایہ من ربکم فالتفوا اللہ واطیعون (آل عمرن ۵۰) ”میں تمہارے رب کے پاس سے مجہزہ لایا ہوں تو
خدا سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔“ مگر جو عیسیٰ کے رب کی نہ مانے وہ عیسیٰ کی کیوں مانے لگا یہاں تو اسے صاف سمجھائش
ہے کہ اپنی بڑائی بھی کرتے ہیں۔

پھر ان میجرات کو تکروہ جاننا دوسرا کفر یہ کہ کراہت اگر اس بنا پر ہے کہ وہ فی نفسہ نموم کام تھے جب تو کفر ظاہر ہے قال اللہ تعالیٰ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اسی فضیلت کے بیان میں ارشاد ہوا ”اوایہنا عیسیٰ بن مریم الہیت وایدنہ بروح القدس“ (ابقرہ ۲۵۳) اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو مجھے دیے اور جریل سے اس کی تائید فرمائی۔ اور اگر اس بنا پر ہے کہ وہ کام اگرچہ فضیلت کے تھے مگر میرے منصب اعلیٰ کے لائق نہیں تو یہ وہی پر اپنی تفضیل ہے ہر طرح کفر و ارتقہ اقطیعی سے مفرنیں پھر ان کلمات شیطانیہ میں صحیح کلمۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدہ ولیم کی تحقیر تیرا کفر ہے اور اسکی عی تحقیر اس کلام ملعون کفر شتم میں تھی اور سب سے پڑھ کر اس کفر نہیں میں ہے کہ (ازالہ ص ۳۱۰ غرداں ح ۳) اسکی عی تحقیر کے حضرت سعیۃ الصلوۃ والسلام کی نسبت لکھا بعده مسکریم کے عمل کرنے کے تغیر باطن اور توحید حاشیہ پر حضرت سعیۃ الصلوۃ والسلام کی نسبت لکھا بعده مسکریم کے عمل کرنے کے تغیر باطن اور توحید اور دینی استقامت میں کم درجے پر بلکہ قریب ناکام رہے۔ انا لله وانا الیه راجعون الا لعنة اللہ علی اعداء الہیاء اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی انبیائے وبارک وسلم ہر نبی کی تحقیر مطلقاً کفر اقطیعی ہے جس کی تفصیل سے شفاف شریف و شروع شفا و سیف مسلول امام ترقیۃ الملة والدین بھی وروضۃ امام نووی و وجہ امام کردی و اعلام امام ابن حجر عسکری وغیرہا تصنیف ائمہ کرام کے دفتر گوئخ رہے ہیں نہ کہ نبی بھی کون نبی کوں نہ کہ مرسل بھی کیسا مرسل اولو العزم نہ کہ تحقیر بھی کتنی کہ مسکریم کے سبب نور باطن بلکہ دینی استقامت نہ دینی استقامت بلکہ نفس توحید میں نہ کم درجے بلکہ قریب ناکام رہے۔ اس ملعون قول لعن اللہ قائلہ و قابلہ نے اولو العزمی و رسالت و نبوت در کنار اس عبداللہ وکلمۃ اللہ و روح اللہ علیہ صلوات اللہ و سلام و تحمیلات اللہ کے فویں ایمان میں کلام کر دیا اس کا جواب ہمارے ہاتھ میں کیا ہے سوا اس کے کہ ان الدین یؤذون اللہ و رسوله لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة واعدلهم عذاباً مهیناً (الحزاب ۵۷) پیش گوئی جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ نے لخت کی دنیا و آخرت میں اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت کا عذاب۔“

کفر وہم (ازالہ ص ۲۲۹ غرداں ح ۳ مص ۲۲۹) پر لکھتا ہے ایک زمانے میں چار سو نبیوں کی پیشگوئی غلط (یہ اس کی پیش بندی ہے کہ یہ کتاب اپنی یوں ہمیشہ پیشگوئیاں پاٹکارتا ہے اور نبیات الہی وہ آئے دن جھوٹ پڑا کرنی ہیں تو یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ پیشگوئی غلط پڑنی کوہشان نبوت کے خلاف نہیں۔ معاذ اللہ الگے ائمیاء میں لزجی ایسا ہوتا ہے۔ ایں ہم بر علم) ہوئی اور وہ جھوٹے، یہ صراحت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تحدیب ہے۔ عام اقوام کفار حکم اللہ کا کفر حضرت عزت عز جلال نے یوں عی تو یہاں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین (الشراء ۱۰) کذبت عادن المرسلین (الشراء ۱۲۳) کذبت نمودن المرسلین (الشراء ۱۳۱) کذبت قوم لوط ن المرسلین (الشراء ۱۲۰) کذب اصحاب النیکۃ المرسلین (الشراء ۱۷۶) ائمہ کرام فرماتے ہیں جو نبی پر اس کی لائی ہوئی بات میں کذب جائز ہی مانے اگرچہ وقوع نہ جانے باجماع کافر ہے نہ کہ معاذ اللہ چار سو انبیاء کا اپنے اخبار بالغیب میں کہ وہ ضرور اللہ علی کی طرف سے ہوتا ہے واقع میں جھوٹا ہو جاتا (شفاف شریف ح ۲۲۵ باب ماموقلات کفر) میں ہے من دان بالوحدانیہ و صحة النبوة و نبوة نبینا ﷺ ولكن جوز على الانبياء الكذب فيما اتوا به ادعى في ذلك المصلحة بزعمه اولم یدعها فهو کافر باجماع لعن جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت کی حقانیت ہمارے نبی ﷺ کی نبوت کا اعتقاد رکھتا ہو باہمہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر ان کی باتوں میں کذب جائز مانے خواہ بزغم خود اس میں کسی مصلحت کا ادعا کرے یا نہ کرے ہر طرح بالاتفاق کافر ہے۔ ظالم نے چار سو کہہ کر گیا کہ اس نے باقی انبیاء کو

مکذب سے بچالیا حالانکہ بھی آئتیں جو ابھی ملاوت کی گئی ہیں شہادت دے رہی ہیں کہ اس نے آدم نبی اللہ سے محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء کرام علیہم افضل اصولہ والسلام کو کاذب کہہ دیا کہ ایک رسول کی مکذب تمام مرسلین کی مکذب ہے۔ دیکھو قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعیب علیہم اصولہ والسلام نے اپنے ایک ہی ایک نبی کی مکذب کی تھی مگر قرآن نے فرمایا قوم نوح نے سب رسولوں کی مکذب کی عاد نے کل پیغمبروں کو جھلایا شہود نے جمع انبیاء کو کاذب کہا قوم لوط نے تمام رسول کو جھوٹا بتایا ایکہ والوں نے سارے نبیوں کو دروغ گو کہا ہیں ہیں واللہ اس قائل نے نہ صرف چار سو بلکہ جملہ انبیاء و مرسلین کو کذاب مانا للعن اللہ من کلب احدا من انبیائے و صلی اللہ تعالیٰ علی انبیائے و رسولوں والموتین بہم اجمعین و جعلنا منہم و حشرنا فیہم و ادخلنا میہم دار النعیم بمحاجہم عنہ و برحمته بهم و رحمتهم بنا انه ارحم الراحمین و الحمد لله رب العلمین (طبرانی مجمع کیرج ۲۲ ص ۱۵۳ حدیث نمبر ۷۲) میں ویرخنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلہ کذاب پیٹک میں ذرا ہائے خاک تمام دنیا کی برابر گواہیاں دیتا ہوں کہ مسیلہ (جس نے زمانہ القدس میں ادعائے نبوت کیا تھا) کذاب ہے۔ وانا اشہد معک یا رسول اللہ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنیٰ کتابعد دانہائے ریگ و ستار ہائے آسمان گواہی دیتا ہے اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سموات والارض و حمالان عرش گواہ ہیں اور خود عرش عظیم کا مالک ہے۔ وکفی باللہ شہیدا کہ ان اقوال مذکورہ کا قائل پیٹک کافر مرتد کذاب ناپاک ہے اگر یہ اقوال مرزا کی تحریروں میں اسی طرح ہیں تو اللہ واللہ و یقیناً کافر اور جواس کے ان اقوال یا ان کے امثال پر مطلع ہو کر اسے کافرنہ کہے وہ بھی کافر ہے بلکہ اس کی بخیزی میں چون و چہا کریں تو وہ بھی کافر وہ ارکین بھی کفار مرزا کے ہیرو اگرچہ خود ان اقوال انجس الابوال کے معتقد نہ ہیں ہوں مگر جبکہ صریح کفر وہ کلے ارتدا و دیکھتے سنتے پھر مرزا کو امام و پیشواد مقبول خدا کہتے ہیں قطعاً یقیناً سب مرتد ہیں سب مستحق نار (فقا شریف ج ۲ ص ۲۳ باب مقالات کفر) میں ہے نکفر من لم یکفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل او وقف فیہم او شک یعنی ہم ہر اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو کافر کو کافرنہ کہے یا اس کی بخیزی میں توقف کرے یا شک رکھے (فقا شریف نیز فتاویٰ بر ایڈیشن و درود و غر و فتاویٰ خیریہ و در عمارج ۳ ص ۳۷ باب المرتد و بعینہ الانہر وغیرہ) میں ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر جواس کے کفر و عذاب میں شک کرے یقیناً خود کافر ہے اور جو شخص باوصف کلمہ گوئی و ادعائے اسلام کفر کرے وہ کافروں کی سب سے بدتر قسم مرتد کے حکم میں ہے ہدایہ و در عمار و عالمگیری و غر و ملتمنی الاحجر و بعینہ الانہر وغیرہ میں ہے صاحب الہوی ان کان یکفر فھو بمنزلة المرتد فتاویٰ علمگیری و طریقہ محمدیہ و حدیقۃ ندیہ و بر جندی شرح نقایہ و فتاویٰ ہندیہ میں ہے ہؤلاء القوم خارجون عن ملة الاسلام و احکامهم احکام المرتدین یا لوگ دین اسلام سے خارج ہیں اور ان کے احکام بعینہ مرتدین کے احکام ہیں اور شوہر کے کفر کرتے ہی عورت نکاح سے فوراً تکل جاتی ہے۔ اب اگر بے اسلام لائے اپنے اس قول و مذهب سے بغیر بوبہ کیے یا بعد اسلام و تقویت سے بغیر نکاح جدید کیے اس سے قربت کرے زنائے محض ہو جو اولاد ہو یقیناً ولد الزنا ہویہ احکام سب ظاہر اور تمام کتب میں دائر و سائز ہیں فی الدر المختار ج ۳ ص ۳۲۸ باب المرتد عن غنیہ ذوی الاحکام مایکون کفر الفاقا بیطلما العمل والنکاح او لاد زنا اور عورت کا کل مہراں کے ذمے عائد ہونے میں بھی شک نہیں جب کہ خلوت صحیح ہو جوکی ہو کہ ارتدا کسی دین کو ساقط نہیں کرتا فی التنویر و ارت کسب اسلامہ وارثہ المسلم بعد قضاء دین

اسلامہ و کسب ردته فی بعد قضاۓ دین ردته اور مجنح تو فی الحال آپ ہی واجب الادا ہے رہا مؤجل وہ ہنوز اپنی اہل پر ہے گا۔ مگر یہ کہ مرتد حال ارتدا ہی مر جائے یا دارالحرب کو چلا جائے اور حاکم شرع حکم فرمادے کہ وہ دارالحرب سے ملحق ہو گیا اس وقت موجل بھی فی الحال واجب الادا ہو جائے گا اگرچہ اہل مسعود میں وہ میں برس باقی ہوں فی الدین حکم القاضی بلحاقہ حل دینہ فی ردالمختار ج ۳ ص ۳۲۹ باب المرتد لانہ باللحاق صار من اہل الحرب وهم اموات فی حق احکام الاسلام فصار کالموت الا الله لا يستقر لحاقہ الا بالقضاء لاحتمال المود اذا تقرر موته ثبت الاحکام المتعلقة به كما ذکر نهر اولاد صفار ضرور اس کے قبضے سے نکالی لی جائے گی حملہ اعلیٰ دینہم الا ترى انہم صرحوا بنزع الولد من الام الشفیقة المسلمة النکالت فاسقة والولد يعقل يخشى عليه التخلق بسیرها الدمیمه فما ظنك بالاب المرتد والعياذ بالله تعالیٰ قال فی ردالمختار الفاجرہ بمنزلة الكاذبۃ فان یقی عندها الى ان یعقل الادیان كما سیأتی خوفا علیہ من تعلمہ منها ما تفعله فکذا الفاجرہ الخ وانت العلم ان الولد لا یخصنه الاب البعد مابلغ سبعا او تسعما و ذلك عمر العقل قطعا فيحرم الدفع اليه و يجب التزع منه وانما اخر جنا الى هذا ان الملک ليس بيد الاسلام والسلطان این یقی لمرتد حتى یبحث عن حضانة الا ترى الى قولهم لا حضانة لمرتد لانها تضرب وتحبس کلیوم فانی تفرع للحضانة فاذا كان هذا فی المحبوس فما ظنك بالمقتول ولكن الا لله وانا اليه رجعون ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم مگر ان کے نفس یاماں میں بدھوے والایت اس کے تصرفات موقوف رہیں گے اگر پھر اسلام لے آیا اور اس بذہب طعون سے توبہ کی تو وہ تصرف سب صحیح ہو جائیں گے اور اگر مرتد ہی مر گیا یا دارالحرب کو چلا گیا اور حکم لمحق ہو گیا تو باطل ہو جائیں گے۔ فی الدین ردالمختار ج ۳ ص ۳۲۰ باب المرتد یبطل منه الفافا مایعتمد الملة وہی خمس النکاح والذیحة والصید والشهادة والارث و یعنیق منه الفافا ما یعتمد المساوا وہو المفاوضۃ او ولایۃ متعدیۃ وہو التصرف علی ولدہ الصغیران اسلم نہدوان هلک اول حق بدار الحرب و حکم بلحاقہ بطل اہ مختصر انساء اللہ البات علی الایمان و حسبنا اللہ ونعم الوکیل و علیہ التکلان ولا حکم ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا و اللہ و صحبہ اجمعین۔ امین و اللہ تعالیٰ اعلم۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اللّٰهُمَّ إِنِّي أَنْتَ بِعَوْنَىٰ

دفع الالحاد عن حكم الارتداد

مولانا نور محمد خان

بسم الله الرحمن الرحيم

تدریق

امام المتقین، آیة السالقین، خاتم المحدثین، زیدۃ العارفین، سید المتکلمین حضرت استاذ العلام المولی الہمام الحاصل لرسوم الضلال والفوایة المجدد لعمram الرشد والهدایۃ الحافظ الحاج المولانا المولوی خلیل احمد اطال اللہ بقائه و ادام اللہ ظلاله شارح ابی داؤد. الحمد للہ و کفى و سلام علی عبادہ الدین اصطفیٰ۔ اما بعد ”دفع الالحاد عن حکم الارتداد“ جس کو عزیزی مولوی حافظ نور محمد خاں سلسلہ حکیم مدرسہ مظاہر العلوم نے لکھا ہے اول سے آخر تک نا، الحمد للہ صحیح و مستند پایا تل مرد کو مضبوط و عمدہ پیدا یہ میں بیان کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر جماعت مرزا یہ نے اس رسالہ کو انصاف سے دیکھا اور نیز حق تعالیٰ شانہ کی توفیق نے دشمنی فرمائی تو ان کے لیے یہ رسالہ انشاء اللہ تعالیٰ رہنا ہو گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ عزیزم سلسلہ کے علم و عمر میں ترقی و زیادتی عطا فرمائیں اور رجائب کے لیے ذریعہ رہنمائی بنا کیں نقط۔ خلیل احمد عقی عنہ

الحمد للہ رب العلمین والمعاقبة للمتقین والصلوة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحیبہ اجمعین۔

برادران اسلام! جبکہ دنیا میں شر و فساد کا دریا موجزن، بغرض و عناد کی آگ شعلہ زن اور افواج شیطانی کا ہر چہار طرف تسلط اور کمرے کھوئے کی پیچان اور حق و باطل کا نشان روئے زمین سے منقوٹ اور الہ ہوا کے ذغل و فساد کا سکہ تمام عالم میں رائج کر کوئی مدعی نبوت کوئی الوہیت، کوئی مہدویت کوئی مسیحیت اور ہر ایک اپنے اثاثات دوئی میں دلائل باطلہ و تاویلات لا طائلہ کو بیان کرتا ہے اور اپنی ساسی و شیریں بیانی سے حق کو باطل و باطل کو حق کر دکھاتا ہے بقول فتنے ”جس کی لائی اس کی بیٹیں“ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادریانی اور اس کے اتباع نے اپنے مجموعات باطلہ و خیالات و اہمیہ کا ہر چہار اطراف و اکنافِ عالم میں جال پھیلا رکھا ہے اور جو کوئی ان کے ہاں میں ہاں نہ ملائے اور اپنے کو ان کے جال و دام تزویر میں مجبوں نہ قرار دیوے اس کو کافر کروانا ہے سو اپنے پڑ آشوب زمانے میں کسی قسم کی تحریر و تقریر حقہ و صادقة کا اٹھا کرنا اپنے کوس و ششم کا نشانہ بنانا ہے لیکن چونکہ عجم قرآنی و امر آسمانی امر بالسرور و دعوۃ الی الحق ضروری اور واجب ہے۔ اس لیے میں تمام الفاظ و کلمات غیر مہذبانہ و مودبانہ کے سننے کے لیے تیار ہوں۔

حضرات! اس وقت قابل تحریر و اٹھا کر امر یہ ہے کہ حکومت افغانی نے جو نعت اللہ قادریانی کو ب مجرم احمدیت

از روئے شرع شریف سنگار کر دیا اور ہندوستان کے تقریباً تمام علماء عظام نے خصوصاً ہمارے اکابر علماء دیوبند یعنی حضرات مدرسہ عالیہ مظاہر علوم سہارپور اور دارالعلوم دیوبند نے امیر صاحب ایداللہ بنصرہ کے تحسین میں ایک نمایاں حصہ لیا اور حکومت کے اس فعل کو موافق کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و مطابق آثار و افعال صحابہ کتب فقہ حنفیہ قرار دیا مگر مولانا شاہ اللہ صاحب جو واقعی اہل اسلام میں ایک اتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ وقام ازل نے آپ کو ان لوگوں کے قلع و قلع و استیصال کے لیے خاص حصہ عطا فرمایا ہے اور سینکڑوں مرتبہ میدان کارزار میں قادریٰ امت سے زور آزمائی بھی ہوئی مگر الحمد للہ ہر جگہ نکلت فاش دے کر فتحیٰ کا سہرا پہننا اور شیر چنگاب کے لقب سے ملقب ہوئے۔ سو آپ کے بھی اس مسئلہ میں قدم پھیل گئے۔ محمد علی لاہوری اور مولانا شاہ اللہ امرتسری دونوں حضرات نے متفق طور پر رسالہ و اخبار کی صورت میں اپنے عندیہ کو اعلانیہ ظاہر کر کے اس بات کو بتلادیا کہ واقعی حکومت کا یہ فعل قابل نفرت اور عخالف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و فقہ حنفیہ و شافعیہ ہے کہ کسی سے قتل مرتد کا ثبوت نہیں ہے۔ افسوس اور واد رے انقلاب کیا تخریجی انقلاب آسائی ہو جائے گا۔ مولانا سے اسکی بات کا صادر ہونا خلافی شان و خالی از توجہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام..... میں اس بات کو ظاہر کروں گا کہ حکومت کا یہ فعل بالکل مطابق قرآن و حدیث اور موافق کتب فقہ حنفیہ ہے مگر دو مقدمے قابل لحاظ ذکر ہیں۔ اولاً تعریف ارتدا دھانیاً قتل مرتد کہ جس سے یہ امر خود ہی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گا کہ واقعی سلطنت کا یہ فعل قابل تحسین مطابق قرآن، حدیث، فقہ حنفیہ وغیرہ ہے۔ نیز اہل الصاف سے انجا کروں گا کہ آیا مرزا او مرزاً ای اس کے مصدق ہیں یا نہیں۔ یہ امر ظاہر ہے کہ مجھ کو مرزاً ای امت سے کسی حرم کا بغض و عناد و نجیب نہیں تاکہ انھیں کافر و مرتد ثابت کیا جائے بلکہ محض حکم اللہ و شریعت نبوی بیانگ دل کہتی ہے کہ مرزا او مرزاً ای کافر و مرتد ہیں۔ (انشاء اللہ آئندہ معلوم ہو جائے گا) اس وجہ سے باحتمال امر شریعت ان کو کافر و مرتد کہا جاتا ہے۔

مقدمہ اولیٰ تعریف ارتدا دا ذکر کتب فقہ حنفیہ

(۱) دریغات بر حاشیہ شامی باب حکم المرتد ج ۳ ص ۳۰۹ میں لکھتے ہیں۔

وہی لغہ الراجح مطلقاً و شرعاً (الراجح عن دین الاسلام و رکنها اجراء کلمة الكفر على اللسان بعد الايمان). (لغت مطلقاً پھر جانے والے کو مرتد کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں جو دین اسلام سے پھر جائے اور ارتدا کا رکن بعد الايمان محض کلمات کفریہ کا زیان پر جاری کرنا ہے۔)

(۲) بدائع الصنائع ج ۱ ص ۱۳۲ ج ۷ فعل بیان احکام المرتدین میں فرماتے ہیں۔

مار کنہا اجراء کلمة الكفر على اللسان بعد الايمان اذا الردة عبارة عن الرجوع عن الايمان فالرجوع عن الايمان يسمى ردة في عرف الشرع. بعد الايمان کے کلمات کفریہ کو زیان سے کہنا یہ رکن ارتدا ہے کیونکہ ارتدا کے معنی ایمان سے رجوع کرنا ہے۔ اس لیے اصطلاح شرع میں رجوع عن الايمان کا نام ارتدا ہے۔)

(۳) علامہ ابن حمیم بخاری باب حکم المرتد ج ۵ ص ۱۱۹ میں فرماتے ہیں۔

المرتد في اللغة الراجح مطلقاً و في الشريعة الراجح عن دین الاسلام. (لغت مطلقاً پھر نے والے کا نام مرتد ہے اور اصطلاح شرع میں جو شخص دین اسلام سے پھر جائے۔)

(۴) قماوی عالجیریہ باب فی احکام المرتدین ج ۲ ص ۲۵۳ میں فرماتے ہیں۔

المرتد عرفا هو الراجح عن دين الاسلام كذافي النهر الفائق ورکن الرده اجراء کلمة الكفر على اللسان بعد وجود الايمان۔ (جو شخص دین اسلام سے پھر جائے وہ عرف میں مرد ہے ایسا ہی نہر الفائق میں ہے۔ اور کن ارتدا ایمان کے بعد کلمات کفریہ کو زبان سے کہا ہے۔)
 (۵)..... علامہ ابن الہام فتح القدر باب حکم المرتد ص ۳۰۷ ج ۵ میں تحریر کرتے ہیں۔

المرتد هو الراجح عن دین الاسلام۔ (جو شخص دین اسلام سے پھر جائے وہ مرد ہے۔)
 حضرات! ان تمام تعریفات فقہاء سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بعض کلمات کفریہ کا زبان سے کہنا یہ دلیل ورکن عظیم ارتدا ہے جیسا کہ صاحب بدائع وغیرہ نے فرمایا ہے اور دیگر حضرات بھی الراجح عن دین الاسلام سے تعریف باللازم فرمادیں کہ صاحب بدائع کی رائے سے متفق ہیں۔ اب جن حضرات نے تعریف ارتدا ہیں میں تکذیب اسلام یا تکذیب رسول ہی کو دخل دیا ہے وہ بتائل سرگوں ہو کر توجہ فرمائیں کہ وہ کس قدر غلطی و کبروی پر ہیں ورنہ اثبات دعویٰ بذمہ مدعی اور بغیر اس کے غلطی و ناصافی ہے۔
 بعد ازاں میں اس امر کو روشن کرتا ہوں کہ مرزا قادریانی بروئے تعریفات ارتدا فقہاء و علماء مرتد ہوا اور اس کے اتباع بدرجہ اولیٰ۔ ملاحظہ ہو۔

اولاً مرزا کا ادعائے نبوت و رسالت کرنا یہ خود ہی اثبات کفر و رذۃ مرزا کے لیے دلیل بین واجلی بدستیات سے ہے کہ جس تفصیلی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر شخص عوام و خواص کو یہ بات معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد سلسلہ انبیاء ختم ہو چکا۔ اب کسی قسم کے نبی کی ضرورت نہیں ہے اور نیز اس امر پر قرآن شریف و احادیث و اجماع و آثار صحابة و قیاس صحیح صراحتاً وال ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء و قم الانبیاء ہیں مگر قادریانی مرزا آیا تو قرآنیہ و احادیث صریحہ و اجماع امت کے خلاف نبوت و رسالت کا آوازہ بلند کرتا ہے اور طرح طرح کے دلائل صحیحہ و تاویلات رکیکہ سے اپنے اثبات مدعایں ایڑی و چوٹی کی قوت صرف کر دیتا ہے چنانچہ میں چند اقوال و ہدفوات مرزا بابت دعویٰ نبوت و رسالت نقل کرتا ہوں۔

اقوال مرزا بابت دعویٰ نبوت و رسالت

(۱)..... ”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔“ (ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۲۷)

(۲)..... ”میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۹)

(۳)..... ”اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتاؤ کہ کس نام سے اس کو پکارا جائے اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی لغت کی کسی کتاب میں اظہار غیب نہیں۔“ (اشتہار ایک غلطی کا ازالہ ص ۵ خواش ج ۱۸ ص ۲۰۹)

صاحب! لا ہو ری پارٹی جو مدعی محدث و مجدد ہے اس کو چاہیے کہ وہ مرزا کی اس لغت و ای دمختیاں پر غور کرے اور اپنے اعتقادات فاسدہ سے رجوع کے لیے تیار ہو جائے ورنہ مدعی ست گواہ چست کی مصدق ہے۔

بعض جگہ مرزا نہایت دلی زبان سے اقرار نبوت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”خدا نے مجھے تمام انبیاء علیهم السلام کا مظہر تھا ریا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں۔ میں شیٹ ہوں۔ میں نوح ہوں۔ میں ابراہیم ہوں۔ میں اکٹھن ہوں۔ میں اسٹلیل ہوں۔ میں یعقوب ہوں۔ میں یوسف

ہوں۔ میں موئی ہوں۔ میں داؤد ہوں۔ میں عیسیٰ ہوں۔ اور آنحضرت ﷺ کا میں مظہر اتم ہوں یعنی ظلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔” (حقیقت الوجی حاشیہ ص ۲۳ خزانہ حج ۲۲ ص ۷۶)

دیکھئے! مرزا قادیانی کیسا ظلی کے آڑو پر وہ میں فکار کھیلتا ہے کہ جمیع انبیاء علیہم السلام کا میں ہو گیا۔ چہ خوش عن من خوب سے شاسم ہی ان پار سامرا زمی۔

بہر رنگے کہ خواہی جائے سے پوش

من انداز قدت رائی شاسم

مرزا دوسرا جگہ لکھتا ہے کہ ”سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بیکجا۔“

(واضح البلاطم اخ خزانہ حج ۱۸ ص ۲۲۳)

اور اسی رسالہ میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ ”قادیان اس واسطے محفوظ رہے گا (یعنی طاعون سے) کہ یہ رسول کی تخت گاہ ہے اور تمام امتوں کے لیے نشان ہے۔“ (واضح البلاطم اخ خزانہ حج ۱۸ ص ۲۲۰)

بعض جگہ مرزا نزول وحی کی آڑ میں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اس وجہ سے کہ جیسا حضور ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح سے خاتم الوجی بھی ہیں اب اگر کوئی نزول وحی کا دعویٰ کرے گا تو یہ نبوت ہو گا۔ چنانچہ قادیانی نبی نزول وحی کا دعویٰ باس الفاظ کرتا ہے۔

آنچہ۔ من بشوم نوی خدا

بندا پاک دائم ز خطا

نہج قرآن منزل دائم

از خطایا ہمیں است ایمان

(نزول اسحاق ص ۹۹ خزانہ حج ۱۸ ص ۷۷)

الہذا ممی نبوت بھی ہوا اور اس کے جس قدر الہمایات ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی رحمابا الخیب صحیح و درست ہوں گے۔ ورنہ سب کے سب مکذب و غلط سے مخلط کر جس کی مثال قرآن کریم سے دیتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ چنیست خاک ربابا عالم پاک۔

دوسری تحریر مرزا ”یہ مکالمہ الہمی جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں لٹک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت جاہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا وہ قطعی اور یقینی ہے اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی لٹک نہیں کر سکتا کہ آفتاب اور اس کی روشنی ہے۔ ایسا ہی میں اس کلام میں لٹک نہیں کر سکتا جو خدا کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر..... اور چونکہ میرے نزدیک نبی اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقینی و قطعی بکثرت نازل ہو جو غیریب پر مشتمل ہو۔ اس لیے خدا نے میرے نام نبی رکھا گر بغیر شریعت۔ (جملات الہمی ص ۲۰ خزانہ حج ۲۰ ص ۳۲)

ناظرین ای یا لائل سفید جھوٹ ہے کہ میں نبی غیر تعریفی ہوں کیونکہ بعض جگہ خود ہی اقرار کرتا ہے کہ میں صاحب شریعت ہوں۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ ”اگر کوئو کہ صاحب شریعت افترا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اول یہ دعویٰ بے دلیل ہے خدا نے اس افترا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کر شریعت کیا جائز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امرا اور نبی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ میں اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملوم ہیں کیونکہ میری وحی میں

امر بھی ہے اور نبی بھی مثلاً یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم ذلک از کی لہم یہ را این الحمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نبی بھی اور اس پر تجسس بر س کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی اور اگر کہو شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے احکام ہوں تو یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہذا الفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی قرآنی تعلیم توریت میں بھی موجود ہے اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں بالاستفقاء امر اور نبی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں بالاستفقاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی مکجاش نہ رہتی۔“ (ارجعین ص ۶ نمبر ۳۳۵ خواہن حج ۱۷ ص ۲۳۲-۲۳۳)

حضرات! کیا اس کے بعد اس کو اگر کذاب، دغabaز، مکار، جعلساز کہا جائے تو کوئی بجا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہاں تک مرزا قادریانی کے اقوال بابت دعویٰ نبوت و رسالت و نزول وقی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے کہ جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی مرزا مدعی نبوت تھا۔ بعد ازاں یہ امر قابل دید ہے کہ شریعت نبوی اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے اور ایسے شخص کے لیے کیا لقب تجویز فرماتی ہے؟ سو سنے مخترا عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم اس کے متعلق ہاتھ فیصلہ کر چکا ہے کہ جانب رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین و قصر نبوت کی آخری اینٹ تھے۔ آپ ﷺ کے بعد دروازہ نبوت بند ہو گیا اب کسی قسم کے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس امر کے متعلق اکابر علماء کے اقوال یہ سور شہادت نقش کرتا ہوں۔

(۱).....علامہ قاضی عیاض (الشقام باب فی بیان ماہی من المقالات کفر ح ص ۲۳۲) میں تحریر فرماتے ہیں۔

لأنه أخبر عن الله خاتم النبيين ولا نبی بعده و أخبر عن الله تعالى الله خاتم النبيين و اجمعـت الـأمة عـلـى حـمـل هـذـا الـكـلـام عـلـى ظـاهـرـه و اـن مـفـهـومـهـ الـعـرـادـبـهـ دونـ تـاوـيلـ وـ لـا تـحـصـصـ فـلـا شـكـ فـي كـفـرـهـ لـأـطـوـافـ الـطـوـافـ كـلـهاـ قـطـعاـ اـجـمـاعـاـ سـمـعـاـ۔“ کیونکہ یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ نبی ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور اس بات پر اجماع امت ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہری معنے پر محول ہے۔ اور اس کا ظاہری مفہوم بلا تاویل و تخصیص مراد ہے پس یقیناً یہ تمام جماعت اجتماعاً و شرعاً کافر ہے۔“

(۲).....علامہ ابن حبیم (جز الرائق باب احکام المردین ح ۵ ص ۱۷۱) میں لکھتے ہیں۔

و يكفر بقوله ان كان ماقال الانبياء حقا او صدق او بقولهانا رسول الله.“ انسان اپنے اس قول سے کہ جو کچھ انبياء علیهم السلام نے فرمایا ہے حق و صادق نہیں اور میں رسول اللہ ہوں کافر ہو جاتا ہے۔“

(۳).....(الأشبه والنظائر باب کتاب السیر ح ۱۰۲) میں فرماتے ہیں۔

اذا لم یعرف ان محمدا علیہ السلام آخر الانبياء فليس بمسلم الا انه من الضروريات.“ جبکہ کسی شخص نے اس بات کو نہیں جانتا کہ محمد ﷺ آخر الانبیاء ہیں تو وہ مسلم نہیں اس وجہ سے کہ یہ ضروریات دین سے ہے۔“

(۴).....فتاویٰ عالمگیریہ ص ۲۶۳ باب مطلب موجبات الکفر میں تحریر فرماتے ہیں۔

اذا لم یعرف الرجل ان محمدا علیہ السلام آخر الانبياء فليس بمسلم ولو قال انا رسول الله او قال بالفارسية من پیغمبرم یرید به من پیغام می یوم یکفر۔“ جبکہ کسی شخص نے اس بات کو نہیں معلوم کیا

کہ حضور ﷺ آخراً انبیاء ہیں تو وہ مسلمان نہیں اور اگر اس نے کہا کہ میں رسول اللہ ہوں یا زبان فارسی میں یوں کہا کہ میں مخبر ہوں اور مراد اس کی یہ تھی کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔“
(۵).....علامہ طالعی القاری (شرح تقدیر اکبر باب المسألة الحسنة بالدرس ۰۰۲) میں تحریر کرتے ہیں۔

ودعویٰ النبوة ﷺ بعد نبینا کفر الاجماع۔ ”نبی ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت بالاجماع کفر ہے۔“
(۶).....علامہ سید محمود آلوی (تفسیر دوحة المعنی ج ۲۲ ص ۳۹) میں فرماتے ہیں۔

وکوہ حالت النبین ﷺ ماما نطقت به الكتب و صدعت به السنة واجمعت عليه الامة
فیکفر مدعی خلافه و يقتل ان اصر ”نبی ﷺ کا خاتم النبین ہوتا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ سے ہے بت
ہے اور اس پر اجماع امت ہے لہذا اس کے خلاف کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے اور اگر اس پر جمارہ تقتل کیا جائے گا۔“
(۷).....کتاب مل نخل میں امام ابن حزم لکھتے ہیں۔

فكيف يستجيب مسلم ان يثبت بعده عليه السلام نبيا في الأرض (العمل والنحل باب ذكر
شيع الشيعة ج ۳ ص ۱۱۳) ”کوئی مسلمان اس امر کو کیوں کر جائز کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کسی
نبی کو زمین پر ثابت کرے۔“

(۸).....علامہ ابن حجر اسکی اپنے قاوی میں رقطراز ہیں:
من اعتقاد وحیا بعد نبیا ﷺ کفر باجماع المسلمين۔ ”جو شخص نبی ﷺ کے بعد نزول وحی کا
اعتقاد رکھتا ہے وہ اجماعاً کافر ہے۔“

(۹).....قال ابن عبدالحکم فی المسوط من تباً قتل۔ ”مسوط میں ابن الحکم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دعویٰ
نبوت کرے وہ قتل کیا جائے۔“

(۱۰).....قال ابن القاسم فی كتاب ابن حبيب و محمد فی العقبیة فیمن تباء يستتاب اسر ذلك
اواعله وهو كالمرتد (التفاء فصل حد احکم من صرح به ج ۲ ص ۲۵۸) ”ابن قاسم کتاب ابن حبيب میں محمد عقبیہ میں
فرماتے ہیں کہ جو شخص دعویٰ نبوت کرے خواہ ظاہراً ہو یا باطنًا اس سے توبہ طلب کی جائے اور اس کا حکم مرتد حیسا ہے۔“
تلک عشرة كاملة صاحبو! ان تمام حالہ جات مذکورہ بالا سے یہ امر معلوم ہو گیا کہ جو شخص مدعاً نبوت و نزول
وھی کا ہو گا وہ کافر شمار کیا جائے گا اور بر تقدیر اصرار قتل قتل ہے۔ جیسا سید صاحب وغیرہ نے بیان فرمایا ہے۔
بعد ازاں کفر و ارتداد مرزا اور مرزا ای میں ہنا بر تعریف قفهماء کیا کسی کو بیک و شبہ باقی ہے؟ ہرگز نہیں! بیک وہ کافر و
مرتد ہے۔

اب اس جگہ سے چند تحریرات مرزا اور پیش کرتا ہوں کہ جن میں مرزا قادریانی نے اعلاناً انجیائے علیہم
السلام کی توہین و تذمیل کی ہے اور خود سب سے افضل بن بیضا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ ﷺ کی شان میں ایسے دل
آزار کلمات لکھتا ہے کہ اس کے اظہار سے بدن میں رعشہ پڑ جاتا ہے کہ جس پاک طینت نبی کے احوال قدیسیہ سے
قرآن و احادیث مملو ہیں ان کے متعلق ایسی بے باکانہ گستاخی کرنا مرزا عیٰ کی جرأت و جسارت اس کو مقتضی ہے۔
جس ہے ۔

تیر پر تیر چلاوَ تھیں ڈر کس کا ہے
سینہ کس کا ہے مری جان بجگر کس کا ہے

ہفواتِ مرتضیٰ بابتہ اہانتِ حضرت علیٰ الحمد لله

(۱)..... آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کبھی عورتیں نہیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ (ضمیرِ انجام آخر قصہ ص ۶۵۸ خزانہ حج ۱۱ ص ۲۹۱)

العیاذ باللہ ولعنة اللہ علی الکاذبین۔

(۲)..... ایسے ناپاک خیالِ مکبر اور راستبازوں کے دشمن کو ایک بھلامانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے چ جائیکہ اسے نبی کہا جائے۔ (ضمیرِ انجام آخر قصہ ص ۶۵۸ خزانہ حج ۱۱ ص ۲۹۲)

مریم کا بیٹا کھلیا کے بیٹے سے زیادت نہیں رکتا۔ (انجام آخر قصہ ص ۶۳۳ خزانہ حج ۱۱ ص ۲۹۳)

(۳)..... اس کو تین مرتبہ شیطانی الہام ہوا۔ جس کی وجہ سے خدا سے مکبر ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔

(۴)..... حضرت سُعیٰ ابن مریم اپنے باپ یوسف نجار کے ساتھ یائیں برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔ (ازالہ اوہام ص ۳۰۳ خزانہ حج ۱۱ ص ۳۵۲)

(۵)..... سعیٰ کے حالات پر ہوتی یہ غصہ اس لاائق نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو۔ (احجم ۲۱ فروری ۱۹۰۲)

(۶)..... یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ ہے کہ سعیٰ مثیٰ کے پرندے بنانے کا دران نہیں پھونک مار کر انہیں سعیٰ کا جانور بنانا تھا بلکہ مل تراپ تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سعیٰ ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح اقدس کی تاثیر کمی تھی۔ بہرحال یہ مجرہ صرف ایک کھیل کی قسم سے تھا اور وہ مٹی درحقیقت اسی مٹی تھی جیسے سامری کا گوال۔ (ازالہ اوہام ص ۳۲۳ خانہ خزانہ حج ۱۱ ص ۲۶۳)

(۷)..... ابی مرزا صاحب یہ لفظ حضرت کیسا بڑی توقیر و عزت افرادی آپ نے فرمائی۔ جنماں ہم پر کیسی اتنی مہربانی کی حالت میں خدا جانے اگر تم خشمگین ہو تو تو کیا کرتے۔ کیوں مرزا جی چونکہ باری تعالیٰ نے حضرت علیٰ الحمد لله کے متعلق فرمایا ہے انی اخلاق لکم من الطین کھشیۃ الطیر فانفع فیہ الخ (آل عمران ۲۹) غالباً اسی وجہ سے تو یہ اعتقاد مشرکانہ ہے۔ ناظرین کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا کا آیات قرآنیہ پر ایمان تھا اور احمدی دوستو تھما را ایمان آیات مذکورہ پر تبدیلہ اولیٰ نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرزا جی کے نزدیک آیات قرآنیہ پر ایمان لانا اعتقاد مشرکانہ ہے۔ ایسا نہیں بلکہ قدایانیو خوب سے معلوم ہو گا حشر میں پینا شراب کا)

(۸)..... سعیٰ کی راستبازی اپنے زمانہ کے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ سعیٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہیں سنائیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے عطر اس کے سر پر ملا تھا۔ یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کو چھووا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ (دفع البلااء ص ۲۰ خزانہ حج ۱۱ ص ۲۲۰)

بعض کتابوں و تحریرات میں پنجابی نبی حضرت علیٰ الحمد لله کو نہایت غصہ سے بایں الفاظ دھمکایا ہے۔

ایک ننم کہ حسب بشارات آدم

عسیٰ کجاست تائید پا بہ منرم

(ازالہ اوہام ص ۱۵۸ خزانہ حج ۱۱ ص ۱۸۰)

”ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔“ (دفع البلااء ص ۲۰ خزانہ حج ۱۱ ص ۱۸۱)

حضرات..... آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک ایسے برگزیدہ سچے نبی اور ان کے محبوات کی کس قدر تو ہیں و تذلیل کی ہے کہ ایک ادنیٰ مسلم اس بات پر تیار نہیں ہو سکتا اور کیونکہ ہو جبکہ قرآن شریف صراحت آپ کے نبوت و محبوات مقدسہ کا شاہد ہے۔ اس سے کس کو اخراج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔

- (۱) وَآتَيْنَا عِيسَىً بْنَ مَرِيمَ الْبَيْنَاتَ وَإِذْنَاهُ بِرُوحِ الْقَدْسِ۔ (ابقرہ ۸۷)
- (۲) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيمَ إِنَّ اللَّهَ يَشْرِكُ۔ (آل عمران ۲۵)
- (۳) إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَىً بْنَ مَرِيمَ رَسُولُ اللَّهِ۔ (نامہ ۷۵)
- (۴) مَا الْمُسِيحُ إِنْ مَرِيمٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ (ہمہ ۷۵)

ناظرین! آیات مذکورہ کا تبادلہ قرآن شریف میں مطالعہ فرما کر مرزا کو کافرو مرتد سمجھئے کیونکہ مرزا کا حضرت عیسیٰ ﷺ اور آپ کے محبوات کی توہین و بے حقیٰ کرتا ہیں قرآن کریم کا انکار و صراحت تکذیب و کفر و ارتداوی و دلیل تھا ہے باسیں وہ مرزا اور مرزا میں است کافرو مرتد ہیں۔

برادران امت۔ اقوال علمائے کرام بطور نمونہ مندرج ذیل کیے جاتے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس نے انبیاء علیہم السلام کی توہین و تذلیل کی وہ کافرو مرتد اور قاتل قتل ہے علی ہذا القیاس! مرزا صاحب مرزا بھی کافرو مرتد ہیں۔

اقوال علماء کرام بابت اہانت انبیاء ﷺ

(۱) قاضی عیاض شفاء نصل من سب سائر الانبیاء ج ۲۲۱ ص ۲۲۱ میں فرماتے ہیں۔

قال مالک فی کتاب ابن حبیب و محمد و قالہ ابن القاسم و ابن عبد الحکیم و اصیع و سخنون فیمن شتم الانبیاء او واحداً منهم او تنقضه قتل ولم يستتب من سابهم من اهل الذمة قتل الا ان یسلم. ابن حبیب محمد کی کتاب میں امام مالک نے فرمایا ہے اور یہی رائے ابن القاسم اور ابن عبد الحکیم اور اصیع اور سخنون کی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے تمام انبیاء علیہم السلام یا ان میں سے کسی ایک کو گالیاں دی یا توہین کی تو وہ بلا طلب تو قتل کیا جائے اور اگر ذمیوں میں سے کسی نے انبیاء علیہم السلام کو گالی دی ہے تو وہ بھی قتل کیا جائے مگر جب اسلام قبول کر لے تو قتل نہ کیا جائے گا۔

(۲) وقال ابوحنیفة و اصحابه علی اصحابهم من کذب باحد من الانبیاء او تنقص احداً منهم او بری منه او شک شی من ذلك فهو مرتد۔ (الشفاء باب حکم من سب سائر الانبیاء ج ۲۲۲ ص ۱۹۱)

امام ابوحنیفة اور آپ کے اصحاب نے اپنے قاعده کو لمحظہ رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی نبی کی نبیوں سے تکذیب یا توہین کی یا ان سے بیزار ہوا یا ان چیزوں میں سے کسی میں شک کیا تو وہ مرتد ہے۔

(۳) وقال بعض علمائنا اجمع العلماء على ان من دعا على نبی من الانبیاء بالويل او شی من المکروہ فلنہ یقتل بلا استبابۃ۔ (الشفاء باب فی بیان ما ہو فی حق علیہم السلام ج ۲۲۲ ص ۱۹۱) ہمارے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص نبیوں میں سے کسی نبی پر ویل یا کسی کلمہ مکروہ سے بدعا کرے تو وہ بغیر طلب تو قتل کیا جائے۔

(۴) قاضی صاحب کتاب مذکور (الشفاء باب فی بیان ما ہو فی حق علیہم السلام ج ۲۲۲ ص ۱۹۲) میں ایک نہایت دلچسپ واقعہ نقل فرماتے ہیں جو قاتل دید ہے۔

الفتی فقهاء القیروان واصحاب سخنون بقتل ابراهیم الفزاری و کان شاعر امتننا فی کثیر من العلوم و کان ممن يحضر مجلس القاضی ابی العباس بن طالب للمناظرة فرفعت عليه امور منکرة من هذا الباب فی الاستهزاء بالله والبیانه ونبیا علیه الصلوۃ والسلام فاحضر له القاضی حسین بن عمر وغيره من الفقهاء و امر بقتله وصلبه فطعن بالسکین و صلب منکساً ثم اندل واحرق بالنار. فقهاء قیروان اور اصحاب سخنون نے ابراهیم فزاری کے قتل کا فتویٰ دیا اور یہ شخص ایک زبردست شاعر اور ماہر علوم تھا۔ عموماً قاضی ابوالعباس کی مجلس مناظرہ میں آتا تھا۔ اس سے چند ناجائز امور مثلاً ذات باری تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام اور جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمسخر کرنا ثابت ہوا۔ قاضی موصوف نے مجی بن عمرو دیگر فقهاء کرام کو اس کے لیے مدعوف رکار اس کے قتل اور سول کا حکم نافذ کیا چنانچہ وہ چھپریوں سے زخمی کیا گیا اور سولی پر اٹا لٹکایا گیا اور پھر اتار کر آگ میں جلا دیا گیا۔

(۵).....عقوب الداریہ فی تفہیق قتاویٰ خادمیہ ص ۱۷۱ میں قتاویٰ برازیہ سے نقل فرماتے ہیں۔

الا اذا سب الرسول ﷺ او واحد من الانبياء علیہم السلام فانه يقتل حداً بلا توبۃ له. مگر جبکہ رسول اللہ ﷺ یا نبیوں میں کسی نبی کو گالیاں دی تو وہ ازروے حد بغیر توبہ قتل کر دیا جائے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ مذکور میں ایک حدیث مندرج ہے جس کو قاضی صاحب نے بھی اپنی کتاب شفاء میں نقل فرمایا ہے۔

وروى عبد الله بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن محمد بن على بن الحسين وعن حسين بن على عن أبيه قال من سب نبیاً فاقتلوه ومن سب اصحابی فاضربوه. (الشفاء باب فی الحجۃ فی ایجاد قتل ج ۲ ص ۱۹۲) "حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی نبی کو گالی دی تو اس کو قتل کر دو اور جس نے صحابہ کو برما بھلا کہا اس کو مارو۔"

(۶).....قاضی عیاض شفاء میں تحریر فرماتے ہیں۔

وفي كتاب محمد اخبرنا اصحاب مالك انه قال من سب رسول الله او غيره من النبيين من مسلم او كافر قتل ولم يستتب. (الشفاء فصل حدا حکم أسلم ج ۲ ص ۲۲۱) كتاب امام محمد میں ہے کہ اصحاب مالک نے ہم کو خردی ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ جس نے نبی ﷺ یا مسیح یا مساوا آپ کے کسی اور نبی کو گالی دی چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر قتل کر دیا جائے اور توبہ نہ پہنچ کی جائے۔

(۷).....ملا علی القاری میں فرماتے ہیں۔

وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار الواجبات الظاهرة المعاشرة المحترمات الظاهرة المعاشرة فإنه يستتاب قاتل قاتل فيها والاقتل كالقول مرتدأ. (شرح فتاویٰ اکبر باب المسئلة المتعلقة بالکفر ص ۲۰۰) اس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص نے واجبات ظاہرہ متواثرہ اور محکمات ظاہرہ متواثرہ کا انکار کیا تو اس سے توبہ طلب کی جائے اگر تائب ہوا تو بہتر ورنہ مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے۔

(۸).....شفاء قاضی عیاض میں ہے۔

او قال انه لم يبلغ او استخف به او يأخذ من الانبياء ازرى عليهم او اذاهم الى آخره فهو كافر باجماع. (الشفاء باب فی بيان ما عومن القاتلات كفر ج ۲ ص ۲۳۶) یا کسی شخص نے یہ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچ احکام

نہیں فرمائی یا آپ کو یا نبیوں میں سے کسی نبی کو خفیف و تھیر سمجھایا عجیب لگایا اور تکلیف دی تو وہ اجماعاً کافر ہے۔

(۹) و كذلك من اعترف بالالہم والوحدانیہ ولکن حجد النبوة من اصلہا عموماً او سوہ نبینا خصوصاً او احدا من الانبیاء الذین فصرح اللہ عزوجل علیہم بعد علیہ کذالک فھو کافر (صفحہ نور الشفاء باب فی بیان ما ہومن القالات ج ۲ ص ۲۳۵) ”اسی طرح جو شخص الوہیۃ اور وحدانیت کا معرف ہو مگر ثبوت کا بالکل انکار کرتا ہو یا صرف جناب رسول اللہ ﷺ یا کسی ایسے نبی کی نبوت کو جانتے ہوئے جن کی نبوت کی خدا تعالیٰ نے تصریح فرمادی۔ انکار کرتا ہو تو وہ کافر ہے۔“

(۱۰) و كذلك من وان بالوحدانیہ وصحیۃ النبوة ونبیوہ نبینا ولکن جوز علی الانبیاء الکذب فيما اتوا به فھو کافر بالاجماع۔ (صفحہ نور الشفاء باب فی بیان ما ہومن القالات کفر ج ۲ ص ۲۳۵) ایسے ہی وہ شخص جو وحدانیت اور نبوت اور جناب رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا مقرر ہو مگر جو کچھ انہیا علیم السلام لائے ہیں اس میں ان کے کذب کو جائز رکھتا ہے تو وہ بالاجماع کافر ہے۔

تلک عشرۃ کاملہ (لاحظہ ہو گذشتہ صفحہ اخوات مرزا نمبر ۵، ۵) کہ مذکور نبوت عیسیٰ ﷺ ہے کسی شخص کو اس وقت بھی اس کے کفر و ارتداد میں تلک ہو سکتا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں رسوا۔ اور یہ قتل بھی کرنے ہیں تو چچا نہیں ہوتا۔ مرزا حضرت عیسیٰ ﷺ کے متعلق کہتا ہے۔ آپ کو کسی قدر محبوث بولنے کی بھی عادت نہیں۔ (تعوذ بالله من ذلک)۔

حضرات! کیا مرزا قادریانی نے عیسیٰ ﷺ کو گالیاں نہیں دی اور جھوٹا و فریب اور زنا کار و مکار نہیں بنایا اور کیا آپ کی عظمت و عصمت پر خاک نہیں ڈالی اور ظاہر اور اعلان اس آپ کی بے عزیزی و بے قبحی نہیں کی اور کیا آپ کی نبوت و مہجرات سے انکار صریح کر کے مسخریزم و شعبدہ و حکلوں نہیں قرار دیا۔ پیش، ضرور بالاضر و اس نے ایسی گستاخی حضرت عیسیٰ ﷺ کی شان میں کی ہے لہذا ہدہ مذکورہ بالاحوالیات کی رو سے کافر و مرتد قابل گردان زندی و لائق صلیب نہیں تھا؟ ضرور تھا۔ اسی وجہ سے مرزا ای امته خواہ لاہوری ہو یا قادریانی اس وعید و مراکی بدرجہ اولیٰ مستحق ہے ہاں وجہ حکومت افغانیہ کا یہ غل قابل ملامت نہیں بلکہ عین حکم شرعی ہے۔

مقدمہ ثانیہ قرآن کریم سے قتل مرتد کا ثبوت

اب میں اس طرف آتا ہوں کہ آیا قرآن میں قتل مرتد کا ثبوت ہے یا نہیں۔ سو قرآن کریم اس کے متعلق ناطق فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کو قتل کرنا چاہیے ملاحظہ ہو واقعہ گوسالہ سامری کہ جب نبی اسرائیلیوں کو حضرت موسیٰ ﷺ نے فرعون کے مظالم و مصائب سے زستگاری دی اور ایک مطمئن جگہ میں آٹھبرے۔ اس وقت نبی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ ﷺ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ اب اگر ہمارے لیے کوئی شریعت و قانون مقرر ہو جائے تو اس کو ہم اپنا دار کار بناؤں اس وجہ سے حضرت موسیٰ ﷺ نے حضرت ہارون کو ایک مدت معینہ کے لیے اپنا ظیفہ پنا کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور چالیس روز کی عبادت و متابرات کے بعد اسی جگہ آپ کو توریت عطا کی گئی اور اس طرف سامری نے سونے و چاندی کے ایک پچھرے کا قاب بنایا کہ اس میں کچھ مٹی جو حضرت جرجیل ﷺ کے گھوڑے کے قدم کی اس کے پاس تھی ڈال دی جس کی وجہ سے اس میں جان آگئی اور کچھ بولنے لگا اور جہلائے نبی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی جب حضرت موسیٰ ﷺ وابس آئے۔ تو قوم کو مرتد پا کر نہایت غصہ سے حضرت ہارون کو ڈالنا اور قوم کو ملامت کی اور اس پچھرے کو جلا کر نیست و نابود کر دیا۔

بعد ازاں ان مرتدین کے متعلق فیصلہ یزدانی نازل ہوا۔

انکم ظلمتم انفسکم بالتخاذذکم العجل فتعبوا الی بارنکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیرلکم (ابقرہ ص ۵۲) ”اے نبی اسرائیل تم لوگوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اب باری تعالیٰ کی جانب رجوع کرو۔ پھر اپنے آدمیوں کو قتل کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے“

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے عزیز واقارب کو جو مرتد تھے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔

حضرات! فیصلہ قرآنی سے یہ بات روشن ہو گئی کہ جو شخص مرتد ہو اور اسلام کو ترک کر دے اس کو محض بجمرا ارتدا و ترک اسلام قتل کرنا چاہیے جیسا کہ اصحاب عجل کو محض ارتدا ہی کی وجہ سے باری تعالیٰ نے قتل کا حکم فرمایا اور لفظ قتل عام سے جو ہر قسم کے قتل کو چاہے وہ لوہے سے ہو یا پھر سے یا اور کسی چیز سے سب کو شامل ہے۔ (اثاء اللہ آئندہ اس کی دلیل تفصیلی آئے گی) لہذا جو لوگ اس امر کے قائل ہیں کہ شریعت میں محض ارتدا و ترک اسلام پر قتل یا مطلق سزا مرتبت نہیں ہے وہ ذرا اس مسئلہ پر مردہ غور فرمائیں اگر یوں کہا جائے کہ یہ واقعہ حکم شریعت موسوی ہے۔ لہذا اللہ محمد یہ کو اس سے استدلال کرنا ناجائز ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ حکم شریعت موسوی ہے مگر چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی نفعی نہیں فرمائی بلکہ تائید کی ہے اس وجہ سے یہ استدلال صحیح اور معتبر ہے۔

شہوت قتل مرتد سنت رسول اللہ ﷺ سے

(۱) من بدل دینہ فاقتلوه (بخاری باب حکم المرتد ج ۲ ص ۱۰۳۳) جو اپنادین بدل دے اس کو قتل کرو۔

برادران اسلام! حدیث مذکور کس وضاحت سے قتل مرتد کو ثابت کر رہی ہے کہ جس میں بالکل تاویل و تخصیص کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ بدراحمد شیخ میں شرح بخاری ج ۷ ص ۵۶ و ۵۵ میں فرماتے ہیں۔

لہذا یدل علی ان کل من بدل دینہ فاقتلوه ولا يحرق بالنار واحتج این الماجشون ان المرتد یقتل بلا استتابة۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو اپنادین بدل دے اس کو قتل کرو اور جلاوة مت۔ اور این الماجشون اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرتد بلا طلب توبہ قتل کیا جائے۔ امام ترمذی اپنی کتاب ترمذی باب حکم المرتد ج اص ۲۷۰ میں لکھتے ہیں۔

والعمل على هذا عند اهل العلم في المرتد. اهل علم كاعملدرآمد قتل مرتد پر ہے۔

(۲) لا يحل دم امرء مسلم يشهدان الله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. النفس بالنفس والشیب الزانی والتارک الدينی المفارق للجماعۃ۔ (لفظہ سلم باب ما یباح به دم اسلم) ج ۲ ص ۵۹۔ بخاری باب قول اللہ تعالیٰ ان انس بانس ج ۲ ص ۱۰۱۶) کسی مسلمان کا خون کرنا و انہیں ہے گرفتن و جھوٹ میں سے ایک وجہ سے (۱) کسی بیگناہ کا قاتل (۲) شادی شدہ زانی کر جسے پھراؤ کیا جائے (۳) دین اسلام کا چھوڑنے والا اور جماعت مسلمین سے اعتقاداً علیحدہ رہنے والات۔

حضرات! قاتل غور یہ تیسرا جز ہے کہ جس میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام کو بایس صورت چھوڑ دے کے ایک جماعت مسلمین کے اعتقاد و اقوال و افعال سے جدا ہو کر کوئی دوسرا طریقہ اور رویہ اختیار کر لے خواہ وہ جماعت کفار کے ساتھ شرکت و حمایت کرے یا نہ کرے بہر صورت ایسے شخص کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ حکم

ارتداد و ترک اسلام موجب قتل و مسیح دم سلم ہے اسی وجہ سے امام مالک[ؓ] و میگر انہ کرام فرماتے ہیں کہ قادر یہ و خواجہ و تمام الہ بدعوت وغیرہ جو ایک جماعت حقہ کے اعتقادات و خیالات کے مخالف ہیں ان تمام کو قتل کر دو کیونکہ یہ مفسد دین اسلام ہیں۔ مگر مولوی شاہ اللہ صاحب اس کی تشریع یوں فرماتے ہیں کہ اس میں حضور ﷺ نے دولفظ فرمائے ہیں دین اسلام چھوڑنے والا اور جماعت سے مراد اسلامی قوم سے یعنی مسلم قوم کو چھوڑ کر کفار کی حمایت کرنے والا جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ان دو جزوؤں کے مجموعہ پر سزا مرتب ہے نہ کہ صرف ایک پر اور ان دو کا مجموعہ یہی ہے کہ مسلمانوں سے نکل کر کفار کی جماعت میں مل جائے۔” (ملاحظہ ہوشنا قاضی عیاض ص ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷) آگے لکھتے ہیں۔ اس لیے ایسے اشخاص جو اسلام چھوڑ کر کفار میں جائیں گے وہ ضرور حربی ہوں گے۔ لہذا ان کا حکم ان حربیوں کے برابر قرار دیا ورنہ مغضّ ترک اسلام سے ان پر موت یا قتل کا حکم نہیں لگایا۔ اتنی (خبراء المحدثین امر تحریر ۳ ریج الاول ۱۳۲۳)

مولانا کی اس انوکھی رائے سے غالباً ماسوا قادیانی امت کے سلف و خلف میں کوئی تتفق نہ ہوگا کیونکہ اکابر علماء سلف و خلف کی رائے یہ ہے کہ جملہ ثانیہ المفارق للجماعۃ جملہ اوپی التارک لدنیہ کی تاکید و بیان ہے نہ یہ کہ دونوں مستقل جزء ہیں بلکہ التارک لدنیہ کی (المفارق للجماعۃ) سے بیان کیفیت باہی صورت مدنظر ہے کہ ایک جماعت حقہ و طائفہ صادقة کے اعتقادات و خیالات و اقوال و افعال کے خلاف آوازہ بلند کرنا و پروپیگنڈا پھیلانا کہ جس سے عوام میں یہ جان و خلبان پڑ جائے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے اجماع امت و روشن سلف کے خلاف مدعا نبوت و مکر رسالت و نزول عیسیٰ ﷺ ہوا بایں وجہ اصحاب مرزا و مرزا دونوں مستحق قتل و سزا ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

وتفرق افتی علی ثلث و سبعین (کنز الاعمال ج ۱ حدیث نمبر ۱۰۵) میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان سے مراد افراد ای اعتقادی و قویٰ وغیرہ ہے نہ شرکت و حمایت کفار چنانچہ صاحب لعات بر حاشیہ مکملہ ص ۲۵۲ میں لکھتے ہیں۔

التارک للجماعۃ بیان لہ۔ التارک للجماعۃ جملہ اوپی کا بیان ہے۔

اور ملا علی قاری صاحب[ؒ] مرقاۃ شرح مکملہ ص ۳۲ میں تحریر فرماتے ہیں۔

التارک للجماعۃ صفة مؤکدة للمارق ای الذی ترك جماعة المسلمين و خرج من جملتهم وانفرد عن امورهم بالردة التي هي قطع الاسلام قولًا او فعلًا او اعتقادًا فيجب قتلہ ان لم يتع بـ التارک للجماعۃ مارق کی صفت مؤکدہ ہے۔ یعنی جو شخص بوجه ارتدا د کہ وہ اسلام کو ترک کرتا ہے خواہ وہ قول سے ہو یا فعل یا اعتقاد سے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے اور ان کے گروہ سے نکل جائے اور ان لوگوں کے معاملات سے علیحدہ ہو جائے اگر وہ تائب نہ ہو تو اس کا قتل کرنا واجب ہے۔

اور امام نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۲۰ مایہج دم اسلام حدیث مذکور کے ذیل میں فرماتے ہیں۔

فهو عام في كل مرتد عن الاسلام باى رده كانت فيجب قتلہ ان لم يرجع الى الاسلام قال العلماء يتناول ايضا كل خارج عن الجماعة ببدعة او بغي او غيرهما وكذا الخوارج. یہ حکم ہر مرتد عن الاسلام کے بارے میں ہے یہ اس کی روزہ خواہ کسی قبل سے ہو۔ اگر وہ اسلام میں داخل نہ ہو تو اس کو قتل کرنا چونکہ تغیر..... اس وجہ سے معتبر ہیں (من ادی غلی) یہ بالکل غلط و آیت قرآنیہ و حدیث صریح و اجماع امت کے خلاف (ملاحظہ ہو واقعہ محل وغیرہ)

واجب ہے اور علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص جماعت حق سے بیجہ بدعت اور بغاوت وغیرہ کے خارج ہو جائے اس کو بھی یہ حکم شامل ہے اور اسی حکم میں خارج بھی داخل ہیں۔

صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں۔ یہ صفت موکدہ ہے مارق کی۔ یعنی جو کہ چھوڑ دے جماعت مسلمانوں کی اور الگ ہو جائے ان سے بسبب مرتد ہونے کے کوہ چھوڑ دینا اسلام کا ہے از روئے قول کے یافل کے یا اعتقاد کے تو واجب ہے، قتل کرنا اس کا اگر توبہ نہ کرے۔

برادران! مذکورہ بالا حالہ جات سے دو امر بخوبی واضح ہو گئے۔ اولاً مفارقت جماعت سے مراد کسی جماعت حق کے اعتقادوں و اقوال و افعال کی مخالفت ہے نہ جماعت قوم کفار ہائی المغارق للجماعت یعنی جملہ عالیہ (التارک لدنیہ) جملہ اولیٰ کے لیے تاکید و بیان ہے اور دونوں کے ایک معنی ہیں نہ یہ کہ دونوں مستقل جزء ہیں وہ ہر ایک کے معنی دوسرے کے مخالف ہیں جیسا کہ مولوی صاحب فرماتے ہیں۔ لہذا مولوی صاحب مردہ بعد مردہ غور فرمایا تھا تاویلی و احتمادی رائے کی رجعت کا اٹھاہار کریں۔ درستہ (من ادی فطیلیہ الہیان)

بعد ازاں مولوی صاحب اپنے اثبات دعویٰ میں آیتے۔

ان الدین امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادو كفر الم يكن الله ليغفر لهم. (التساء ۱۳۷) ”جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر وہ مرتبہ دم تک کفر ہی میں بڑھتے گئے خدا ان کو نہیں بخشے گا سے نہایت عجیب و غریب استدلال فرماتے ہیں جو قابل دید ہے۔“

”پس سہی عدم بخشش ان کی سزا اخروی ہے قتل یا سگسار وغیرہ کا ذکر متفق ہے لہذا سزا بھی متفق (اخبار مذکور)“
ناظرین کرام! کیا آپ حضرات مولوی صاحب کی اس انوکھی رائے سے متفق ہیں۔ نہیں، نہیں، اس لیے کہ پیشک امته مرحومہ میں قتل و سزا کا ذکر متفق ہے لیکن کیا اس سے مولوی صاحب کامی روشن و ثابت ہو گیا درستہ میں تو سہی کہوں گا۔

کر ہمیں ملا ہمیں کتب کار طفلاں تمام خواہ شد

کیونکہ یہ مسئلہ اجلی بدیعت سے ہے کہ عدم ذکر شی عدم شی کو سلسلہ نہیں ہے۔ سو اگرچہ آیت مرقوم میں قتل و سزا کا ذکر متفق ہے لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ اس سزا قتل بھی متفق ہو کیونکہ عدم ذکر شی عدم شی میں لزوم نہیں (مگر ممکن ہے کہ مولوی صاحب کے نزدیک اس کا لزوم مسلم وغیرہ ہو) اور اس لیے کہ آیت ۱۳۷ کوہہ میں باری تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرمادیا ہے کہ جیسا مرتدین دنیا میں عقوبات شدیدہ و مختلف سزا میں جھٹا رہیں گے اسی طرح ان کو آخرت میں بھی عذاب ایم کا مرا چکھنا ہو گا اور مفترت نہیں ہو گی۔

”الحاصل آیت مسطورہ میں ذکر سزا اخروی ہے جو موجب ثقی سزا دنیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسری مجہ فرماتے ہیں۔“

ولقد قالوا كلمة الكفر و كفر وابعد اسلامهم (الى آخر ما قال) فلن يتعوبوا يك خير الهم وان يتعوبوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والآخرة. (توبہ ۱۷) ”پیشک ان لوگوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے ہیں۔ سو اگر وہ تائب ہو جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور اگر وہ نہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب کی دنیا و آخرت میں۔“

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ اس آیت میں بھی اسی امر کا ذکر ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے گا اس کو دنیا و آخرت میں عذاب الیم و عقوبت عظیم کا مرا چکھنا ہو گا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں عذاب الیم و عقوبت شدید سے مراد قتل وغیرہ ہے نہ اور کوئی شے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جیسا اس شخص پر دنیا میں رحمت و مغفرت نہیں کی جائے گی بلکہ قتل و سکسار کر دیا جائے گا اسی طرح سے آخرت میں بھی خائب و خاسر ہے گا کہ بخشش و مغفرت نہیں ہو گی۔ اور طرح طرح کے عذاب میں جتلار ہے گا۔

قتل مرتد کے متعلق حضرت عثمانؓ خلیفہ ثالث کا مذهب

عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف ان عثمانؓ اشرف علیہم فسمعہم وہم یذکرون القتل
فقال انہم یتوعدونی بالقتل فلم یقتلونی قد سمعت رسول اللہ ﷺ یقول لا یحل دم امراء مسلم الا
فی احدی ثلث۔ رجل زنا وہ ممحض فرجم اور جل قتل نفسا بغير نفس او رجل ارتد بعد الاسلام
فوالله ما زینت فی جاهلیة ولا فی الاسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتدت منذ اسلمت.

(ابن ماجہ باب لا محل دم امراء مسلم ص ۱۸۲)

حضرت عثمانؓ ایک مرتبہ اپنے دشمنوں کی جانب متوجہ ہوئے آپ نے سن کہ وہ لوگ قتل کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ مجھ کو قتل سے دھکاتے اور ڈراتے ہیں تو کس وجہ سے وہ لوگ مجھ کو قتل کریں گے حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں مگر ان تین وجہوں میں سے ایک وجہ سے۔ (۱)..... شادی شدہ زانی کر جسے رجم کیا جائے (۲)..... قاتل بیگناہ (۳)..... جو اسلام سے پھر جائے۔ سو تم ہے رب العزت کی کہ میں نے بھی زنا نہیں کیا نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں اور نہ کسی بیگناہ مسلمان کو قتل کیا اور نہ اسلام کے بعد مرتد ہوا۔

اس سے بھی یہ امر روشن ہو گیا کہ جو شخص مرتد عن الاسلام ہو جائے اس کو قتل کرنا ضروری اور واجب ہے اسی وجہ سے حضرت عثمانؓ جبکہ دشمنوں اور اعداء کے نزد میں گرفتے ہوئے تھے اور مخالفین آپ کے قتل پر مستعد و تیار تھے اس وقت استدلالاً مخالفین کے سامنے اس امر کو پیش کیا کہ اے خالق تو گم لوگ میرے قتل کے کیوں کوشش ہو۔ حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا روانہ ہے تو وقتیکہ اس میں ان تینوں میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ سو باری تعالیٰ کی قسم ہے نہ میں زانی ہوں اور نہ قاتل بیگناہ اور نہ مرتد عن الاسلام تو کس وجہ سے اے خالق میرے قتل کے درپے ہو۔ دوستو! اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی مذهب و مسلک ہے کہ نہ ارتدا میخ و موجب قتل ہے۔ خواہ حامی کفار ہو یا نہ ہو۔ بہر صورت اصل اور علمت ابا جعہ دم کی ارتدا ہے نہ غیر۔ باس وجہ سزا قتل کا ترتیب اس پر ہو گا۔

قتل مرتد کا شیوت خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے

عن عکرمة ان علیا حرق قوما ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كشت الـا
لقتلتهم يقول رسول الله من بدل دینه فاقتلوه ولم اكن لا حرقهم لأن رسول الله قال لا تعذبوـا
بعداب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس. (ترمذی باب اباجانی المرتاج اس ۲۴۰) ”حضرت علی کرم
الله وجہہ نے ایک جماعت مرتدین عن الاسلام کو جلا دیا یہ خبر ابن عباس کو کچھی انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو ان
کو قتل کرنا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو اپنادین تجدیل کرے اس کو قتل کرو اور میں ان لوگوں کو جلا دا

نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب یعنی آگ سے کسی کو سزا ملت دو تو یہ خبر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پہنچی آپ نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔“

حضرات! یہ روایت بھی روزروشن کے مانند اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام سے مردہ ہو یا روگردانی کرے اور اس کی قتنہ پر دازیاں اس قدر محکم و مضبوط ہو جائیں کہ جس سے امن پسندی و اتفاق کی تکمیل نہیں آکھڑ جائیں اور صفحہ ہستی سے مت جائیں۔ سو ایسے شخص کے لیے امام و حاکم وقت کو اختیار و مجاز ہے کہ ہر ممکن طریقہ سے اس کی سرکوبی کرے۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس قوم مرتد کو کہ جس کا قتنہ شائع و ضرر رسان تھا بجائے قتل کے تخلیقاً و تشدیداً جلا دیا۔ بنابریں حضرت علی رضی اللہ عنہ مصیب تھے نہ ختمی۔ چنانچہ علامہ عینی شرح بخاری ص ۲۳۲ ج ۱۱ میں ایک قول نقل فرماتے ہیں۔

قال الدوادی احرار علی الزنادقة ليس بخطباء. علامہ دوادی فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ کا زنادقة کو جلانا خطأ نہیں ہے۔

قتل مرتد کا فیصلہ اجماع امت سے

امہ کرام و سلف صالحین اس پر متفق ہیں کہ مرتد کو قتل کرنا واجب و ضروری ہے۔ چنانچہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ تمام اہل علم کا یہی مسلک ہے کہ مرتد قتل کیا جائے۔

ونیز علامہ عبدالوهاب شعرانی ”میزان کبریٰ“ ص ۱۷۴ ج ۲ میں فرماتے ہیں۔

وقد اتفق الاتمة على ان من ارتد عن الاسلام وجب قتلہ وعلى ان قتل الزنديق واجب وهو الذي يسر الكفر ويظهر بالاسلام. اور تمام امہ اس پر متفق ہیں کہ جو شخص اسلام سے پھر جائے یا زنديق ہو اس کا قتل واجب و ضروری ہے اور زنديق وہی ہے جو کفر کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اسلام سے مظاہرہ کرے۔

قتل مرتد کا ثبوت کتب فقہ حنفیہ سے

ناظرین! اگرچہ قرآن و حدیث و تعلیم صحابة و اجماع امت سے قتل مرتد پر اس قدر روشنی پڑ گئی کہ دیگر اولہ کی ضرورت باقی نہیں رہی مگر اہل امام خصم و اظهاراً للحق چدا قول فقهاء حنفیہ بطور شہادت نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱)..... امام ابوالحسین بن احمد قدوری ص ۳۷۷ باب احکام المرتدین میں فرماتے ہیں۔

واذا ارتد المسلم عن الاسلام والعياذ بالله عرض عليه السلام الى آخر ما قال فان اسلم والاقتيل. اور جب کوئی مسلمان اسلام سے پھرے (اللہ پناہ میں رکھے) تو اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اگر مسلمان ہو گیا تو خیر و نفع قتل کر دیا جائے۔

(۲)..... ہدایہ باب احکام المرتدین ج ۲ ص ۵۶۵ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔

المرتد يعرض عليه السلام حرا كان او عبدا فان ابى قتل. مرتد خواه آزاد ہو یا غلام اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اور اگر انکار کرتا ہے تو قتل کیا جائے۔

(۳)..... ملاعی قاری شرح فقہاء کبریں ۲۰۰ باب المسألة المحلقة بالکفر میں دربارہ قتل مرتد تحریر فرماتے ہیں۔

فإن ثاب فيها والاقتيل. اگر مرتد تائب ہو گیا تو بہتر و نفع قتل کیا جائے گا۔

نیز امام شافعی صاحب کا مذہب ص مذکورہ میں نقل فرماتے ہیں۔

وفي اصح قول الشافعى ان ثاب في الحال والاقتيل وهو اختيار ابن المنذر. (شرح فقہاء کبریں)

باب المسکلۃ الحلاجۃ ص ۲۰۲) امام شافعی صاحبؒ کا صحیح قول دربارہ مرتد یہ ہے کہ وہ اگر اسی وقت تائب ہو گیا تو فبھا ورنہ قتل کیا جائے اور یہی مختار ابن المذہب رہے۔
 (۳).....صاحب بدائع کلمتے ہیں:

اما الّذی یرجع الی نفسم فانواع منہا اباحة دمه اذا کان رجلاً حراً کان او عبد السقوط عصمتہ بالرودة قال النبی اجمعتم الصحابہ علی قتلهم۔ (بدائع الصنائع ص ۳۲۲ فصل بیان فی المرتدین) ”جن احکام کا تعلق ذات مرتد سے ہے ان کی چند قسمیں ہیں مجملہ ان کے اس کے خون کا مباح ہوتا ہے۔ چاہے آزاد ہو یا غلام۔ کیونکہ امرتد اکی وجہ سے اس کی حفاظت ساقط ہو گئی۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص دین کو تبدیل کرے۔ اس کو قتل کر دو علی ہذا القیاس! جبکہ عرب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے تو ان کے قتل پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا۔“

(۴).....علامہ سرخی رحمۃ اللہ علیہ صاحب السیر کا قول شرح سیر میں نقل فرماتے ہیں۔
 المرتد یقتل ان لم یسلم حرا کان و عبد القوله ﷺ من بدل دینہ فاقتلوه۔ (شرح کتاب السیر باب المرتدین کیف حکم بح ۵ ص ۱۶۶) ”مرتد خواہ آزاد ہو یا غلام اگر اسلام میں داخل نہیں ہوا تو قتل کیا جائے چونکہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔“
 (۵).....صاحب کنز فرماتے ہیں۔

فان اسلم والا قتل (کنز الدقائق باب المرتدین ص ۲۸۳) ”اگر مرتد اسلام قبول کرے تو بہتر ورنہ قتل کیا جائے گا۔“
 (۶).....درغتار برحاشیہ شاہی باب المرتد بح ۳ ص ۳۱۳ میں ہے۔

فان اسلم فبھا والا قتل لحدیث من بدل دینہ فاقتلوه۔ ”اگر مرتد مسلمان ہو جائے تو بہت خوب، ورنہ قتل کیا جائے بیوہ فرمان رسول اللہ ﷺ کے کہ جو شخص اپنا دین بدل دے اس کو قتل کرو۔“

(۷).....فتاویٰ عالیہ ریس باب فی احکام المرتدین بح ۲ ص ۲۵۳ میں لکھتے ہیں۔

فان اسلم والا قتل۔ ”اگر مرتد مسلمان ہو جائے تو خیر ورنہ قتل کر دیا جائے۔“

(۸).....الاشیاء والظائر کتاب السیر ص ۱۰۱ میں تحریر کرتے ہیں۔
 کل مسلم ارتد فانہ یقتل ان لم یتب۔ ”جو مسلمان کہ اسلام سے مرتد ہو گیا اگر تائب نہیں ہوا تو قتل کیا جائے۔“

(۹).....شرح وقایہ باب المرتد بح ۲ ص ۲۷۵ میں لکھتے ہیں۔

فان تائب فبھا والا قتل۔ اگر مرتد تائب ہو گیا تو خیر ورنہ قتل کیا جائے گا۔

تلک عشرۃ کاملہ ناظرین کرام! مندرجہ بالا دلائل و اقوال فقهاء و علماء کے پیش کرنے کے بعد بھی کیا کسی کو اس امر میں بیک ہو سکتا ہے کہ قتل مرتد قرآن و حدیث و کتب فقہ حنفیہ وغیرہ سے ثابت نہیں ہے؟ اور مرزا قادریانی بیوہ ادعا نے نبوت و اہانت انبیائے علیہم السلام از روئے تعریف ارتداد فقهاء کافر و مرتد ہو کر مستحق قتل نہیں تھا۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ سبی مقتضائے انصاف ہے فاعتبروا یا اولی الابصار۔

اور چونکہ مرزا ای امت مساجی کو تمی صادق و برحق تسلیم کرتی ہے اور ان کے اعتقادات باطلہ و خیالات فاسدہ سے متفق ہے اس وجہ سے یہ امت بھی اسی سزا و لقب کی مستحق ہے۔ اس لیے حکومت افغانستان نے جو نعمت اللہ

قاریانی کو سنگار کیا وہ ضرور قابل تحسین و مبارکہاد و عین حکم شرعی ہوا۔ لہذا جو لوگ مختلف اور اس امر کے قائل ہیں کہ قتل مرتد یا مطلق سزا قرآن و حدیث و کتب فقہ حنفیہ وغیرہ میں نہیں ہے اور نیز مرزا جی اور ان کی امت از روئے شرع کافر و مرتد نہیں ہے وہ حضرات ذرا اپنے گربانوں میں سرگوں ہو کرتا مل و تذیر فرمائیں اور اپنی رائے فاسد سے رجوع فرمائے اور کاملاً اس امر کا اٹھاہار فرمائیں کہ واقعی مرزا اور اس کی امت کافر و مرتد و قابل قتل ہے ورنہ ناداعی و تجھ نظری کی دلیل ہے۔

دوستو! مختلف کی جانب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب تک نصوصی قطعیہ و اقوال علماء سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا ضروری و واجب ہے نہ سنگار و پھراؤ کرنا اور چونکہ سلطنت افغانیہ نے نعمت اللہ قادریانی کو بجائے قتل کے سنگار و پھراؤ کیا ہے اس وجہ سے یہ فعل حکومت قابل ملامت و خلاف شرع ہے۔

لیکن دوستو! یہ امر واضح رہے کہ لفظ قتل ایک مفہوم کلی ہے جس میں معنی اہلاک ماخوذ ہے باس وجد اس کا انحصار تواریخ قتل کرنے میں نہیں ہو گا بلکہ ہر طرح کے قتل کو خواہ پھر سے ہو یا لو ہے سے یا لکڑی سے یا اور کسی چیز سے سب اسی کلی کے افراد ہیں اور ہر ایک پر قتل کا اطلاق آئے گا چنانچہ آیات قرآنیہ و احادیث صریحہ میں متعدد جگہ لفظ قتل کا ناسوال بالسیف کے دوسرے پر بھی مستعمل بولا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

نظیر اول

و اذا المؤذدة سبتت باي ذنب قلت (سورہ نکور ۸) اور جب زندہ درگور گروہ سے سوال کیا جائے گا کہ تو کس گناہ میں قتل کی گئی۔

نظیر ثانی

قال يا موسى اترید ان تقتلنى كما قتلت نفسا بالالامس (قصص ۱۹) اس شخص نے کہا کہ اے موسی تو یہی چاہتا ہے کہ مجھ کو قتل کرے جیسا کہ ایک شخص کو کل قتل کر چکا ہے۔

نظیر ثالث

فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية (کہف ۷۷) پھر دونوں چلے یہاں تک جبکہ ایک لڑکے سے ملے تو اس کو حضرت خضر العلیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسی العلیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے ایک بیگناہ و پاک جان کو قتل کیا۔

ناظرین! یہ حضرت موسی دختر علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو باری تعالیٰ نے نہایت تفصیل و عمدگی سے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ دونوں حضرات چلے جا رہے تھے کہ ایک لڑکے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت خضر العلیہ السلام نے اس لڑکے کی گردن توڑ کر قتل اور ہلاک کر دیا تو حضرت موسی العلیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ آپ نے کیوں ایک بیگناہ کو قتل کیا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔

فانطلقا فاما اذا غلام يلعب مع الفلمان فاخت الخضر براسه من اعلاه فاقتيل راسه بيده فقال موسى اقتلت نفسا زكية بغير نفس (بخاری ج ۱ ص ۲۳ باب ما يستحب العالم اذا استحل ای الناس اعلم) یعنی یہ دونوں حضرات چلے جا رہے تھے کہ ایک لڑکا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خضر العلیہ السلام نے اس

کی گردن کو پکڑ کر جدا کر دیا تو پھر موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایک بیناہ قتل کیا۔ دیکھنے حضرت خضر نے اس لڑکے کی گردن توڑ کر ہلاک کر دیا تھا اس پر باری تعالیٰ نے لفظ قتل کا فرمایا کہ جس سے معلوم ہو گیا کہ لفظ قتل عام ہے۔

نظیر رابع

عن انس بن مالک ان یہود یا قتل جاریہ علی او صاحبہا فقتاًہا بالحجر قال فيجي النبی وبهارم قفال لها اقتلک فلاں۔ یعنی ایک یہودی نے کسی لوگوی کو اس کے زیورات کی وجہ سے پھر سے قتل کر دیا تھا اس میں کچھ جان باتی تھی کہ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر کی گئی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا مجھ کو فلاں شخص نے قتل کیا ہے ان۔

محترم ناظرین! نظائر مذکور سے یہ بات معلوم و روشن ہو گئی کہ مفہوم قتل میں معنی اہلاک پائے جاتے ہیں جو ماسوالیں باسیف کے ہر طرح کے قتل کو خواہ پھر سے ہو یا لو ہے سے یا لکھی یا اور کسی دوسری چیز سے سب کو شامل ہے چنانچہ باری عز اسلام نظیر اول میں زندہ درگور گروہ اور نظیر ثانی میں گھونے سے مارے ہوئے پر لفظ قتل کا فرمایا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ نے اس قطبی کو گھونے ہی سے مارا تھا جیسا کہ ارشاد ہے۔ فوکدہ موسیٰ فقضی علیہ۔ (قص ۱۵) پھر اس کو حضرت موسیٰ نے گھونہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔

علیٰ ہذا القیاس! نظیر ثالث میں حضرت خضر نے جس لڑکے کی گردن توڑ کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس پر باری تعالیٰ نے قتل کا اطلاق کیا۔ نیز حضور ﷺ نے نظیر رابع میں متولہ بالحجر پر (یعنی پھر سے قتل کی ہوئی پر) اقتلک فلاں۔ یعنی کیا مجھ کو فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس سے تمام شہبات و مراحل ملے ہو گئے کہ قرآن و حدیث و اقوال فقہاء و علماء میں جس جگہ لفظ قتل استعمال کیا گیا ہے اس سے معنی عام مراد ہے کہ جو ہر طرح کے قتل کو خواہ پھر سے ہو یا لو ہے یا لکھی یا اور کسی دوسری چیز سے سب کو شامل ہے اور اسی قتل کی کے یہ تمام افراد ہیں کہ ہر ایک پر قتل کا صدق ضرور بالضرور ہو گا۔ سو اگر ان میں سے کسی کو امام یا حاکم وقت عند الحاجة استعمال و اختیار کرے گا تو مصیب اور رسول اللہ ﷺ کی مردہ سنت کو زندہ فرمایا کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح پر فتوح کو فرحت و مسرت پہنچائے گا۔ لہذا ذات با برکات حضرت امیر غازی ولی افغانستان اید اللہ بندرہ نے جو نعمت اللہ قادریانی کو مجرم احمدیت قتل بالحجر یعنی سنگار و پھر اور کرایا تو واقعی اپنے فرض منصبی کو ادا فرمایا کر قرقن صحابہ کی یاد تازہ کر دی اور اقامۃ حدود الہی میں مخالفین کی وحشیانہ حرکات و سکنات کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی۔ اگرچہ مرزاںی امت امیر صاحب کے مقابلے و ضرر رسانی میں ہر ممکن طریقہ کو عمل میں لائی کہ کہیں امریکہ اور یورپ کو آپ کے خلاف آمادہ و تیار کیا اور کہیں دوسری سلطنتوں میں دست بستہ فریاد رس ہوئی اور مشیح محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ نے بھی رائے عامہ سے اپیل کر کے سخت شور و غوغاء برپا کیا۔

الحاصل تا جدار افغانستان کے اقامۃ حدود شرعیہ کی وجہ سے مرزاںی امت نے ان کی گزند و ضرر رسانی میں ایڑی و چوٹی کی قوت صرف کر دی اور آپ کے برخلاف تمام مسلمانین میں آوازہ پلند کیا۔ لیکن مرزاںی امت کو یہ واضح رہے کہ چونکہ ولی افغانستان نے قانون خداوندی کی معینیت فرمائی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی مردہ سنت کو زندہ کیا ہے۔ اس وجہ سے خداۓ برآپ کا حافظ و ناصر ہے۔ لہذا کوئی طاقت و قوت آپ کے مقابلہ میں غالب نہیں ہو۔

سکتی۔ کیونکہ ساری خدائی ایک طرف و فضل الہی ایک طرف۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ذات القدس امیر غازی اس قانون الہی کو ہمیشہ جاری رکھیں گے اور مخالفین و مرتدین اسلام کی ہمیشہ اسی طرح سرکوبی فرماتے رہیں گے اور خدائے قدوس اس کے عوض میں امیر صاحب ایداللہ بنصرہ کے جان و مال میں ترقی عطا فرمائیں و چشم دشمنان ناہنجار سے محفوظ رکھیں۔ اور قوت الہی آپ کو اعداء اسلام کے مقابلہ میں ہمیشہ مظفر و منصور فرمائے اور دن دو گئی ورات چونکی آپ کی عزت و سلطنت میں زیادتی بخشے آمین ثم آمین۔

تم سلامت رہو ہزار برس

ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار

اب میں آپ حضرات سے جدا ہوتا ہوں اور اس بات کو جانتا ہوں کہ قادریٰ امت اس کے عوض میں مجھ کو گالیاں دے گی کیونکہ

ان کو آتا ہے پیار پر غصہ

ہم کو غصہ پر پیار آتا ہے

تم جبر کیے جاؤ ہم صبر کیے جائیں۔ اللہ تو منصف ہے اللہ ہی جزا دے گا۔ لیکن جناب باری میں میری سبی التجا ہے کہ خداوند تمام مسلمانوں کو قبھائے قادریان سے محفوظ فرمایا اور قادریانی امت کو توفیق ہدایت بخش۔ ربنا تقبل منا انک انت السعیع العلیم۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔ فقط۔ کتبہ
العبد المفقدر ہل رحمۃ ربہ المنان نور محمد خاں سلطانپوری غفرلہ والوالدیہ ولاستاذیہ اجمعین۔ خادم انجمن
ہدایت الرشید مدرسہ مظاہر علوم سہارپور ماہ جمادی الاولی ۱۳۳۳۔

تقریط

جمع الکمالات والبرکات حضرت الفقیہ الفقہ الاستاد العلام المولانا الحافظ الحاج المولوی عبداللطیف شیخ
الحدیث و صدر المدرسین بظاہر علوم سہارپور ادام اللہ فیوضہ۔
محمد و نسلی علی رسولہ الکریم۔ امامعبد میں نے اس رسالتہ "دفع الالحاد عن حکم الارتداد" کو اول سے آخر تک
بغور سنا عزیزم مولوی نور محمد خاں سلمہ سلطانپوری نے نہایت خوبی کے ساتھ مسئلہ قتل مرتد کو نقول و نصوص سے ثابت
کیا ہے اور یہ مسئلہ کفر مرزا قادری کو ان کی تحریرات سے بے نقاب کیا ہے۔ حق تعالیٰ اس رسالتہ کو مخالفین کے لیے
مشعل راہ ہدایت بنائیں اور عزیزم سلمہ کی عروض علم میں ترقی عطا فرمائیں۔ فقط

عبداللطیف عفا اللہ عنہ

صدر مدرسہ مظاہر علوم سہارپور

۳ جمادی الاولی ۱۳۳۳



لَا يَنْتَهِي لَذَّتُكُمْ وَلَا يَنْتَهِي
عَذَابُكُمْ لَذَّتُكُمْ بِمَا لَمْ تَرَوْ
عَذَابُكُمْ بِمَا لَمْ تَحْسُدُوا

لا ہوری اور قادیانی مرزاںی دونوں کافر ہیں

مفتشی ولی حسن ٹونگی

بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) مرزا کو مجدد مانے والوں کا حکم

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: کل مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۷۳ء بوقت ساعٹھے چار بجے دن سابق امام دو گنگ مسجد محمد طفیل متعلقہ مرزا ای فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد پڑا میں لایا گیا اور یہاں کے سرکاری امام خوبی قمر الدین جو کہ اپنے آپ کو الہست و الجماعت ظاہر کرتے ہیں۔ مرزا ای محمد طفیل کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی جبکہ چند معززین نے اس حرکت کا محسوسہ کیا تو خوبی قمر الدین سرکاری امام دو گنگ مسجد نے یہ دلیل پہنچ کی کہ میں نے نماز جنازہ میں اس لیے شرکت کی ہے کیونکہ مرزا محمد طفیل بسا اوقات میرے پیچے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں اور دوسری دلیل یہ ہے کہ میں لاہوری مرزا یہوں کو کافرنیں سمجھتا۔ کیونکہ وہ مرزا ایمان احمد قادریانی کو صرف مجدد تسلیم کرتا ہیں اور ہم کو کافرنیں سمجھتے۔ اللہ ابراہیم فرماد کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے شخص کے متعلق شرعی فتویٰ سے آگاہ کیا جائے۔ عین شاہدؤں کے دستخط مندرجہ ذیل ہیں۔

صابر حسین محمد شریف عبدالرحمن ملک احمد خال
امستقی ایک از نمازی مسجد دو گنگ، لندن، الگلینڈ

۱۵ رمضان ۱۴۹۳ھ

الجواب مرزا یہوں کے دونوں فرقے، لاہوری اور قادریانی بالاتفاق علمائے اسلام کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لاہوری فرقہ نفاق اور تقیہ کی وجہ سے قادریانی فرقہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ فرقہ لاہوریہ کے کفر کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک مدی نبوت کاذبہ کو مجدد، مصلح اور امام تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ العزیز نے اپنی بے نظیر تالیف "اکفار الْمُحَدِّثِينَ" ص ۰۱ میں موخر الذکر فرقہ کے کفر کو دلائل ظاہرہ باہرہ سے ثابت کیا ہے۔ من شاء فلیہر اجمع الہم۔

ای طرح کسی ایسے فرقہ یا اس کے بعض افراد کو مسلمان سمجھنا جسے علمائے امت نے بالاتفاق کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ جبکہ علمائے امت کے فیصلہ کا علم بھی ہو۔ حد درجہ گراہی اور اس پر خوف کفر ہے۔ مرزا ای، لاہوری یا کوئی ایسا فرقہ جو بالاتفاق علمائے اسلام خارج از دائرہ اسلام ہے۔ اس کے کسی فرد کی جنازہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز جنازہ درحقیقت دعا ہے اور کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرنا بعض قرآنی حرام ہے۔ حضرت شاہ صاحب "عقیدۃ السفارینی" سے الٰہا ہوا کے سلسلہ میں سلف کا نمہب جس کو انہوں نے خلف تک پہنچایا نقل کیا ہے۔ بان لا یسلموا علی القدریہ ولا یصلوا علی جنائزہم ولا یعودوا مرضاهم۔ (اکفار الْمُحَدِّثِینَ ص ۳۸ باب النقل عن الانہم الاربعة الخ)

سلف کا ذکر وہ بالا فیصلہ الہ اہوا کے بارے میں ہے۔ مرزاںی اہوا سے گزر کر رسول سے صرخ کفر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔
بناءً علیہ خواجہ قمر الدین امام و دکنگ مسجد لندن گمراہ تبح ہوا ہے۔ قطعاً لائق امامت نہیں۔ اس کو علیحدہ کر کے کسی صحیح العقیدہ شخص کو امام مقرر کیا جائے۔ ہشام رازیؒ نے امام محمدؐ سے نقل کیا کہ الہ اہوا کے بھی پڑھی ہوئی نماز لائق اعادہ ہے۔
(الفرقین الفرق، بحال اکفار المحدثین ص ۲۸)

کتبہ ولی حسن مفتی مدرسہ عربیہ اسلامیہ ندویان کراچی نمبر ۵، ۱۹ رمضان ۱۴۳۹ھ
مسئلہ فوق الذکر کی جو تحقیق کی گئی ہے۔ بھی دو روحاضر کے علمائے امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس لیے میں بھی فوٹی ذکر وہ کی تائید و توثیق کرتا ہوں۔ (محمد یوسف الجوری)

(۲) مرزا قادیانی اور استخارہ۔ مکری جناب مدیر ماہ نامہ "بیانات" السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ہمارے علاقہ میں کچھ مرزاںی رجھے ہیں اور وہ مسلمانوں میں اس بات کا چھپا کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادریانی کو ہم نبی تسلیم نہیں کرتے بلکہ مجدد مانتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ ۲ نیز وہ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو مرزا قادیانی کی صداقت میں کسی کشم کا شک و شبہ ہے تو تم استخارہ کر کے معلوم کرو۔ کیا یہ شرعاً درست ہے؟ براو کرم مفضل جواب عنایت فرمائیں۔

مولوی رشید احمد

خطیب جامع مسجد سوئی گیس یونیورسٹی روڈ کراچی نمبر ۲۲

پیشات آپ کے پہلے سوال کے جواب میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔

..... ان مرزاںی صاحبان کا یہ پوچھیا گیا کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں بلکہ صرف مجدد مانتے ہیں محل و جل و تلبیس پرمنی ہے یا بھروسہ خود اپنے مدھب سے جالی ہیں یا ان کے بڑوں نے انہیں قصدًا جالی رکھا ہے۔ ان مرزاںی صاحبان سے کہیے کہ اگر ان کا واقعہتہ بھی مسلک ہے تو اپنے خلیفہ ربوبہ مرزا ناصر احمد قادریانی سے یہ لکھوا لائیں کہ جو شخص مرزا کو نبی مانے، خواہ کسی تاویل سے ہو، وہ انکار ثابت نبوت کی بنا پر کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قل هاتوا بھوہا نکم ان کشم صادقین۔

..... مرزا غلام احمد قادریانی کا جھوٹا دعویٰ نبوت ایسا نہیں ہے مگر فریب کے غایظ پردوں میں لپیٹ کر گول کیا جا سکے۔ مرزا قادیانی کی وہ کتابیں جن میں انھوں نے جھوٹی نبوت کا بارو افتراء اپنے سریلایا ہے، ساری دنیا کے سامنے ہیں، اور آج بھی ربوبہ سے "روحانی خواشی" کے نام سے چھپ رہی ہیں، اس لیے اگر مرزا قادیانی صاحبان کسی معلمہ نبوت میں جھوٹا نکھلتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کرے اسے "جھوٹ کا مجدد" کہنا تو بجا ہے مگر اسے مجدد اسلام تسلیم کرنا نہ محل و فہم کی رو سے روا ہے، نہ دین و مذهب کے اعتبار سے جائز ہے۔ اس لیے مرزاںی صاحبان سے کہیے کہ یا تو مرزا قادیانی کے دعووں کے مطابق انہیں نبی تسلیم کریں اور ان کے لئے قدم پر چل کر جہاں وہ خود پہنچیے ہیں۔ وہاں پہنچیں یا پھر اسلام کی تعلیمات کے مطابق مدعی نبوت کا ذبہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر ان سے بیزاری کا اعلان کریں۔

..... اگر کبھی آپ کو مرزا قادیانی کی کتابوں کے مطالعہ کا اتفاق ہوا ہے تو آپ ہماری اس رائے سے اتفاق کریں۔

گے کہ ادعائے نبوت، ادعائے محبرات، ادعائے وحی والہام، نخالین کی تکفیر و تذلیل، تمام انبیاء علیہم السلام سے برتری کا دعویٰ اور اعلام انبیاء کرام کی توثیق و تتفییص کے سوا مرزا قادیانی کی کتابوں کے انبار میں اور کوئی پیغام نہیں ملتا۔ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں انہی باتوں کے باصرار و تکرار دہرانے کے ایسے خواہیں کہ ان کا قاری اکتا کر رہ جاتا ہے۔ مثلاً

”سچا خدا وہی ہے جس نے قادریاں میں اپنا رسول بھیجا۔“ (دفع البلاه میں الخزانہ ج ۱۸ ص ۲۳۱)

”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔“ (ملفوظات ج ۱۰ ص ۷۷)

”خدا تعالیٰ نے اور اس کے پاک رسول نے بھی سچ موعود (مرزا صاحب) کا نام نبی و رسول رکھا۔“ (زندو احیٰ میں الخزانہ ج ۱۸ ص ۲۸)

”صدہ انبویں کی نسبت ہمارے محبرات اور پیش گویاں سبقت لے گئی ہیں۔“

(ریویو جلد اول ص ۳۹۳، اکتوبر ۱۹۰۲ء)

”خدا نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان (محبرات)

دکھائے ہیں کہ وہ ہزار نبی پر تقسیم کیے جائیں تو ان کی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔“

(چشمہ معرفت ج ۲۳ ص ۳۱)

”جو کوئی میری جماعت میں داخل ہو گیا۔ وہ صحابہ میں داخل ہو گیا۔“

(خطبہ الہامیہ ص ۲۵۸)

”اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور

میر نام نبی رکھا ہے..... اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشانات ظاہر کیے جو تم ن لا کھٹک جنپتے ہیں۔“

(حقیقتہ الہی ص ۲۸)

”اوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ مجھ کو سچ ابن مریم سے کیا نسبت ہے وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقررین سے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تھا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں جو خداۓ تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی تو اس نے مجھ کو اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔“ (حقیقتہ الہی ص ۱۳۹، ۱۵۰ اخزانہ ج ۲۲ ص ۱۵۲-۱۵۳)

”میں خدا تعالیٰ کی ۲۳ برس کی متواتر وحی کو کیوں کر سکتا ہوں۔ میں اس کی پاک وحی پر ایسا ہی

”ایمان“ لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔“

(حقیقتہ الہی ص ۱۵۰ اخزانہ ج ۲۲ ص ۱۵۲)

”ایک منم کہ حسب بشارات آدم

عیسیٰ کجاست تاہمہ پا بسمِ“

(ازلان اہم ص ۱۵۸ اخزانہ ج ۳ ص ۱۸۰)

ترجمہ..... ہاں! میں وہ ہوں جو بشارتوں کے موافق آیا ہوں، عیسیٰ کہاں ہے جو میرے منبر پر قدم رکھے۔

”منم سچ زماں و منم کلیم خدا

منم محمد و احمد کہ مجتبی پاشہ“

(نزیق القلوب ص ۲ اخزانہ ج ۱۵ ص ۱۳۳)

ترجمہ..... "میں ہی مسح زماں ہوں اور میں ہی کلیم خدا ہوں میں ہی محمد اور احمد مجتبی ہوں۔"
کل مسلم..... یقینی و یصدق دعوتی الاذریۃ البغایا۔"

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۷۲ خزانہ حج ۵ ص ایضا)

"کل مسلمانوں نے مجھے مان لیا ہے اور قصدِ حق کی ہے۔ مگر تجویں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔"

ان العدا صار و اختازیر الغلا
ونسائم من دونهن الا كلب

(ثوب المهدی ص ۱۰۷ خزانہ حج ۱۳۲ ص ۵۳)

"میرے دشمن جنگلوں کے سوڑا اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔"

"ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مسلمان نہیں ہیں۔"

(مکتوب مرزا صاحب بیان ڈاکٹر عبدالحکیم مندرجہ الذکر الحکیم نمبر ۲۳ ص ۷۰ طبع ۲)

"کل مسلمان جو حضرت مسح موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت مسح موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سناؤہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں۔"
(آئینہ صداقت ص ۳۵ مرزا محمود قادیانی)

یہ مرزا قادیانی کی سیکھوں عبارات میں سے چند عبارتیں ہیں۔ جن سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت، وحی اور مجرمات کا دعویٰ کیا۔ اپنی نبوت کو تمام انبیاء کرام کے ہمراگ تباہی، اپنی وحی کو قرآن جیسی قطبی وحی قرار دیا، اول العزم انبیاء علیہم السلام سے افضلیت کا دعویٰ کیا، اپنے ماننے والوں کو صحابہ کرام کی صفت میں شامل کیا، اور نہ ماننے والوں کے خلاف لعنت کے مکروہ ترین الفاظ استعمال کر کے انھیں غیر مسلم، کافر، جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ ان تمام کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ صرف مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو وہ حقائق کی دنیا میں نہیں بلکہ احقوقون کی جنت میں رہتا ہے۔ آخر تباہی جائے کہ اسلامی تاریخ کی چودہ صدیوں میں کوئی ایسا مجدد ہوا۔ جس پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا جو انبیاء علیہم السلام کے برابر کری تخت شفی کا دعویٰ کرتا تھا جو اپنے کو نبی اور رسول کہلاتا تھا۔ جو اپنے ماننے والوں کو "صحابی" کے خطاب سے سرفراز کرتا تھا۔ جو بانگ دل اعلان کرتا تھا کہ نبی کون ہوتے ہیں جو میرے منبر پر قدم بھی رکھیں جو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینا تھا اور جو ایمان نہ لانے والوں کو حرامزادے، جہنمی اور کافر خذہراتا تھا؟ اگر اسی کا نام "مجد" ہے تو نہ جانے ملکہ اور زندیق کا مفہوم کس پر صادق آئے گا؟

۲..... علاوه ازیں مرزا قادیانی کا کفر و ضلال صرف دعویٰ نبوت میں محصر نہیں بلکہ اس کے بہت سے اسباب میں سے صرف ایک سبب ہے ورنہ مرزا قادیانی کے کفریات کی فہرست خاصی طویل ہے۔ انہوں نے اسلام کے ایسے متعدد قطبی عقائد کا انکار کیا کہ ان میں سے ہر ایک کا انکار ایک مستقل کفر ہے۔ انہوں نے متعدد آیات کو جو آنحضرت ﷺ سے متعلق تھیں۔ اپنی ذات پر منطبق کیا، انہوں نے ظل و بروز کے پردے میں آنحضرت ﷺ کی رسالت و نبوت کو علی وجہ الکمال اپنی جانب منسوب کیا، انہوں نے یعنی ﷺ کو برہمنہ گالیاں دیں، انھیں ناجائز حمل کی پیداوار بتایا، ان کی والدہ حضرت مریم بتوں پر تھمت وھری۔ ان کے سلسلہ نسب پر قوش الفاظ میں طعن کیا، انھیں شرابی کا لقب دیا۔ ان کے قطبی مجرمات کو پائے تحقیر سے ٹھکرایا۔ الغرض اس قسم کے بیٹھار ہذیات ہیں جن کے

حوالے نقل کیے جائیں تو اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے اور علمائے امت کی تصانیف میں ان امور کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اس لیے بالفرض اگر مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت نہ بھی کیا ہوتا اور مرزاً امیٰ امت انھیں واقعۃ نبی کے بجائے ”مُحَمَّد“ ہی تسلیم کرتی تب بھی ان کفریات کے ہوتے ہوئے ان کو مجدد ماننا درحقیقت ان کفریات پر صادِ کرنا ہے، بھی وجہ ہے کہ مرزاً نبیوں کی لاہوری شاخ جو مرزا قادیانی کو مجدد اور ”صحیح موعود“ کہتی ہے امت مسلمہ کے نزدیک وہ بھی دائرہ اسلام سے اسی طرح خارج ہے جس طرح کہ مرزاً محمود کی قادیانی جماعت..... ہمیں معلوم ہے کہ لاہوری اور قادیانی پارٹیوں کا یہ باہمی اختلاف درحقیقت جگہ زرگری کی پیداوار ہے ورنہ ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین کے زمانے تک مسٹر محمد علی ”امیر جماعت لاہور“ بھی مرزا قادیانی کو برطانی مانتے تھے اور اس کا تحریری شہوت ہمارے پاس موجود ہے۔ آپس کے معاملات میں جھੜڑا ہوا تو لاہوری جماعت نے اپنا الگ موقف پیش کرنا شروع کر دیا، اس کے باوجود وہ اب بھی مرزا قادیانی کو ”صحیح موعود“ کے خطاب سے یاد کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ”صحیح موعود“ کی کوئی اصطلاح اگر اسلام میں ہے تو کیا وہ نبی کے سوا کسی دوسرے پر راست آتی ہے؟ اس کے صاف معنی ”صحیح موعود“ کے پردے میں مرزا قادیانی کی نبوت کا اعلان نہیں تو اور کیا ہے؟ الغرض مرزا قادیانی کے دعاویٰ کی تصدیق و تائید میں مرزاً نبیوں کی دونوں شاخیں (قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت) ہم زبان ہیں، فرق ہے تو صرف عنوان اور تعبیر کا فرق ہے۔ بھی وجہ ہے کہ قادیانی جماعت کے خلیفہ دوم تمام مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں مگر لاہوری مرزاً نبیوں کو کافرنیں بلکہ ”غیر مبالغ“ کہتے ہیں۔ اور لاہوری جماعت بھی قادیانی جماعت کو کافرنیں کہتی۔ حالانکہ اگر ان کا سبھی مقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی نبی نہیں تو غیر نبی کو نبی ماننا کفر ہے، ان کا فرض تھا کہ وہ قادیانی جماعت کو کافر قرار دیتے اسی طرح مرزاً محمود قادیانی کی قادیانی پارٹی کا فرض تھا کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نہ مانتے کی ہا پر جس طرح تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، مسٹر محمد علی اور ان کی پارٹی کی بھی تکفیر کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرزاً نبیوں کی دونوں پارٹیاں مرزا قادیانی کو ”صحیح موعود“ مانتی ہیں اور دونوں کا عقیدہ ہے کہ یہ منصب ایک نبی کا منصب ہے۔ دونوں مرزا قادیانی کی تصدیق ان کے تمام دعاویٰ میں کرتی ہیں۔ دونوں ایک دوسری کو ”مسلمان“ بھی کہتی ہیں، صرف اپنے ”برائٹ مارک“ کی شاخت کے لیے ایک نے ”صحیح موعود“ کو کھلے بندوں ”نبی“ کہا اور دوسری جماعت نے ”صحیح موعود“ بھی ”آخری مُحَمَّد“ کہا حالانکہ یہ دونوں لفظ نبوت ہی کی ایک تعبیر ہے۔ اس سے ان بعض پڑھے لکھے جاہلوں کی گمراہی واضح ہو گی جو لاہوری مرزاً نبیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو لصین، مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریات کی تصدیق کرتا ہے اور جو مرزا قادیانی ایسے دجال کو ”صحیح موعود“ اور آخری زمانہ کا مجدد کہتا ہے۔ اس کے کفر و مثال میں کیا شک ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انھیں مسلمان سمجھے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آج اسی جماعت پیدا ہو جو مسیلہ کذاب کو ”صحیح موعود“ اور ”محمد عظیم“ مانتے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہو گا؟ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اخاکر دیکھئے، آپ کو معلوم ہو گا کہ مسیلہ کذاب کا دعویٰ مرزا غلام احمد (مسیلہ چنگاب) کے مقابلہ میں بالکل صفر نظر آتا ہے۔ اگر اس کے ماننے والے فی النار والسفر ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے کونسا قصور کیا کہ ان کے ماننے والوں کو لهم خزى في الحیة الدنيا و لهم في الآخرة عذاب النار کی دولت سے محروم رکھا جائے۔

حاصل یہ کہ کسی مدعی نبوت کو "مہدہ" مانتے کا مطلب اس کے تمام دعاویٰ کی تصدیق کرنا ہے اور کفر خالص کی تصدیق بھی کفر ہے اور اس کو کفر نہ سمجھنا خود کفر آئیز جہالت ہے۔

..... آخری بات اس سلسلہ میں یہ مرض کرنا ہے کہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا کھوٹ ساری دنیا پر کھل چکا ہے، مرزا قادیانی اور ان کی ذریت کے کفر و نفاق کی دجیاں میدان مناظرہ سے عدالت کے تکھے تک اور منبر و محراب سے لے کر اسیل ہال تک فضائی خلیل ہو جگی ہیں مسلمانوں کا پچھ پچھ مرزا یہوں کے خداع و دجل اور مرزا قادیانی کے افسانہ نبوت سے واقف ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود مرزا یہوں کی ڈھنائی کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کے گھروں اور ان کی عبادت گاہوں میں گھس کر دین و ایمان پر ڈاکر ڈالتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے دین باطل کے زہر کو دجل و فریب کی شیرینی میں لپیٹ کر مسلمانوں کے ملک سے اہارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انھیں مال و دولت کا لامع دیتے ہیں۔ سادہ لوح نوجوانوں کو تو کری اور ملازمت کا سبز باغ دکھاتے ہیں۔ پڑھے لکھے طبیعے کو "تلخ اسلام" کے خوش کن پروپیگنڈے سے مسحور کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے تحریف شدہ نسخے ہزاروں کی تعداد تقسیم کرتے ہیں اور اس مہم میں اسرائیلیوں کی طرح ان کی پوری کی پوری قوم گئی ہوئی ہے۔ اس سے مسلمانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں اور انھیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ مسلمانوں نے مرزا یہوں کے مقابلہ میں دقاگی پوزیشن اختیار کر رکھی ہے، جب مرزا یہی ان کے گرد و خیش حملہ آور ہوتے ہیں تو انھیں خوبی ہوتا ہے۔ حالانکہ امت محمدیہ کے سبھی طبقات علماء خلباء و کلام طلباء اور تجارت وغیرہ کا فرض یہ ہے کہ ان کے جو بھائی محسن جہالت و نادانی یا مال و دولت کے لامع کی وجہ سے مرزا یہی کفر کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ انھیں ہر تکن طریقے سے اسلام کے آب حیات کی طرف لاایا جائے، جو لوگ محمد رسول اللہ ﷺ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر مرزا غلام احمد کی جھوٹی مسیحیت کے دامن سے پچک گئے ہیں۔ انھیں اس وادیٰ خارزار سے نکالنے کی کوشش کی جائے؟ آخر یہ کیا وجہ ہے مرزا یہی کفر کی کوچوں میں ناچھتا پھرے اور مسلمان مہربلب ہوں اور ان کی زبانیں ٹک ہوں۔

"سکھا را کشاہد و سکھا را بستہ"

۳۔۔۔ جواب سوال دوم

مرزا یہوں کا یہ مشورہ کہ مرزا قادیانی کی صداقت معلوم کرنے کے لیے استخارے کا نفع آزمایا جائے، یہ بھی دو ذریعہ مخالفتوں پر بنی ہے اول یہ کہ انھوں نے اول ہی سے فرض کر لیا ہے کہ مرزا قادیانی کا صادق یا کاذب ہونا مسلمانوں کے نزدیک محل تردید ہے حالانکہ یہ بات مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی طرح سو فیصد فلسط اور سفید جھوٹ ہے۔ مسلمانوں کو جس طرح حضرت ختنی مآب محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت پر ایمان ہے۔ ثمک اسی طرح مرزا قادیانی کے کاذب و مفتری ہونے کا یقین ہے۔ جس میں تک داریتاب کا کوئی شانہ نہیں، اس لیے کہ:

اولاً آنحضرت ﷺ کی حتم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کسی حتم کی نبوت کا مدعا بغیر کسی تک و شبہ کے کذاب و دجال ہے اور جو شخص اس سے مجرمہ طلب کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے متعلق "شرح تفہا" سے چند جملے نقل کیے جاتے ہیں۔

وَكَذلِكَ نُكَفِّرُ..... مَنْ أَدْعَى نَبْوَةً أَحَدًا مَعَ نَبِيٍّ تَكْفِيرًا إِنْ فِي زَمْنِهِ كَمْسِيلَةُ الْكَدَابِ
وَالْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ أَوْ أَدْعَى نَبْوَةً أَحَدًا بَعْدِهِ فَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ فَهُدَا تَكْذِيبُ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ كَالْعِيسَوِيَّةِ..... أَوْ مَنْ أَدْعَى النَّبْوَةَ لِنَفْسِهِ بَعْدِ نَبِيٍّ تَكْفِيرًا كَالْمُخْتَارِ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهِ
قَالَ أَبْنُ حِجْرٍ وَيُظَهِّرُ كُفْرًا كُلًّا مِنْ طَلْبِهِ مِنْهُ مَعْجَزَةً، لَانَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ مَجْوَزاً الصَّدْقَةَ مَعَ الْسَّتْحَالِتِ
الْمَعْلُومَةِ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً نَعَمْ أَنْ ارَادَ بِذَلِكَ تَسْفِيهَهُ وَبِبَيَانِ كَلْبِهِ فَلَا كُفْرٌ بِهِ أَنْتَ هُنْ وَكَذَلِكَ
مَنْ أَدْعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَدْعِ النَّبْوَةَ فَهُوَ لَاءُ الْمَذْكُورِ وَرَوْنَ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ مُحْكَمُونَ بِكُفْرِهِمْ
لَا هُمْ مُكَلِّبُوْنَ النَّبِيِّ تَكْفِيرًا۔ (شَرْحُ شَفَاعَةِ الْمُخَاهِيِّ ج ۳ ص ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹ بَابُ بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْمَقَالَاتِ كُفْرٌ وَمَا يَتَوَقَّفُ)
تَرْجِمَة:..... اور اسی طرح جو شخص آپ کے زمانے میں کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے جیسا کہ مسیلمہ کذاب اور اسود
عسی نے کیا تھا، یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کرے اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کا
آخری ہوتا قرآن و حدیث کے قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ اس لیے ایسا مدعی اللہ و رسول کی تکذیب کرتا ہے۔
اسی طرح جو شخص آپ ﷺ کے بعد اپنی ذات کے لیے نبوت کا دعویٰ کرے۔ وہ بھی کافر ہے جیسا کہ مختار بن ابی
عبدی وغیرہ نے کہا تھا۔ حافظ بن حجر کہتے ہیں کہ جو شخص اس مدعا نبوت سے بطور ثبوت کے مجرہ طلب کرے اس کا
کفر بھی ظاہر ہو جائے گا۔ کیونکہ ثبوت طلب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس مدعا نبوت کے سچا ہونے کا امکان ہے۔
حالانکہ دین کے قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کسی مدعا نبوت کے سچا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔
وہ قطعاً جھوٹا ہے ہاں اگر اس کی حماقت اور جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے مجرہ کا مطالبہ کرے تو مطالبة لکنڈہ کافر
نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے۔ اگرچہ صاف طور پر نبوت کا دعویٰ کرے
(وہ بھی کافر ہے) الغرض یہ ذکر الصدر سارے لوگ کافر ہیں ان پر کفر کے احکام جاری ہوں گے کیونکہ یہ لوگ
آنحضرت ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں..... اخ.

الغرض مرزا قادیانی نے نبوت، وحی اور مجرمات وغیرہ کے جو دعوے کیے (جو ان کی کتابوں میں آج بھی
موجود ہیں) اور جن کے چند فقرے پہلے سوال کے ذیل میں نمبر ۳ پر ہم بھی نقل کر چکے ہیں ان کے ہوتے ہوئے
مرزا قادیانی کے دجال و کذاب ہونے میں کسی ادنیٰ تھک و ارتیاب کی محبتش نہیں رہ جاتی، اس لیے جو شخص ان
کے جھوٹا ہونے میں معمولی تھک کرے۔ وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ چہ جائیکہ ان کو مجدد تسلیم کرے یا ان کے مجدد
ہونے کے بارے میں استخارے کرتا پھرے ہنا بریں مسلمانوں سے استخارہ کرنے کا مطالبہ کرنا درحقیقت انہیں غیر
محسوس طریقے پر کافر بنانے کی "سازش" ہے۔

ٹانیا..... مرزا قادیانی "مراق" کے میریض تھے، جو اطباء کی تصریح کے مطابق "لغویا" کا ایک شعبہ ہے مرزا
قادیانی لکھتے ہیں..... مجھ کو دو بیماریاں ہیں ایک اور کے دھڑکی یعنی مراق اور ایک نیچے کی دھڑکی، یعنی کثرت
بول۔ (خبر پدر جلد نمبر ۲ نمبر ۲۳ ص ۵ مورخہ ۷ جون ۱۹۰۶ء رسالہ تحریق الاذہان جلد نمبر ۲ بابت ۷ جون ۱۹۰۶ء)
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ "میرا تو یہ حال ہے کہ وہ بیماریوں میں ہمیشہ جلا رہتا ہوں۔ تاہم مصروفیت کا
یہ حال ہے کہ بڑی بڑی رات تک بیٹھا کام کرتا رہتا ہوں، حالانکہ زیادہ جانے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی ہے۔

اور دوران سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تاہم میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کیسے جاتا ہوں۔“ (یہ بھی مراق عی کا اثر ہے۔ نقل) (منظور الہی ص ۳۷۸)

اس لیے مرزا قادیانی کے نبوت، مسیحیت اور مجددیت کو دعوؤں کو جوش جون کا کرشمہ تو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی عاقل ایک مراتق آدمی کی ”مجونانہ بڑا“ کو لاائق الفلاح بھی نہیں سمجھے گا۔ چنانچہ اس کے لیے استخارے کیا کرے۔

حال۔..... مرزا قادیانی نفیتی مrifض بھی تھے۔ ان پر عتف فیضیات کیفیات طاری ہوا کرتی تھیں، وہ کبھی خوابوں کی دنیا میں، خدا اور کبھی ”خدا کی مانند“ بن جاتے تھے۔ (آنینہ کمالات ص ۵۶۳ غزائن ح ۵ ص ایضاً) اور کبھی کشفی حالت میں ان پر نسوانی کیفیت طاری ہوتی اور اللہ تعالیٰ رجولت کی طاقت کا اظہار کرتے۔ (قاضی یار محمد کا مرتبہ ”اسلامی قربانی“ ص ۱۱۲ اسی کشفی سلسلہ میں انھیں نسوانی و ظائف، حیض، حمل اور وضع حمل کے تجربات سے بھی گزرنا پڑا۔) (ملاحظہ فرمائیے تحریک جماعت الدین ص ۱۴۳ غزائن ح ۲۲ ص ۵۸۱)

یاد رہے کہ انہیاء کا کشف وی قطبی کے مترادف ہوتا ہے انھیں کبھی کبھی ہشیریا کے دورے بھی پڑتے تھے۔ (سیرت المہدی حصہ دوم ص ۵۵) جو مرزا بیوں کے اعتراف کے مطابق امراء مخصوصہ زنان میں شمار ہوتا ہے۔ الغرض ایسے نفیتی مrifض کے نبی یا مجدد ہونے کا سوال ہی خارج از بحث ہے کہ اس کے لیے استخاروں کے مشورے دیے جائیں۔

رابع۔..... مرید برآں خود مرزا قادیانی کے اپنے چیخنے کے مطابق ان کا کذاب ہونا ساری دنیا پر روز روشن کی طرح کھل چکا ہے۔ مثلاً انھوں نے محمدی کے نکاح آسمانی کی پیش گوئی کی تھی اور پوری دنیا کو اس کا چیخنے دیا اور اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا، مگر یہ آسمانی ممکنہ جس کا نکاح بقول ان کے خدا نے آسمان پر پڑھا تھا، کبھی ان کے جبالہ عقد میں نہ آئی۔ بالآخر انھیں اقرار کرتا پڑا کہ خدا نے یہ نکاح تنخ کر دیا، اور خود ان کے مقرر کردہ معیار کے مطابق مفتری اور کذاب ہونا خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھایا۔

نیز انھوں نے مرزا احمد بیگ کے دادا کی موت کے لیے ایک تاریخ مقرر فرمائی اور اسے عظیم الشان ”نشان“ اور ”ایک صادق یا کاذب کی شناخت کے لیے کافی“ دیلی قرار دیا، مگر دنیا جانتی ہے کہ وہ اس مقررہ تاریخ تک نہیں رہا، اس طرح خود مرزا قادیانی کے اقرار سے ان کے کاذب ہونے کی شناخت کے لیے یہ عظیم الشان نشان کافی ہو گیا۔ نیز انھوں نے مولانا شاہ اللہ مرحوم کو مہبلہ کی دعوت دیتے ہوئے حق تعالیٰ سے فیصلہ کن دعا کی کہ ہم دلوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پچے کے سامنے مر جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کا آخری فیصلہ فرمایا اور مرزا قادیانی، مولانا مرحوم کی حیات میں دارالجزاء پہنچ گئے۔ اس نوعیت کے متعدد واقعات ہیں۔ جن کی تفصیل کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ ہمیں ان واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ مرزا قادیانی کی نجی روشنیاد حیات ہیں۔ یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے ایک دو پار نہیں بلکہ دسیوں بار مرزا قادیانی کے چیخنے کے مطابق انھیں جھوٹا ثابت کر دیا ہے اور بالآخر خود ان کی موت نے ان کے جھوٹ پر مہر تصدیق ہبہ کر دی ہے تو اس کے بعد ان کا صدق و کذب معلوم کرنے کے لیے استخارے کی یا کسی اور چیز کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی

ہے۔ مرزا قادیانی کے بیان تو سرتاپا کذب تھی کذب ہے شرعی شر ہے۔ وہاں استخارے کا کیا سوال؟ اور دوسرا مخالف اس مشورہ استخارہ میں یہ ہے کہ استخارہ ایسے امور کے لیے شروع ہے جن کا کرنا نہ کرنا شرعاً دونوں جائز ہوں، مگر آدمی یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ میرے لیے اس کے کرنے میں خیر ہے یا نہ کرنے میں خلا فلاں جگہ رشتہ کروں یا نہ کروں اور فلاں طالع ملائمت نمیک رہے گی یا نہیں وغیرہ، لیکن جن امور کا خیر شخص ہونا دلائل شرعیہ سے ثابت ہو وہاں استخارہ کی ضرورت نہیں، اسی مشہور مقولہ ہے۔

”درکار خیر حاجت یعنی استخارہ نیست“

اسی طرح جن امور کا شخص ہونا دلائل شرعیہ سے ثابت ہو وہ بھی استخارہ کا محل نہیں۔ کوئی شخص شراب نوشی یا بدکاری کے لیے استخارے کرنے لگے تو اسے زندقی کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص استخاروں کے ذریعہ معلوم کرنا چاہیے کہ فلاں شخص چاہے یا جھوٹا، نبی ہے یا نہیں، اسے بھی حق اور زندقی کہا جائے گا۔ مرزا قادیانی کا شخص، کذاب شخص اور مظلوم شخص ہونا دلائل تطہیر سے ثابت ہے، جو شخص اس خالص کفر کے لیے استخارہ جبویز کرے۔ اس کے زندقی اور بے ایمان ہونے میں کوئی تک و شبہ نہیں۔ مرزاً ای امت آسان کے تارے تو ز لائے۔ آسان وزمین کے قلابے ملادے اور مشرق و مغرب کے احتمالوں کو جمع کرے مگر واللہ العظیم مرزا غلام احمد قادیانی کے وفتی و دجال و مخل ہونے میں اوتی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد رسول اللہ ﷺ پر ہے ہیں، قرآن چاہے اور اسلام چاہے تو مرزا قادیانی جھوٹے ہیں اور قطعاً جھوٹے ہیں۔

آپ کو معلوم ہے کہ بلعم پا ہوراً کو اسی استخارے نے گمراہ کیا تھا اسے تین دن سخت تنبیہ ہوتی رہی، لیکن جب وہ اپنی حماقت سے باز نہ آیا اور چوتھے دن بھی استخارہ کیا تو کوئی تنبیہ نہ ہوئی۔ اس سے وہ حق سمجھا کہ یہی حق ہے بالآخر ”واضله اللہ علی علم“ کا مصدق ہا اور مثله کمبل الکلب کا طوق اس کے لگے کا ہار ہا۔ الغرض یہ خالص زندیقانہ مشورہ ہے جو مرزا یہیں نے سادہ لوح مسلمانوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے جبویز کیا ہے، علماء امت کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس فتنے سے متتبہ کریں۔



لَهُمَا لِتَنْهَيُنَّكُلَّنِي بِقُلُوبِي

حافظ ایمان از قرنۀ قادریان

بابو پیر بخش خان لا ہوری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ طَاً بِعْدَ رَنَاظِرِينَ كَرَامَ وَبِرَادَرَانَ اسْلَامَ وَشَخْ بَادَرَ كَخَدا تَعَالَى حَسْنَ وَقَبْحَ وَبَكَ وَبَدَرِ، رَاتِي وَبَكَ، اَصلَ وَبَكَ،
لَقَلَ، صَدَقَ وَكَذَبَ، عَيَارَ وَقَلْبَ، رَوْزَ وَشَبَ، رُوشَنِي وَتَارَكَيِ، هَدَيَتَ وَضَلَالتَ، كَفَرَ، اَسْلَامَ آفَرِيدَهَ اَسْتَ وَهَرِيكَ
رَاهِمَقَابِلَ دِيَگَرَے نَهَادَهَ، مَوْلَانا جَائِيَّ مَعَ فَرَمَادَهَ

هَسْتَ درِیں قَاعِدَةَ هَرَلَ وَجَهَ

ضَدَّ مَبْنَى نَشُودَ جَزَّ بَضَدَ

جاَيِکَهَ گَلَ اَسْتَ خَارَمَ رَوْنَماَ گَهَشَهَ وَجاَيِکَهَ صَادَقَةَ تَشْرِيفَ فَرَمَادَتَ کَادَ بَے ہَمَ جَلَوَهَ نَمَائِی مَیَکَندَ، تَارِیخَ
عَالَمَ شَاهِدَ اَسْتَ کَہَ اَگْرَ اَنْبَیاءَ عَلَیْهِمُ السَّلَامَ دَعَاوِی نَبُوتَ وَرَسَالَتَ صَادِقَهَ کَرَدَهَ خَلَقَ رَازَ چَاهَ ضَلَالتَ بَیَروُنَ کَشِیدَہَ بَہَ
شَاهِرَهَ وَهَدَیَتَ رَسَانِیدَ نَدَ بَمَقَابِلَهَ اِیشَانَ دَعَیَانَ نَبُوتَ وَرَسَالَتَ کَاذِبَهَ بَسِیَارَے اِزْبَنَدَگَانَ خَارَاَزَ صَراطَ مُسْتَقِيمَ گَمراَهَ
سَاختَهَ بَچَاهَ ضَلَالتَ اَنَّدَ اَخْتَهَرَ وَخَدا تَعَالَی نَیَزَ درَ قَرَآنَ حَمِيدَ فَرَمَودَهَ وَکَذَلِکَ جَعَلَنَا لَکُلَّ نَبَیَ عَذَوَاً شَیَطَنِینَ
الْأَنْسِ وَالْجَنِ يُؤْجِنِي بَعْضُهُمُ الَّتِي بَعْضَنِي ڈُخُونَفَ القَوْلِ غُرُورَاً (انعام ۱۱۲) (وَجَهَنَّمَ پَیَادَا کَرَدِیمَ بَرَائَے ہَرَ
پَیَغَامِبَرَے دَشَمانَ کَشَیَاطِینَ اَنْدَازَ آَدَمِیَانَ وَازْجَنَ بَطْرِیقَ وَسُوسَهَ القَامِیکَندَ بَعْضَ اِیشَانَ بَسوَے بَعْضَ خَنَ بَظَاهِرَ
آَرَاسَتَهَ تَافَرِیبَ دَهَنَدَ چَوَنَ مَعْلُومَ شَدَ کَہَ مدَعَیَ کَاذِبَ ہَرِیگَ صَادِقاَلَ ظَاهِرَشَدَهَ خَلَقَ رَاجِمَراَهَ سَازَوَهَ، اَزِیں جَهَتَ بَرَہَرَ
مَوْسَمَ لَازِمَ شَدَهَ کَہَ اَوْلَ اِمْتَحَانَ کَنَدَ وَصَدَقَ رَازَ کَذَبَ تَمَیَزَ کَرَدَهَ دَعَوَیَ مدَعَیَ کَاذِبَ رَاقِوْلَ مَکَنَدَ مَوْلَانا رَوْمَ فَرَمَودَهَ

اَے بَا اَلْبِیْسَ آَدَمَ روَئَهَ هَسْتَ

پُلَ بَهَرَ دَسْتَ بَنَایَدَ دَادَ دَسْتَ

پُلَ بَدَسْتَ مُوْمَنَانَ یَکَ کَتَابَ مَعِیَارَے ہَسْتَ کَہَ بَرَآَسَ حَکَمَ ہَرَ صَادِقَ اَزَ اَکَاذِبَ شَناختَهَ مِیشَوَدَ وَآَنَ
قَرَآنَ حَمِيدَ وَفَرَقَانَ حَمِيدَ اَسْتَ وَبَعْدَشَ اَحَادِیثَ حَفَرَتَ خَاتَمَ النَّبِیِّنَ عَلَیْهِتَهَ وَتَعَالَی مَحَاجِبَهَ کَرَامَ۔ پُلَ اَکْرَنَخَسَهَ مَارَادَرَانَ
گَرَوَانَدِیاَرَہَوَا پَرَوازَ کَنَدَ وَہَزَارَ اَعْبَارَ نَمَایِدَ اَکَرَوْلَ فَقْلَ اوَخَلَافَ قَرَآنَ وَصَدِیَّتَ وَتَعَالَی مَحَاجِبَهَ کَرَامَ باَشَدَ مَوْسَمَ کَتَابَ اللَّهِ
رَابَایِدَ کَہَ اَزَ وَپَرَہِیزَ دَوَازَ چَبَ زَبَانِیَ اَوْلَاقَانِیَ اَوْ فَرِیبَ بَنَایَدَ خَوَرَدَوَیَچَ وَعَوَیَ اَوْ رَاکَهَ خَلَافَ شَرِیْعَتَ حَقَّ باَشَدَ قَوْلَ عَمَایِدَ۔
خَدا تَعَالَی درَ قَرَآنَ شَرِیْفَ خَبَرَے دَهَدَ کَہَ بَعْدَ حَمِيدَ عَلَیْهِتَهَ پُلَکَسَ مدَعَیَ نَبُوتَ وَرَسَالَتَ درَ دَعَوَے خَوَدَ صَادِقَ
باَشَدَ چَنَانِچَمِی فَرَمَایَدَ ماَگَانَ مُحَمَّدَ اَبَا اَخِدَ مَنْ رَجَالَكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِمُکَلَّ
شَئِیْءٍ عَلِیْمَاً (احزاب ۳۰) یَعنِی (مُحَمَّدَ نَیَسَتَ پَدرَ کَہَ اَزَ مَرَدَمَ شَائِکَنَ رسولَ اللَّهِ اَسْتَ وَخَتَمَ کَنَتَهَ تَغْبَرَانَ اَسْتَ وَخَدا
تَعَالَی، ہَمَہَ اِشَیَارَا وَاتَنَدَهَ اَسْتَ) اِینَ نَصَ قَرَآنَیَ قَطْلَی اَسْتَ کَہَ یَچَ وَغَیرَهَ بَعْدَ اَخْفَرَتَ خَاتَمَ النَّبِیِّنَ نَخَوَبَهَ شَدَ وَہَرَ کَہَ مدَعَیَ
گَرَوَدَ کَاذِبَ باَشَدَ، رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْهِتَهَ وَرَفَیْرَی اِیں آَیَتَ درَ مُتَعَدِّدَ اَحَادِیثَ فَرَمَودَهَ کَہَ لَا نَبَیَ بَعْدِنِی یَعنِی بَعْدَ اَزَمَنَ کَے

نی بیان شد از انجملہ چند احادیث لفظ کردہ آئند۔

حدیث اول انه سیکون فی امته گلابوں تلاؤن گلہم یزعم اللہ نبی اللہ و آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ترمذی باب لاقوم الساعۃ حتی مخرج کذا بیون ح ۲۴ ص ۳۵، ابو داود کتاب الحن رج ۲ ص ۲۱ الفاظ) (ترجمہ۔ درامت من کی کس مدعاں کا ذب شوند و گمان برند کہ آنان نبی اللہ اند حالاکہ من خاتم النبیین ام کے نبی بعد من نیست۔ ازین حدیث ثابت است کہ صحیح معنی خاتم النبیین لا نبی بعدی است یعنی بعد کروں پیدائش پیغمبران چہ از قم صاحب کتاب و شریعت و چہ از قم بغیر شریعت چنانچہ در دیگر حدیث تصریح کردہ اند۔

حدیث دوم کاَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلُّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ اَنَّهُ لَانْبِيَ بَعْدِهِ وَ سیکون خلفاً (صحیح بخاری باب ما ذکر عن نبی اسرائیل ح اص ۳۹۱) (ترجمہ۔ ادب اموختہ میہندند انبیاء نبی اسرائیل وقتیکہ یک نبی فوت شد بعدش نبی دیگر مے آمدتا کہ تادیب نبی اسرائیل میں کے کرد۔ امانتہ خاتم النبیین ام و بعد من کے دیگر نبی خواہ بدہ شد لہذا بعد من خلفا باشند کہ کار ادب آموزی و تعلیخ دین چون انبیاء نبی اسرائیل خواہند کرد ازین حدیث ثابت شد کہ غیر تشریعی نبی نیز بعد از حضرت محمد رسول اللہ ﷺ در امت محمد ﷺ خواہ آمد بجز حضرت عیسیٰ ﷺ کہ نبی سابق بود و ہر کو دھوے کند در وغلو یقین کردہ شود۔

حدیث سوم عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْلَمُ أَنَّكَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا إِنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي مُتَقْعِدٌ عَلَيْهِ (بخاری باب مناقب علی ح اص ۳۶۰ لظرف مسلم باب فضائل علی ح ص ۲۸۸) (ترجمہ۔ ”رسول اللہ ﷺ“ حضرت علی را فرمود کہ تو از من مانند ہارون ہستی از موی مگر حقیقت بعد من کے نبی نیست۔“ یعنی لا نبی نیست۔ ازین معلوم شد کہ کاذب مدعاں کہ خود را انتی نبی و غیر تشریعی نبی نام کردہ اند در وغلو مستند چہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ از ہم افراد امت فاضل تر اند و شرف محبت رسول اللہ ﷺ مشرف بودند و متابعت تامہ داشتند چوں اور رسول اللہ ﷺ فرمود کہ مانند ہارون ہستی گراونی بود و تو نبی نیستی چہ اکہ من ختم کننہ انبیاء ہستم بعد از من کے نبی باشد و ایں ظاہر است کہ ہارون غیر تشریعی نبی بود۔ پس ثابت شد کہ غیر تشریعی نبی ہم بعد از حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پیدا خواہ بدہ شد و ہر کو دھوئی کند کافر و کاذب باشد چنانکہ رسول اللہ ﷺ در حق مسیله کذاب و اسود عینی فیصلہ فرمود و ہر دو را کافر قرار داد و از امت خود خارج نموده حکم قیال صادر فرمود و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمل برآں حکم کردن و مسیله و اسود عینی را ہلاک کر دند ازین تعالیٰ صحابہ حکم رسول اللہ ﷺ چوں مہر نیمروز ثابت شده است کہ ہر کو دھوئی نبوت کند کافر و کاذب باشد و از امت محمدیہ خارج گردو اگرچہ ایں قبلہ باشد و ایمان بر سالت محمد ﷺ داشتہ باشد و ارکان اسلام را بجا آورد چہ اکہ ہر کو دھوئی نبوت کند مکر ختم نبوت شود و مکر ختم نبوت با جماعت امت کافر است و این قول اور در دوست کہ من از متابعت تامہ محمد رسول اللہ ﷺ بمقام نبوت رسیدہ ام و دھوئی نبوت من خلاف شرع محمدی ﷺ نیست چہ اکہ چوں شرط نبوت شود مشروط ہم فوت گردو۔ چوں مرزا خود میگویی کہ از متابعت محمد رسول اللہ ﷺ مرتبہ نبوت یافتہ ام خوش بکفرش اقرار آورده چہ اکہ دھوئی نبوت مکر ختم نبوت سازد و مکر ختم نبوت کافر گردو۔ و ایں دھوئی مرزا دلیلے ندارد کہ از متابعت تامہ مرتبہ نبوت یافتہ ام۔ اگر تابع محمد ﷺ سے بود خود دھوئی نبوت و رسالت نمکرد۔ دوم مدغی نبوت شدہ تفسیح قرآن نے کرد چنانکہ اونوشیہ است کہ چهار را حرام میکن۔ سوم حج بیت اللہ را ترک نمکردا و اچوں از جہاد و حج محروم ماند شرط متابعت تامہ نبوت شد لہذا نبی یوں ش بقول خوش باطل گرید۔ مسیلمہ کذاب رایر مرزا افضلیت در متابعت حاصل بود کہ حج کرده بود۔ و اسود عینی نیز

فریضہ حج ادا کر دہ یو د۔ پس ثابت شد کہ از متابعت نبی نبوت حاصل گردو و ایں خطاۓ اصولی است چہا کہ نبوت کبی نیست کہ ہر کہ متابعت نبی کند خود نبی گردو۔

حدیث چہارم عن عقبۃ النبی قَالَ اللَّهُ تَعَالَیَ لَوْ كَانَ بَعْدِنِي نَبِیًّا لَكَانَ عَمَرٌ بْنُ الخطاب (مکملہ باب مناقب عمر ص ۵۵۸۔ ترمذی باب مناقب عمر ح ۲۰۹ ص ۲۰۹) (ترجمہ۔ بفرض حال اگر کے بعد من نبی می ہے یو د عمر ابن الخطاب ہست۔)

حضرت عمر جلیل القدر صحابی یو د از فیض ہمشنی رسول اللہ ﷺ فیض یافتہ یو د صاحب الہام یو د چوں اوئی نهد کے دیگر چہ پوتہ دار د کہ بر الہام خود یعنی نبوت کند۔ مرزاۓ قادریانی میگوید کہ من بخدا سونگد سخورم کر من بر الہام است خود چنان ایمان دارم کہ بر قرآن شریف و دیگر کتب الہیہ۔ و چنانکہ قرآن شریف راطھی و یعنی کلام خدا میدانم۔ ہمیں طور کامیکہ بر من نازل میشووا اور اقطھی و یعنی کلام خدا یقین دارم۔

(خطیبۃ الوجی مصنفہ مرزاں ح ۲۱۱ غیرہ ح ۲۲۰ ص ۲۲۰)

برادران اسلام! آگاہ باشید و یہ بیہد کہ حضرت عمر کہ جلیل القدر صحابی یو دن و در خیر القرون یو دن و خادم اسلام چنان کہ فتح بیت المقدس و دیگر ممالک از کارنامہ ہائے اوست و در زیر وحی رسالت اور الہام سے شد حضرت عمر بر الہام خود عمل نبی فرمودا تو فتنیہ تقدیق وے از قرآن نہیے کرد۔ مگر زل (خود با فیہاے) ایں کاذب را ملاحظہ فرمائید کہ میگوید۔ مرا بر الہام خود چنان ایمان است کہ بر تورات و انجلی و قرآن۔ و با ایں بے ادبی و گستاخی دروغ نے باقہ کہ از متابعت محمد ﷺ مرتبہ نبوت یافتہ و خدمات اسلام چنان کردم کہ خدا تعالیٰ نبوت و رسالت را بر من کرامت فرمودہ و ایں دلیل وے باطل است چہا کہ حضرت عمر کہ اکثر حسد و نیاق فتح کر دہ اشاعت اسلام کرو اور نبوت ندادہ شد مگر کاذبے دجالے را کہ یعنی خدمت اسلام کر دو و فرائض اسلام را ترک کر دے بہانہ اشاعت اسلام اشاعت نبوت و رسالت و سیحت و مہدویت کاذبہ خود کر د۔ چنان چشم بغاوت رسول اللہ ﷺ کاشت کہ بعدش مریدان اوہم مدعاویان نبوت کاذبہ میشوند مولوی عبداللطیف ساکن موضع گنا چور ضلع جاندھر می نبوت و مہدویت است دیگر مدی نبوت نبی بخش ساکن معراج کے ضلع سیالکوٹ است ہر دو مدعاویان نبوت مریدان مرزا قادریانی مسجد و مسلمانان را گراہ میکھد و جا شین مرزا قادریانی یعنی پرش میتویں کہ ما اعتقاد داریم کہ کلام خدا گاہے بند نمی ہو د مگر کلام خدارا کہ بر مولوی عبداللطیف و نبی بخش جدید مدعاویان نبوت نازل شدہ ایمان نبی آردو بعده مریدان خود از انکار دو نبی بقول خود کافرشدہ است چہا کہ خلیفہ قادریانی ہم مسلمانان عالم بے سب انکار نبوت مرزا کافرشدہ ان حالا مایکو یہم کہ شاو جماعت شا است و مرزا پورش چونکہ نبی یو دلہذا ہم مسلمانان عالم بے سب انکار نبوت مرزا کافرشدہ ان حالا مایکو یہم کہ شاو جماعت شا از نبوت دو مدعاویان کہ چوں شا مرید مرزا مسجد و خدا تعالیٰ آتا نہ نبوت دادہ چہا انکار میکید د کافر میشوید۔ مگر افسوس جوابے تمدید ہند و نہ ایں ہر دو مدعاویان نبوت و مہدویت را قبول کنند۔ درحق افسوس مردان خدا تعالیٰ سے فرماید تم تقویون مالا تتفقیون یعنی ”چا سخن میگوئید کہ خود بر اس عمل نمیکید۔

حدیث پنجم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَیَ فَلَمَّا أَخْرَجَ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ مَسْجِدِي أَخْرَى الْمَسَاجِدِ (صحیح مسلم باب فضل اصلہہ بمسجدی مکہ والدینہ ح ص ۳۳۶) یعنی من تحقیق اخیر انبیاء مسجد و تحقیق مسجد من اخیر تمام مساجد انبیاء است۔

حدیث ششم إِنَّا خَالِمُ الْأَنْبِيَاءَ وَمَسْجِدِي خَالِمُ مَسَاجِدِ الْأَنْبِيَاءِ یعنی رسول اللہ ﷺ فرمودہ است کہ من ختم کنندہ ہمہ پغیر انہم و مسجد من ختم کنندہ مساجد انبیاء است۔ (کنز العمال باب فضل المحنی حديث ۳۳۹۹۹)

حدیث ہفت اللہ لا نبی بعده و لا امۃ بعده کنم یعنی فرمود رسول اللہ ﷺ کہ نیست کے نبی بعد من و نیست یعنی امت بعد شاہ۔ یعنی بعد امت محمد یعنی علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام والغیرہ۔

(کنز العمال باب بجہ الدواع ج ۵ ص ۲۹۵ حدیث نمبر ۱۹۲۲)

ازیں حدیث ثابت میشود کہ بعد از محمد رسول اللہ ﷺ کے نبی صادق باشد چہا کہ محمد ﷺ اخربی نبی است و امت دے آخری امتهما۔ اگر کے نبی پاشد امت اوہم خواہ بود و دریں صورت نہ محمد ﷺ اخربی نبی میماند و نہ امت دے ختم کنندہ ہے امتهما خواہ بماند۔ پس از نصوص شرعیہ قطعیہ ثابت شد کہ صادق نبی کے بعد خاتم النبیین باشد الا کاذب مدعاں نبوت تاروز قیامت بیانید چنانچہ حضرت عیسیٰ ﷺ ہم فرمودہ است۔ انجیل بریاس فصل ۹۷ آیت ۵ تا ۹۔ ”صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ گفت برائیں خبر مراثیکین است (کہ رسول اللہ بعد من بیانید یعنی محمد ﷺ) آں ہریک دروغ خبر والزام را کہ درحق من گمان کروہ اندر دور کند و دین اور وہمہ عالم شهرت یا بدو در تمام دنیاراً کج و عام شود چہا کہ خدا تعالیٰ بہ ابراہیم ﷺ چنان وصہ دادہ است و چیز کہ مرأتی دهد آئست کہ دین آن رسول ﷺ را حمدے غایتے نہاند چہا کہ خدا تعالیٰ اور احفوظ دارد۔ کامن در جواب گفت کہ بعد ازیں رسول (محمد ﷺ) دگر رسول اہم بیانید یوں رسول جواب داد کہ بعد آس رسول کے دیگر رسول از طرف خدا تعالیٰ فرستادہ نشو و مگر جماعت از کذابان مدعاں نبوت بیانید۔

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ برائے آگاہی امت خود بطور میشین گوئی خبر دادہ است کہ در امت من بست و هفت کذاب و دجال کہ در میان آنہا چهار زنان باشد پیدا شوند کہ دھوئی نبوت و رسالت کتنہ حالاً کئے من خاتم النبیین ام بعد من یعنی کس نبی خواہ بشد عبارت حدیث این است فی اُمّتِي كَذَاهُنَّ دَجَالُونَ مَبْعَدَةٌ نَسْوَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَالَّتِي خَالَمَ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي (رواه احمد ج ۲۸ ص ۳۸۰ حدیث ۱۹۳۵۸ و الطبرانی ج ۳ ص ۲۰) حدیث نمبر ۳۰۲۶ و ایضاً عن خلیفۃ کنز العمال فصل فی کذابین والمعن حدیث نمبر ۲۸۳۶۳ ج ۱۳ ص ۱۹۷ سیفۃ النبی ﷺ قال ان یعنی یادی الساعۃ كَذَاهُنَّ لَا خَلَدُوْهُمْ یعنی از حضرت جابر بن سرہ روایت است کہ از رسول اللہ ﷺ شنیدہ ام کہ فرمودہ بودند کہ در قریب قیامت مدعاں کاذب پیدا شوند در امت من پس پریز کنید۔ (صحیح مسلم)

حدیث ہفت لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَاهُنَّ فَرِيَّتَا مِنْ قَلَائِيلِ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ (رواه احمد ج ۱۲ ص ۱۷۵ حدیث نمبر ۲۲۸ و مسلم ج ۲ ص ۳۹۷ کتاب المعن و البخاری ج ۱ ص ۵۰۹ باب علامات البوہنی فی الاسلام والترفی باب لاتقوم اللہ حتی تخرج کذابون ج ۲ ص ۲۵ میں محررہ) یعنی احمد بن خبل و مسلم و بخاری و ابو داؤد و ترمذی از ابو ہریرہ روایت کردہ کہ قیامت خواہ آمدتاً و فیکری دجال و کذاب در امت من پیدا شوند کہ آس تمام گمان برند کہ آنہا رسول اللہ ﷺ است۔ (کنز العمال ج ۱۳ ص ۲۰۳ حدیث نمبر ۲۸۰۲)

احادیث بسیار اندما بغرض اختصار بریں ہشت اکتفا میکنیم۔ برائے مومن کتاب اللہ و رسول اللہ ﷺ یک آیت و یک حدیث کافی است و برائے مگر ہزار ہم فائدہ ندارد۔

پس چوں حضرت عیسیٰ ﷺ و حضرت محمد رسول اللہ ﷺ قبل از وقت برائے آگاہی امت ظہور شدن چیزیں دجالون کذابون مدعاں نبوت و رسالت و مسیحیت خبر دادہ تا کہ امت گمراہ نشود و بخواہدہ ہم رفتہ کہ در حدست سیزده صد سال بسیارے کذابون مدعاں پیدا شوند و میشین گوئی راست آمد بلکہ دو کس درجه حضرت محمد رسول

الله ﷺ پیدا شدند و دعویٰ وی و رسالت کردن و بعدها از این در هر صدی بسیارے مدعاوین نبوت گذشتند ذکر آنان بطور اختصار در ذیل میکنیم تا که مسلمانان را واضح باشد که قبل از مرزا قادیانی حسب میشین گوئی مذکوره بالا کاذب نبی گذشت اند و تلقیامت خواهند آمد۔ مقام تجرب نیست که مرزا دعوے نبوت کرده از امت خارج شد۔ قبل از این منفصله ذیل اشخاص دعاوی کردند و از حکم خلافت اسلام نابود شدند۔

اول۔ مسیله بود از تقلیل خفیه و میغفت که من نبی و رسول مکر تابع محمد و قران چنانچه مرزا گوید و دعوے او این بود که چنانکه هارون نبی بود و تابع موسی بود من هم تابع محمد و نبوت من بغیر شریعت جدیده است و نامه بخدمت اقدس محمد رسول اللہ ﷺ فرستاد که من به نبوت و رسالت شریک جتاب هستم نصف ملک مارا است و نصف ملک برائے شما۔ حضور ﷺ بجواب نوشت که تو در دعویٰ نبوت و رسالت کاذب هستی ملک دادن و نه دادن و راخیار خدا است هر کرا خواهد دید و حکم صادر فرمودند که مسیله کاذب مدعا نبوت است و کافرشده است اور اد جماعت اور اکه از یک لک پیش بود قل باید کرد چنانچه در عهد خلافت حضرت ابا بکر صدیق خلیفه اول مسیله بعد جنگ و جدال بسیار هلاک شد و جماعت او نیز نابود کرده شد۔ صداقت مرزا هم ثابت میشدے اگر بوقت کے خلیفه اسلامی دعوے میکردے۔ ایں هم دعاوی مرزا نقل مسیله کذاب است که گوید "بغیر شریعت نبی ام و تابع محمد رسول اللہ دعویٰ من خلاف محمد ﷺ نیست" (فصل حالات مسیله در تاریخ کمال ابن اثیر ج ۲۲، ۲۱۸)

دوم۔ اسود علیٰ بود که بسیار شعبدہ باز بود و مرد مانزابه شعبدہ بازی خود رام میکرد این کذاب نیز در زمان حضرت خاتم النبین ﷺ بوده است و حکم حضور علیہ السلام نابود و معدوم کرده شد۔ (تاریخ کمال ابن اثیر ج ۲۲ ص ۲۰۱) سوم۔ عمار ثقیفی۔ این هم کاذب مدعا نبوت بود مگر خود را مستقبل نبی نبی دانست خود را عمار محمد ﷺ کے نوشت چنانکه مرزا گوید که نبوت و رسالت من تابع نبوت و رسالت محمد ﷺ است۔ خبر خروج این کذاب رسول اللہ ﷺ داده بود چنانچه مسلم روایت میکند۔ (کنز العمال ج ۱۳ ص ۱۹۹ حدیث نمبر ۳۸۲۷)

چهارم۔ سیمان قرمطی است که در خانه کعبه رفتہ سنگ اسود را برکند و دعویٰ میکرد که خلفت را پیدا کرده ام و فتاهم خواهیم کرد۔ (تاریخ الاختلاف ص ۳۱۸ باب المقدار باش) مرزا هم میگوید که من رودر گوپاں هستم۔ یعنی فنا کشند و پرورش کشند منم۔

پنجم۔ لا۔ این کاذب از ملک مغرب خروج کرد و میغفت که حدیث رسول اللہ ہست که بعد من لا نبی خواهد شد و حدیث لا نبی بعدهی پیش میکرد۔

ششم۔ زنے دعویٰ نبوت کرد۔ خلیفہ وقت ازو پرسید که بر بغیر آخوند زمان ایمان داری۔ گفت بلے۔ خلیفہ گفت که رسول اللہ ﷺ فرموده است که "لانی بعدی" یعنی بعد از من کسے نبی نباشد۔ آنزن جواب داد که در میں حدیث برائے مردمانع است نہ برائے زن۔

هفتم۔ عطا۔ این کاذب بنام این مقتضع معروف بود و قال و معتقد مسئلہ حلول بود میغفت که خدا تعالیٰ در همه پیغمبران حلول کرده است و حالاً در من حلول کرد۔ مرزا هم معتقد مسئلہ حلول است که خود را او تارو بروئ خدا میگوید۔ چونکه مدعاوین کاذب بسیار بوده اند لہذا در این مفتر برای قدر قلیل کنایت ورزیده ذکر کاذب موجوده میکنم تا برادران اسلام بر غلط بیان و گندم نهایی و جو فروشی مریدان مرزا که خود را احمدی گویند را و خلالت اختیار نموده گمراہ نشوند و بر مراتط مسقیم قائم بمانند و برچوب زبانی و خلاف بیانی کے "غلام احمدی" مائل نشوند و دولت ایمان از دست نمی‌مند۔

ور ملک ہندوستان بھوبہ پنجاب علاقہ ضلع گوداپور قبیہ ایست کہ اور اقادیان گویند در انجا فتحے حکیم
 حاذق یود مرزا غلام مرتفعی نام در خانہ وے در سال ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء پڑے پیدا شد کہ نامش بطور تناول غلام احمد
 نہادند مرزا غلام احمد بعد از تعلیم علم فارسی و عربی بقدر ضرورت در ضلع سیالکوٹ محروم گیکیں (محصل کہ حکومت از
 رعایا برآمدنی وصول میکد) بمعاہرہ پائزدہ روپیہ طازم دولت انگلیس شد۔ در سیالکوٹ بحالت ملازمت شکدت بود
 لہذا ارادہ کرد کہ در امتحان مختاری (قانون پیش کر کہ از وکالت قدرے کم است) کامیاب شدہ پیشہ وکالت اختیار کند مگر
 از شوی طالع در امتحان کامیاب نہد۔ کیمیا گری ہم سے آموخت گرفتہ کہ پذیریہ آں زرے سازند درست نیا۔
 یک عرب پیش مرزا آمد و چند عمل باوآموخت و گفت کہ این وظیفہ بخواں خدا تعالیٰ منسیجے پیدا کند کہ تو انکو صاحب
 مال خواہی شد۔ مرزا ملازمت ترک محمود و بھیر لاہور آمد و در مسجد (معروف) چینیاں بہ چیش منلوی محمد حسین (غیر
 مقلد) صاحب ٹالوی ملاقات کرد و ہم در مسجد مذکورہ سکونت اختیار کرو۔ چونکہ عوام الہ اسلام از غیر مقلدان نفرت
 سے داشتند و وہابی گفتہ تفسیر میکردن۔ مرزا مولوی محمد حسین صاحب را گفت چنان ارادہ دارم کہ کتابے تصنیف کنم کہ در
 وہر ہر ذہب اسلام را صداقت و غلبہ باشد۔ مولوی صاحب اتفاق کردند و معاون مرزا شدن چاکہ در ای وقت عجب
 مصیبیت بر الہ اسلام یود کہ سوامی دیانند بانی مبانی آریہ سماج پیدا شدہ یود و مردم آریہ از ہر طرف بر ذہب اسلام
 خورده میگر فہد۔ در ای وقت وجود مرزا بغاۃت غیمت شمرده شدو ہے فرقہ ہائے اسلامیہ بدد وے استادہ شدند و
 افسوس کہ کتاب ”بر ایں احمدی“ چندہ دادند و برائے اعانت اشتہار مشتہر کر دند غرض ہے مدگار وے شدند۔ مگر
 اسلام را خراب کردن گرفت و اعتراضات کہ آریہ و عیسائی و برہمو وغیرہ بر اسلام مکردن مرزا و مریدانش چنان
 اعتراضات بر اسلام کر دن آغاز نمودند و دعاوی خود را بہ اشتہار ہا و کتا بہا نوشتن آغاز کر دند و مسلمانان را در بلاعے
 عظیم گرفتار ساختند کہ علماء کیطرف آریہ و عیسیا یا نرا جواب میدند و طرفی دیگر تحریرات خلافی شرع مرزا راجواب
 میتو شدند و از چندہ مسلمانان کہ برائے تردید آریہ و عیسیا یا نرا وغیرہ جمع کردہ یود دن از ہر دو طرف با خود افتدند۔ چون
 دعویٰ مسیحیت و مہدویت و نبوت و رسالت مرزا مسلمان شنیدند علمائے اسلام فتاویٰ کفر پر مرزا صادر کر دند و علمائے کہ
 معظمه و مدعیہ طبیبہ و ہندو سنده و افغانستان و بخدا وغیرہ وغیرہ اشتہار جاری کر دند کہ مرزا چون مسیلمہ کذاب است و
 انکار شتم نبوت کر ده مدعی نبوت و رسالت کافیہ خود شدہ است از و علیحدگی اختیار باید کرد۔ پس ہمہ مسلمانان صاحب
 علم و ہوش از مرزا جدا شدند و آن کسان کہ در خود مادہ مسیلمہ پرستی نہیا۔ ہمراہ مرزا نامندند۔ مرزا اگر مسلمان یودے
 فتاویٰ علمائے اسلام دیدہ توبہ کر دے مگر بعد ازاں مرزا نہایت جسارت کر ده مریدان خود را حکم داد کہ از مسلمانان جدا
 شوید چا کہ ہمہ مسلمانان عالم پہ سبب انکار نبوت و رسالت من کافر شدہ اندو من کہ سچ موعود میباشم ہر کہ انکار
 مسیحیت من کند کافر است چا کہ خبر آمدن من حضرت مخبر صادق محمد علیہ السلام وادہ است و من ہاں این مریم مسمی کہ در
 آخر زمان نازل شدی یود و بر دھوے خود ایں دلیل پیش کرد کہ من چونکہ مریم مسمی ازین سبب بطور استخارہ من حاملہ
 شدم و بعد ازاں ماہ پچھے زادم کہ او عیسیٰ یود پس خدا تعالیٰ مرزا مریم عیسیٰ ساخت ترجمہ اصل عبارت او این است۔
 ”چون مریم روح عیسیٰ لکھنہ در من لقع کر دند و مرایرنگ استخارہ حاملہ قرار دند آخر بعد چند ماہ کہ متش

زیادہ از ده ماہ ہنود مرزا از مریم عیسیٰ ساختہ شد۔ (کشی نوح ص ۷۷ خزانہ ۱۹۴۹ء ج ۵۰)

این دلیل چنان مسحی خیز را مریدانی مرزا قبول کر دند و اور اسی مسح نبی و رسول یود

ازیں مرزا خیال کرد کہ چونکہ من سعی موعود هستم رسول و نبی ہم نمی و در سال ۱۹۰۸ء عیسوی دعویٰ نبوت و رسالت در اخبار خود کے نامش اخبار بدر قادیان بود بدین الفاظ شائع نمود کہ نبی و رسول هستم از فضل خدا۔ (اخبار بدر ۵ مارچ ۱۹۰۸ء)

چونکہ این دعوے خلاف اجتماع امت محمدی ہے لیکن بود علائے ہندو عرب و بنداد فتویٰ بکفر و شائع کر دند چاکہ مدعا نبوت بعد از حضرت خاتم النبیین باجماع امت کافراست۔ باید کہ اہل اسلام تبر و تکفیر فرمائیں۔

..... ابن حجر عسکری در فتاویٰ خود مینویسد مَنْ أَعْتَدَ مُحَمَّدًا لِّكَانَ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ یعنی کیکہ بعد محمد ﷺ دعوے کے نکد کہ برمن وغی نازل میشور او زوج جمیع مسلمانان عالم کافراست۔

۲..... مطابق قاری در شرح فتح اکبر ص ۲۰۲ باب امسلاة الحجۃ بالکفر نوشتہ کہ ذَهْوَى النَّبِيُّ يَعْذِذُ نَبِيَّنَا مُحَمَّدَ
کُفْرٌ بِإِجْمَاعٍ یعنی دعوے نبوت بعد نبی ماحمد ﷺ باجماع امت کافراست۔ گرما را غلام احمد در کتب خود نوشتہ کہ من
چونکہ مسلمان هستم و تابع محمد ﷺ مراد دعوے نبوت میشور و سزاوار است چاکہ این دعویٰ خلاف شرع محمدی ﷺ
نیست کہ من بروز محمد امام و فنا فی الرسول هستم ازین سبب دعوے نبوت من خلافی نصوص شرعیہ نیست۔ اگرچہ این
شاعرانہ لفاظی پہ جوئے نبی ارزدواں لغوطیں استدلال بھجوے برادر نیست لاکن انہی دانان کہ از علم دین بے بہرہ
بودند و نیز بیحت کردہ مرید شدہ بودند ایں چنین دلائل را قبول کر دند و اور ایسچ میشود تسلیم کر دند۔ مرزا چون تجییع خود
و پید جماعت خود علیحدہ ساخت و مریدان خود را حکم داد کہ چونکہ علائے اسلام مرزا کافر میگویند و مردانی و رسول نمیگد اند
اہنذا خود کافر شدہ اند چاکہ انکار یک نبی کافراست اگرچہ آس نبی قبل از محمد ﷺ باشد یا بعد از حضرت خاتم النبیین۔
پس مریدانش کہ خود را احمدی یعنی مندو و جبهہ احمدی این است کہ ایشان مریدان مرزا غلام احمد قادیانی اند و ایں جماعت
از مسلمانان مقاطع کر ده در معاملات و عبادات و عروتی وغیرہ کنارہ کشیدن فریضہ باجماعت و نماز عیدین و جمعہ و جنائزہ با
مسلمانان ترک کر دند و در امور سیاسی ہم از مسلمانان جدا شدہ اند۔

و قلیکہ مسئلہ خلافت در میان اوقات ایں جماعت پہ کفار پیوس و آنکارہ گفتند کہ "ظنیہ اسلامین ٹرکی خلیفہ
ما احمدیان نیست خلیفہ مادر قادیان است" غرض کہ این جماعت من کل الوجہ خلاف اہل اسلام است و شب و روز
سی میکند کہ جمیع مسلمانان بوجے پیوند شوند ہر ممکن حیلہ بکار بردند تبلیغ رسالت رسول قادیانی میکند و بہ بہاء تبلیغ
اسلامیہ پول گرو آورده تبلیغ احمدیت (رسالت مرزا) کنندگان زبانہ ممالک دیگرے فرسیدہ تاکہ مسلمانان را مسیحیت و
رسالت مرزا تلقین کئند۔ چونکہ دنیا عالم اسہاب است ہر کر کسی کند وہر کہ مدعا شود عوام کالا نعام ہیروی او میکند ازین
سبب اکثر مردم بدام وے ہتھیں۔ درین ایام شورش عظیم رومودہ و مشہور عام شدہ است بلکہ روز نامہا این خطرہ ظاہر
نمودہ کہ مبلغان این جماعت پہ بخارا رسیدہ آنچا تحریر یزی مذهب خود (رسالت و مسیحیت مرزا) خود کر ده اند و ہنوز
ارادہ خاص کا مل دارند۔ این خبر ہم بوضوح پیوس کہ چند کسان نمہب خود را پہاڑ داشتہ پہ کامل رسیدہ اند و سی میکند
کہ نمہب خود شائز اور ان مملکت اشاعت کئند۔ بطور اختصار عقائد این جماعت نوشتہ آئید تاکہ مسلمانان ازین گروہ
گمراہان گول نخورند۔

دعویٰ نبوت و رسالت

آنچہ	من	بیشوم	زوجی	خدا
بندنا	پاک	دائمش	ز	خطا

پھو قران منہ اش دام
از خطاها ہمین است المکام

(نہول اسح ص ۹۹ خزانہ حج ۱۸ ص ۲۷۷)

۲..... چنانکہ من برآیات قران شریف ایمان دارم ہماں بغیر فرقی یک ذرہ بروتی خود ایمان دارم۔
(مجموعہ اشتہارات ح ۳ ص ۲۳۵)

۳..... قل یاٰیهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (مجموعہ اشتہارات ح ۳ ص ۲۷۰ اشتہار معيار الایخیر)
”اے مرزا مردم را گو کر من رسول شدہ بطرف شا آمدہ ام۔“ این الہام مرزا است کہ بررسالت مرزا دلیل آرند۔

۴..... آن خدا حقیقی خدا است کہ رسول خود را قادیان فرستاده است۔ (دافع البلاء ص ۱۸ خزانہ ح ۱۸ ص ۲۳۱)

۵..... قادیان از طاغون حکم خواهد خواہد ماند چرا که تخت گاه رسول است۔ (دافع البلاء ص ۱۰ خزانہ ح ۱۸ ص ۲۳۰)

۶..... حقیقی خدا آئست کہ رسول خود را بهدایت و دین خود فرستاده ایناً الْوَلَادَةُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ یعنی آن رسول را قریب قادیان نازل آردیم۔ (ازالہ ادھم حصہ اول ص ۷۷ خزانہ ح ۱۸ ص ۲۳)

۷..... مراد عوی است کہ من نبی و رسول هستم۔ (ملفوظات ح ۱۰ ص ۱۱۷ اخبار بدر ۵ مارچ ۱۹۰۱ء)

۸..... قسم بخدا یکم جام بقضه اوست که او مراسم نبی عطا فرموده است۔ (حقیقتہ الوجی ص ۶۸ خزانہ ح ۲۲ ص ۵۰۳)

۹..... چندیں اولیا و ابدال و اقطاب کے قبل از من گذشتہ اند آنہارا این قدر حصہ کشیر این نعمت بیکھس ندادہ انہیں
باہیں سبب نام نبی یا فتن را مر اخصوص کر دند۔ (حقیقتہ الوجی ص ۳۹۱ خزانہ ح ۲۲ ص ۳۰۶)

۱۰..... آنچہ داد است ہر نبی راجام

داد آں جام را مرزا بتام

انیاء گرچہ بودہ اند بے

من برفان نہ کترم ز کے

(نہول اسح ص ۹۹ خزانہ ح ۱۸ ص ۲۷۷)

مرزاے قادیانی خود را از رسول اللہ ﷺ افضل میشمارد

۱..... لَهُ خَسْفُ الْقَمَرِ الْمُبِينُ وَإِنَّ لِي خَسْفَ الْقَمَرِ أَنِّي أَمْشِرُ قَمَرَ الْنُّذُكْرِ۔ (اعجز احمدی ص ۱۷ خزانہ ح ۱۹ ص ۱۸۳)
یعنی برائے محمد ﷺ صرف ماہ را خسوف شدہ برائے من مہتاب و آفتاب ہر دورا کسوف و خسوف شدہ
کون چسان مرتبہ سرا اکار تو انی کرو۔

۲..... در این ایام خدا تعالیٰ وحی مراد تعلیم مراد پیغات قرار داده است۔

(اربعین ثہر ص ۶ خزانہ ح ۱۸ ص ۲۳۵)

مطلوب ایکلہ خواہ کے یہ وی قران کند ارکان اسلام بجا آورد ہر گز نجات نیا بدتا و قیکر مرید من نشود۔

۳..... برائے محمد ﷺ سہ ہزار مجھات و نشان ظاہر شدند۔ (تحقیق گلزاری ص ۲۷۰ خزانہ ح ۱۷ ص ۱۵۳) و برائے من زیادہ از
سلک۔ (حقیقتہ الوجی ص ۱۲۳ خزانہ ح ۲۲ ص ۱۶۸)

مسلمان غور فرمائیہ کہ چسان مدی کاذب فضیلت خود بر حضرت خاتم النبیین ظاہر مکمل کر برائے محمد ﷺ

صرف سہ ہزار نشان خدا تعالیٰ ظاہر نموده بود و برائے من سر لک۔ مگر اور اعقل نیامد کہ اگر یک نشان روزانہ بظہور میے آمد زیادہ از ہشت ہزار نمی ہو۔ راست است کہ ”دروغ گورا جانفہ نہایت۔
۳..... احادیث رسول اللہ ﷺ کے خلاف الہام من باشد ما آنہ الطور کاغذ روی مقلدیم۔

(اعجاز احمدی ص ۳۰ خزانہ حج ۱۹ ص ۱۳۰)

۴..... مر اطلاع دادہ شد۔ ہمہ احادیث کے علمائے اسلام پیش میکنند ہمہ یہ تحریف لفظی و معنوی آلوہ اند یا موضوع اند ہر کہ حکم شدہ آمدہ است اختیار وارد کہ از ذخیرہ احادیث انبارے را کہ خواہ از خدا علم یافہ روی کند۔
(ابیعن بنبڑہ ص ۱۵ خزانہ حج ۱۷ ص ۳۰۱)

افسوں۔ اصول صحابہ کرام و محمدین و مجتہدین و سلف صالحین این است کہ ہر الہامیکہ خلاف قرآن و حدیث و اجماع باشد مردو داست۔ غلام احمد مفتی میگوید کہ مقابلہ الہام من قرآن و حدیث روی است (تعوذ باللہ) حالانکہ الہامات اوہیکی از کفر و شرک مرہب شدہ اند۔ نمونہ الہام اش ملاحظہ فرمائید۔

الہامات

۱..... اَنَّكُمْ مِنْيَنِي بِمُنْزَلَةِ الْمُرْوُزِيْنِ يعنی اے مرزا تو بجائے فرزند ما ہستی۔ (حیثیت الوجی ص ۸۶ خزانہ حج ۲۲ ص ۸۹)

(ابیعن بنبڑہ ص ۳۳ خزانہ حج ۱۷ ص ۳۲۳)

۲..... اَنَّكُمْ مِنْ مَاءِ نَاؤُهُمْ مِنْ فَشْلٍ يعنی اے عزرا تو از آب نا ہستی و آنہا از مخلکی۔

(ابیعن بنبڑہ ص ۳۳ خزانہ حج ۱۷ ص ۳۰۳)

۳..... اَنَّكُمْ مِنْيَنِي بِمُنْزَلَةِ اُولَادِيْنِ يعنی اے مرزا تو بمجایے اولاد ما ہستی۔ (تجمیلۃ الہمیں ص ۱۲ خزانہ حج ۲۰ ص ۲۰۳)

(ابیعن بنبڑہ ص ۳۳ خزانہ حج ۱۷ ص ۲۲۲)

۴..... اَلْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ مَعَكَ كَمَا هُوَ مَعِي۔ یعنی اے مرزا زمین و آسمان بھما چنان است کہ پامن۔

(حیثیت الوجی ص ۵ خزانہ حج ۲۲ ص ۷۸)

۵..... إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا هَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا يعنی فرستادیم بطرف شماری رسول

چنانکہ فرستادیم جانب فرعون رسول۔ (حیثیت الوجی ص ۱۰ خزانہ حج ۲۲ ص ۱۰۵)

برہناءے این الہام مرزا جملہ مسلمانان عالم را فرعون تصور میکنند و خود را رسول پندارد چنانکہ این آیت قرآن است کہ در حالت خواب چوں و مگر مسلمانان برزبان و سے چاری شدہ باشد مگر او گمان میکردا کہ آیات قرآن مجید دوبارہ بروے نازل شدند چنانچہ عسکی بن زکرویہ قرمطی کاذب مدی نبوت میکفت کہ آیات قرآن شریف برمن دوبارہ نازل میشوند۔

۶..... اَنَّكُمْ مِنْيَنِي وَآتَانِي مِنْكَ يعنی اے مرزا تو از من ہستی و من از تو۔ (حیثیت الوجی ص ۷ خزانہ حج ۲۲ ص ۷)

۷..... ذَنِي فَتَدَلِّي لَكَانَ قَابَ قَوْسِينَ اُوْ اَذَنِي يعنی مرزا نزدیک بخدا شد و چنان نزدیک شد کہ در میان دو قوسین خط میشود۔

(حیثیت الوجی ص ۶ خزانہ حج ۲۲ ص ۷)

۸..... يَمْرِئُمُ اسْكُنْ اَنَّكَ وَرُؤْجُكَ الْجَنَّةَ يعنی اے مرزم تو دوست شما پہشت واخی شوید۔

(حیثیت الوجی ص ۶ خزانہ حج ۲۲ ص ۷)

این است الہام کہ مرزا امریم ساختہ و حاملہ شدہ عیسیٰ زائید۔ لا حول ولا قوۃ۔ اے لعنت بکار شیطان۔

..... يَحْمِدُكَ اللَّهُ وَيَمْشِي إِلَيْكَ یعنی اے مرزا خدا تعالیٰ تعریف تو میکن و بجا ہتو مے خرام۔

(حیثیت الوجی ص ۸ خزانہ حج ۲۲ ص ۸۱)

هر مسلمان را قیاس پایید که اینچنین الہامات شرک و کفر خلاف قرآن و احادیث از طرف خدا منزل شده اند یا از طرف شیطان لعنی - او که وعده کرده است که مردم را گمراه خواهد کرد - گرفتوں که مرزا او مریدانش اینچنین الہامات را از خدا تعالیٰ تصور نمیکنند و از آتش دوزخ نمیترسند - آگر اینچنین الہامات را رحمانی نام نهادم - پس مریدان مرزا بفرمایند که شیطانی الہامات کرا گویند علامش جوست الہامیکه خدا تعالیٰ را فرزند او اولاد جبویز کند و صریح خلاف قرآن شریف باشد چنان از جانب آن خدا باشد که اور قرآن شریف فرموده است - وَقَالَتِ الْيَهُودُ غَرَبُونَ أَبْنَى اللَّهُ وَقَالَ النَّصَارَى الْمَسِيحُ أَبْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يَضَاهُهُونَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ (توبه ۳۰) ترجمه - یهود میگویند که عزیز پسر خدا است و انصاری میگویند که حق پسر خدا است ایں بهم چنان گفتگوی هست بلکه گفتگوی آن کفار است که پیشتر گذشتند.

از قرآن ثابت میشود که هر که خدا را نسبت پری و بدکا فراست مگر مرزا میگویند که خدا تعالیٰ مرانیست پس ازیز بدهی و بجهة که عیسیٰ ابن الله بود (نحوز بالله) و من هم صحیح هست ازین سبب خدا تعالیٰ مرانیز نسبت پس ازیز بخود داد چنانچه صحیح را داد - و درین حکمت این است که تردید انصاری شود - مصرعه -

”برین عقل و دانش بپایید گریست“

درین الہام تردید مسلکه ابن اللہ نیست بلکه تصدیق است چونکه دوی میگویند که خدا است که او مثلی عیسیٰ ابن مریم است چوں مرزا به سبب بودن مثلی صحیح بکسر ل فرزند خدا است بجهة احسن ثابت شد که اصل صحیح اصل فرزند خدا بود - این مسلکه ابن اللہ را تصدیق شد و این کفر است -

پس این چنین الہامات و موسوی شیطان اندیشه الہامات رحمانی - ولا یقی رد کردن اندیشه لایق بیرونی کردن - این چنین کشوف مرزا غلام احمد قادریانی پر از شرک و کفر باشد مگر مرزا بهمه رطب دیابس راه رچ در خواب بیندو شنود همه را از خدا پندار و چند کشوف او نیز نوشته آید بطور نمونه تا معلوم شود که از احلام شیطانی اندیشه رویا صادقه -

کشوف مرزا

۱..... حضرت صحیح موعود فرموده که در حالت کشف حاجتے برمن طاری شد که گویا من عورت شده ام واللہ تعالیٰ اظہار طاقت رجولیت بمن فرموده بود - (اسلامی قربانی ص ۱۲ موقوفه قاضی یار محمد قادریانی)

این کشف از احلام شیطانی است که صدر صد و هزار مردم حکم میشوند و در حق اینچنین کشف فرموده شده است - مصرعه -

”کشف و ہمی را بین کفشه بہ سمجھ“

۲..... در خواب دیدم که خود خدا ام و یقین کردم که همان هستم در احوالت میگیرم که مانظام جدید و آسان نفوذ میکنم توئے خواجهم پس من اول آسان وزین را بصورت ابجاتی پیدا کردم که در اس ترتیبی و تفریقی نبود بعد ازان من به مشاه حق ترتیب و تفریق کشی کردم دیدم که برخلاف ایشان قادر هستم پس آسان دنیارا پیدا کردم و حکم انا زیننا السمااء اللہ نیا بمقاصیبیخ - (کتاب البریه ص ۷۸ خواص بچ ۱۳ ص ۱۰۵)

در تشریح این کشف مرزا غلام احمد خود را باین طور خدا ثابت میکند و میگوید ”وَقَتَلَهُ مَنْ خَدَا شَدَمْ وَرَآَنَ وَقَتَ اراده و خیال و عمل من یعنی نماند و من مانند ظرف سوراخ دار یعنی چندنه ظرف شدم یا مانند چنان شے شدم که دیگر شے اور اور خود پنهان کرده درین اشادیدم که روح اللہ تعالیٰ برمن محیط شد و بر جسم من غلبه نموده درو جزو خود مرانپنهان کرد

حتی کہ ذرہ من باقی نہاند چون بر جسم خود دیدم در یا قسم کہ اعضاے من اعضاے خدا شده اند و قسم من چشم او دو گوش من گوش او وزبان من زبان او شدن در رب من مرا گرفت و چنان گرفت که بالکل خو گشتم۔ چون گریسم یا قسم که قوت و قدرست خدا در من جوش میزند و الوهیت او در من موجزن است نہایے حضرت عزت بحوالی خاطرم نصب شده اند و سلطان جبروت نفس مرا کو بیده محدود ساخت پس نه من نامند و نه تنایے من باقی نامند عمارت من بناخاد و منبهم شد و عمارت رب العالمین استاده شد و الوهیت بقوت تمام بر من مستولی گشت من از موئ سرتانخن پا بجانب او شکیده شدم باز همه مغفرگردیدم که دران پوست بند و رونچه گشتم که در و کدو رت نبود در میان من نفس من جدائی اند اخته شد پس من نامند آن شے گشت که در نظر نیاید یا مانند قدره شدم که در دریا آفکندش و دریا اور اور پیرا هن خود پنهان کند درین حالت من ندانستم که اول من چه بودم و وجود من چه بود الوهیت در رگ و ریشه من سایت کرد و من از خودی خود گم شدم و خدا تعالیٰ ہمہ اعضاے مرا بکار خود مصروف کرد و بدین زور مرا در قبضه خود گرفت که زیاده ازین مکن نبود چنانچہ من بالکل محدود شدم و من یقین میکرم که این اعضاے من از من میگشند بلکہ اعضاے خدا تعالیٰ اند و خیال میکرم که محدود شده ام و از هستی خود پیرون شده ام تا ہنوز امبازے و شریکے و متنایے نیست۔ خدا تعالیٰ در و وجود من داخل شد غضب و علم و تحقیق و شیرینی و حرکت و سکون من ہمہ از و شداغ۔

(آنینہ کمالات اسلام ص ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵ خزانہ حج ۵ ص الفضا)

ماصل این ہمہ طوباء لغویات و مکار عمارت این است که من که در خواب دیدم که خود خدا شده ام۔ مگر در حالت بیداری بجائے استغفار ازین خرافات خود را خدا ثابت میکند و میگوید که در حقیقت خدا شده بود و خدا تعالیٰ در و وجود من داخل شده بود و ہمہ لوازم اتو بشریہ از من جدا شدن و الوهیت در من موجزن شد۔

این است فرق در میان عباد الرحمن و عباد الشیطان که اولیاء اللہ چون شنیدند که در حالت سکر کلمہ کفر گفته شد تو به کردند و مریدان را حکم دادند که باز اگر چنین کلمات شنود مراقل کنید۔ اتباع شریعت کردند و مزائے که علائے اسلام تجویز کردند از راو متابعت بسر چشم نهادند۔ چنانچہ لبخے بردار کشیده شدند و لبخے را پوست بر کنیدند لاؤں بزرگواران از حکم شریعت سر موردن تھاند۔

مگر افسوس کہ این مدعا کاذب نمیداند کہ اسچین کلمات کفریہ را من شریعت اسلام جائز ندارد۔ و مسئلہ طول در اہل اسلام مرسود است اگر این شخص بر شریعت اسلام عمل میکرد ہرگز گمراہ نے شد۔ و چنین کشو فهارا از شیطان فہیدہ رد میکردد۔

مسئلہ طول و اوتار اہل ہنود است چنانچہ در گیتا کہ مصنفہ راجہ کرشن بود این مسئلہ مذکور است۔

چ	بیاد	دین	ست	گرد	و	بے
نمایم	خود	را	بھل	کے		
برزیم	خون	سم	پیشگان			
چان	را	نمایم	دارالامان			

(گیتا فیضی)

افسوس عیب تھا کہ طول بیانی و مکار در مکار است مرتضی احمد ہنر نیاشتہ اظہار لیاقت خود میتاکد۔ حالانکہ این ہمہ مضمون را در دو سہ جملہ میتوانست اظہار داد۔ شیخ فیضی این تمام مضمون را بیک شعر ادا نموده۔

من از هرس نام جدا گشته ام
تی گشت از خود خدا گشته ام

(گیتا فیضی)

واین چالی از اصول این مسلک وحدت الوجود خبرے ندارد که درین لازم است که صاحب حال از هستی خود غائب شده اشتبهان الفاظ میگوید و عبارت منقوله بالا ظاہر میکند که مرزا در پیر قفره میگوید که من چنان کردم و چنین شدم و تا قلیکه خیال منی دور نمی شود مقام سکر حاصل نشود.

واضح باد که بیرون و نصاری والل ہنود بعض جہل ملبس بلباس صوفیه کرام بر جنیں مسائل باطله اعتقاد دارند و خلق را گمراہ میکنند و رسته الل اسلام ہرگز باور نمیکنند که گاهے عائز انسان (تعوذ بالله) خدا میشود یا واجب الوجود هستی مطلق باری تعالیٰ عز اسمه در وجود انسانی که حادث و متغیر است حلول کند. در کفر و اسلام فرق نکردن و باطل مسائل کفار را داخل اسلام نمودن کفر است. خدا تعالیٰ در قرآن شریف میر ماید یوریلئون آن یقیناً یقین دلیک سبیلًا اولیک همُ الکافِرُونَ حَقًّا (الناء ۱۵) یعنی کسانیکه اراده میکنند که در کفر و اسلام را بے مبنی اختیار کنند آنان کافرانند.

۳..... فَإِنَّ رَأَيْتَ أَنَّ هَذَا الرُّجُلُ يُؤْمِنُ بِإِيمَانِكُمْ قُبْلَ مَوْقِبِهِ لَعْنِي در کشف دیلم که مولوی محمد حسین پیشوای قبل از مرگ خود بمن ایمان خواهد آورد (جیہۃ الاسلام ج ۱۹ خراشی ۶ ص ۵۹) مگر مولوی محمد حسین ہرگز بر مرزا ایمان نیاورد بلکہ تادم مرگ مخالفت می کرد. ثابت شد که این کشوفها از جانب خدا نبودند. اگر از خدا میخواهد راست بیامدے۔

۴..... در ریگ کشفی برمی خواهند شد که ایں بادشاہ که در تعداد شش هفت بودند از جامعه تو برکت جوینند۔

(خبر احکم ح ۲ نمبر ۳۸ مورخ ۱۲۲۳ کتوبر ۱۹۰۲ء م ۱۰ تذکرہ م ۱۰۔ اطیع سوم)

۵..... پیشکش از شاہان مرید مرزا نحمد و شاعر از جمله وے برکت جست۔ پس این کشف ہم حدیث انفس بود۔ دوبار مرایہ و نموده شد. جماعت کشیر الل ہنود پیش من چوں سجدہ سرتلیم خم کردن و گفتند که این اوتار اند۔ یعنی مرزا اوتار است پیشکشها گز رایدند۔

۶..... برکس او در نمود که ہندو وال مسلمانان را ہندو آریہ وغیرہ میساخند۔ پس ثابت شد که این روایا صادق نبود. شفته که سکونت در شهر لدھیانہ میداشت مراجعاً کشف نموده شد و در تعریف وے این عبارت الہام شد اراده شد اصلہاً ثابت و فرغُهَا فِي السَّمَاءِ (مکتوب احمدی ح اص ۲۸ مطبوعہ ۱۸۹۷ کتوبر ۱۹۰۸ء بہام میر عباس علی شاہ)

این کشف در حق میر عباس علی لدھیانوی بود که مرید خاص مرزا بود و مرزا غلام احمد اور انوشته بود که اگر جنین گولی نکاح آسمانی بظهور نیاید مرادی کاذب یقین کیید چنانچہ او انتظار کرد. و چون جنین گولی نکاح آسمانی غلط ثابت شد او حیران بماند و در مجتمع مسلمانان که مسجد جمع بودند اقرار کرو که اگر قرآن شریف مرد ہیری کند من تو به خواهم کرد. چنانچہ مسلمانان ہمکی عسل کردن و بعد از نہایت عجز و نیاز و خشوع انجما کردن که خداوندان میان را راو راست بنا و مارا طلاع فرماتا در گمراہی نمیریم و قرآن شریف واکردن. در اول سطر دیند که خدا تعالیٰ میر ماید و اجتنبیو اقول الزُّور یعنی از قول مکر و فریب پرهیز کنید۔ الحمد للہ که میر صاحب را خدا تعالیٰ توفیق توبہ عنایت فرمود (راوی این حضرت خواجه عبدالحق صاحب ساکن کوٹ عبدالحق متصل ہو شیار پور بیاشد)

برادران اسلام! اشتبهان دروغ پافیهائے مرزا بسیار اند اما بخوبی طوالت برین اکتفا کنیم و برائے آگاهی شمیان میتوانیم که مرزا غلام احمد مسلمان از خود ہدایت کرده بود که برائے صدق و کدب خود معيارے مقرر کنیم اگر برین معيارہا صادق ثابت نشوم مرکا ذائب یقین کیید و آن معيار ہانوشته میشود تا کہ میان صادق و کاذب فرق

میتوان کرد و مسلمانان را چوب زبانی و چیزه دستی مرید اش تفریجید.

معیار اول مقرر کرده خود مرزا غلام احمد قادیانی تھی۔ اصل عبارت و نقل کرده شود۔ و ہو ہذا۔

"خدا تعالیٰ برین عاجز طاہر نموده که دختر کلاں مرزا احمد بیگ ولد گماں بیک ہوشیار پوری انجام کاربہ نکاح شما بایدید و آنان بسیار عدالت خواهند کرد و مانع شوند و سعی کنند که چنان نشود۔ لیکن آخر کار جنین خواهد شد۔ و خدا تعالیٰ بہر طریق آزاد بطرف شما خواهد آورد بحالت با کرہ یا بیوه کرده و هر امر مانع را از میان بیرون خواهد کردو این کار را ضرور خواهد کرد۔ بعض منصف آری صاحبان (ہنود) گفتہ کہ اگر این پیشین گوئی صادق آید یقین کرده شود که بلاشبہ این فعل خدا است ایغ۔"

مگر افسوس کہ نکاح دختر که ملکوحہ آسمانی مرزا بود بدیگر کس کے بوضع پیشی ضلع لاہور بود و باش میداشت بسته شد و مرزا لکھست فاش خورد۔ بر عالمیان دروغ بانی و افرا پردازی مرزا ثابت شد مگر مرزا در گردوغ بے فروع بین افسون تازه کرد که ملکوحہ آسمانی یوہ شدہ بخانہ من خواهد آمد چاکہ وحدت خدا تعالیٰ حق است ملکوحہ آسمانی ضرور بمن خواهد داد و مخالفین را که سعی در ذات من ملکوحہ را یوہ شدہ بخانہ من خواهد فرستاد و این تقدیر برم است ہرگز ملکوحہ را وفات خواهد داد و برائے اظهار صداقت من ملکوحہ را یوہ کرده بخانہ من خواهد فرستاد و این تقدیر برم است ہرگز ہرگز خطانتوان رفت اگر خطابا شد من بدترین از خلق خواهم شد۔ و درین ہمین شش پیشگویها دگر برآن مرید کرد و گفت کہ اگر این پیشگویها باطل ہوں یا نبیند و من بحیرم۔ من کاذب ثابت خواهم شد۔ (انجام آنحضرت مص ۳۱۴ حاشیہ خواہیں ج ۱۱ ص ۲۱)

در کتاب خود کہ شہادات القرآن نام نہاد این شش پیشگویها برآن مرید کرد۔

..... مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری پدر دختر ملکوحہ بعیاد سال فوت شود و مرگ داماد خود خواهد دید۔ و خواهد مرد تا تقیہ نکاح من بده خود نہ بیند۔ و این بطور سزا است کہ چنان نکاح دختر بامن گردید۔

۲..... داما د احمد بیگ بعیاد دو شیم سال بحیرم دتا کہ احمد بیگ یوہ شدن دختر خود بہ بیند۔

۳..... مرزا احمد بیگ تاروز شادی فوت نہ شود۔

۴..... دختر نیز تاروز نکاح ثانی فوت نہ شود۔

۵..... مرزا نیز تاروز نکاح ثانی فوت نشود۔

۶..... پہ عاجز یعنی مرزا نکاح او شود۔ (شهادت القرآن مص ۲۸۰ خواہیں ج ۱۱ ص ۲۷۶)

مگر ہزار ہزار شکر کر این ہمس پیش بینی ہا مرزا درست نہد و او خوفت شد و داما دش تا این روز کے ۱۹۲۳ء است و این دختر بقید حیات زندہ موجود است و خداوند کریم از غالیت کرم اورا صاحب اولاد گرانید و بہ دوازوہ فرزندان بناخت و مرزا را بعیار مقرر کرده خودش کاذب گرانید و بدترین مردمان ظاہر کرد و بسیارے از مریدیان خاص مرزا ثابت شدہ تجدید ایمان کردند اگر این پیش بینی راست آمدے بسیار مسلمانان گمراہ شدندے مگر خدا تعالیٰ مجی کاذب را مفتری علی اللہ ثابت کرد۔

معیار دوم مرزا خودی نویسید کہ "ڈاکٹر عبدالحکیم بست سال در مریدی میں بمانداز چند روز از میں نور شدو مقابل من گردید و مراد جمال، کذاب، مکار، شیطان، شری، حرثکور، خائن، حکم پرست، نفس پرست، مخدود و مفتری القاب دادہ پیشگوئی کرده کہ در مدت سه سال مرزا فوت خواهد شد۔ چن من ہم الہام خود را کہ بطور پیشگوئی در حق ڈاکٹر بمن ظاہر شد شائع مکمل نہ تاکہ در میان صادق و کاذب فرق شود۔

پیشینگوئی ڈاکٹر عبدالحکیم پیالی لوی

مرزا سرف و کذاب دعیار است بمقابلہ صادق شریف خاہد شد و معیاد سہ سال است از جولائی ۱۹۰۶ء۔

پیشینگوئی مرزا مقبولان نشانہ می قبولیت دارند آنان شاہزادگان سلطنتی اند برائیان کے غلبہ نتوان یافت اخ

بطور اختصار یعنی "خدا حامی راست باوا" (هیقد الہی اشتہار) خدا چکا ہای ہو، ص ۳۴۳ خزانہ ج ۲۲ ص ۳۰۹ (۱۹۱۶ء)

ناظرین کرام! این روحاںی کشی بود کہ در میان مرزا محتسبی ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب قرار یافت دایں معیار صداقت برائے ہر یک مقرر بود مگر بمیعاد سہ سال دست اجل مرزا راتارن ج ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء ہلاک کرده ہے ثبوت رسانید کہ مرزا کاذب بود و ڈاکٹر عبدالحکیم بحق بود۔ مرزا شریف ثابت شد کہ در موجودگی ڈاکٹر عبدالحکیم فوت شد۔

معیار سوم..... مقرر کردہ مرزا۔ مرزا بدرگاہ خداوندی دعا کرد کہ خداوند اور میان من و مولوی شاء اللہ

امر تری فیصلہ آخری بفرما کہ کدام کس از ہر دو میان بحق است و ہر کہ براو غلط بودہ باشد اور اور زندگی صادق ہلاک گردان تاہر کند در وعوی اش دروغ باشد تمیز کردہ شود۔ (نفس مجموع اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰) خدا تعالیٰ مرزا را الہام کرو۔ اُجھبَ دَخْرَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ (ذکرہ ص ۸۱ طبع سوم) دعاۓ مرزا قبول کردہ شد۔ خدا تعالیٰ فیصلہ بحق مولوی شاء اللہ صادر فرمود و مرزا بوجودگی مولوی شاء اللہ ہلاک کردہ شد و مولوی شاء اللہ صاحب تاحال بفضل خدا زندہ است گرمشی قاسم علی حواری مرزا گفتہ کہ من سہ صدر روپیہ بشرط میدھم اگر مولوی شاء اللہ ثابت کند کہ فیصل خداوندی بحق اوشد۔ مولوی شاء اللہ این ابرار قبول کرد و بملغ سہ صدر روپیہ امانت نہادند و منصف مقرر کردن بااتفاق رائے فریقین سردار بیجن سکھ و کیل سرکاری (پیک پر اسکیوڑ) منصف مقرر شد، سردار صاحب فیصلہ بحق مولوی شاء اللہ صاحب داد و زیر مشروط سہ صدر روپیہ داخل کردہ مشی قاسم علی حواری مرزا باتفاق قادیانی یعنی مولوی شاء اللہ دادہ شد و مشی قاسم علی لکھست خورده ثابت کرد کہ مرزا مفتری بود چہا کہ مرزا الہام شدہ بود کہ وَجَاعَلَ الَّذِينَ أَتَيْعَنُكَ فَوْقَ الْأَلْيَمِنَ كَهْرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (از الہ اہام حصہ اول ص ۲۸۳ خزانہ ج ۳۱۸) چون مولوی شاء اللہ غالب آمد و حواری مرزا مغلوب شد ہیں ثابت گردید کہ این الہام مرزا از طرف خدا بیود و مولوی شاء اللہ بفتح المتعاف یافت۔

یکے بر مرزا و دیگر بر حواری مرزا۔

معیار چہارم..... پیش بینی مرگ ڈپٹی عبداللہ آئتمم عیسائی بود و مرزا بیش بینی کردہ بود کہ اگر عبداللہ آئتمم در میعاد پانزده ماہ فوت نہ شومن کاذب باشم دہرچہ سزاۓ من جو ہیز کردہ شود برداشت خواہم کرد خواہ سرا بردار کشند یا رن در گروں من انداز نہ عذرے نداشتہ باشم و یک شتر او این است۔ (جگ مقدس ص ۲۱۱ خزانہ ج ۲۹۳)

پیشگوئی کا جو انجام ہو یہا ہوگا

کوئی پا جائے گا عزت کوئی رسو ہوگا

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۱ خزانہ ج ۵۵ ص ۲۸۱)

یعنی وقتیکہ این پیشگوئی من راست نہیں یعنی در میعاد مقررہ عبداللہ بکیر دمن عزت خواہم یافت و عیسائی

قوم ذلیل خواہد شد۔

اما شان خدا کہ نتیجہ بر عکس بر آمد۔ عبداللہ عیسائی نمرد و سلامت ماند مرزا ذلیل گشت و عیسائیان عبداللہ را

بر قیل شاندند و در باز اربائے امرت سرگردانیدن و گفتند کہ مرزا در وکلو و مفتری علی اللہ ثابت شدہ یا ریدتا اور ابردار

کشم چاکہ او شرط کردہ بود مریداں مرزا بحرق بخالت غرق شدند بخانہ مان شدند و از شرمساری رونگی مسودند و

نواب محمد علی ساکن مالیر کو ظلم که از خاصان مرزا بود مرزا زانوشت که بس مرزا صاحب از نتیجه پیشگویی کذب ثابت شده است و مرزا بقول "عذر گناه بدرت از کناه" اشتبهار داد و کتابی پر از کذب موسوم به "انجام آنکم" بعد ضمیر مشتر ساخت که چونکه عبداللہ در دول ایمان باسلام آورد و بود این سبب عذاب موعوده از و برداشته شد.

(انوار الاسلام ص ۵ خواصی ج ۹ ص ۵)

این جواب از مرزا بسیار لغوه خلاف قرآن بود چرا که حال دل مردم بجز خدا تعالیٰ کے نمیدانند و خدا تعالیٰ که عالم ظاهر و باطن است برآشخنین ایمان منافقانه عذاب را بردارد. پس این پیش بینی مرزا اهم خلط شد و مرزا کاذب و مفتری ثابت شد.

معیار پنجم..... مرزا خود بذریعه روزنامه بدر کرد که زیر اهتمام مریدان مرزا شائع میشد شهرت داد که من برای طالب حق این امر پیش میکنم که کارمن که برای سرانجام دادن آن درین میدان استاده ام این است که من ستون عیسیٰ پرستی را بثکنم و بجائے مسیحیت توحید را شهرت دهم و جلالت و عظمت رسول اللہ ﷺ را ظاهرا کنم اگر از من نشان صد کله ظاهر شود و این علمت غالیٰ به ظهور نماید کاذب باشم پس دینا چرا بامن دشمن میکند و انجام مراجح اینی میندا آگر من بخدمایت اسلام آن کارها بکرم دم که مسیح موعود و مهدی مسعود را بایست کرد را حکو باشم و اگر چیزی که نکرده شود و مرگ من بیاید همه گواه باشند که من دران وقت دروغگو باشم و السلام. (غلام احمد اخبار بدر مورخه ۱۹ جولائی ۱۹۰۲)

متعلق کاری مسیح مرزا خود در کتاب خود که "ایام صلح" موسوم کرده مینیزد که برین اتفاق کرده اند که وقتیکه مسیح بیاید مذهب اسلام در یهود و دینا جلوه نماید و دیگر همه مذاهب که باطل اند هلاک شوند و راستگاری ترقی خواهد کرد.

(ایام صلح ص ۲۶۲ خواصی ج ۳۸۱ ص ۳)

باز بکتاب خود شهادت القرآن نوشت. "هالی بمسیح بیاید نیز من آمده ام و آن وقت آمدنی است بلکه قریب است که بزرگین نه رام چندر پرستش کرده شوند کرشن و نه حضرت عیسیٰ ﷺ" (شهادت القرآن ص ۸۵ خواصی ج ۲۶ ص ۳۸۱ اشتبهار گوئندگی کی توجیه کے لائق)

افسوس که مرزا بتاریخ ۲۶ می ۱۹۰۸ء برد و این دروغ بانی ثابت شد و همه معاملات بر عکس ظهور رسیدند و بجائے کسر صلیب کسر ستون اسلام گردید و مقامیکه علم توحید نسب کرده میشد علم مسیحیت استاده شد و بجائے غلبہ اسلام غلبه مسیحیت شد و مشرکان و کفار غالب آمدند و مقامات مقدسه هم از قبضه خلیفه اسلام بیرون رفت اثر نصاریٰ اقشار دند. و بر سر مسلمان چنان ابراء و بارحیط شد که در تاریکی آن همه کالائے دیناوی باخته و در قدر نملت اقشار دند و خدا تعالیٰ از فعل خود پهپایه شیوه رسانید که مرزا ہرگز مسیح موعود نبود که خبر نزولش حضرت مخبر صادق ﷺ واد است. - بمنید احادیث رسول اللہ ﷺ و از قلب سلیم خود فیصله طلبید.

حیث اول والَّذِي نَقْسَنَ بِيَدِهِ لَمُؤْشَكٌ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمُ الْمُرْيَمُ حَكَمًا عَدْلًا فَلَمَّا كُسِّرَ الصَّلِيبُ وَقَعَتِ الْخِتْرَيْرُ وَيَضْعُفُ الْجَزِيَّةُ وَيَقْبَضُ الْمَالَ حَتَّىٰ لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّىٰ تَكُونُ السَّجَدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَلَمْ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَفْرَوْا إِنْ شَتَّمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. (سلم ج اص ۸۷ باب نزول عیسیٰ علیه السلام بخاری ج اص ۳۹۰ باب نزول عیسیٰ علیه السلام)

ترجمہ۔ ابو ہریرہ روایت است که فرمود رسول خدا ﷺ مریم است خدا ایسا که بقایه جان من بقیه قدرت اوست که فرود آید این مریم در شادر آن حالیکه با دشنه عدالت کننده باشد پس صلیب را بخاند و خزیر را قل کند و جزیه را محاف کند و مال بکرم خواهد داد چنانکه کے قبول خواهد کرد و یک سجدہ ترجیح داده شود برد بیان و ہر چیز یکه دروغ

ہست باز ابو ہریرہ مسیوید کہ بخواہند آیت قرآن کریم اگر میتوہید کہ: باشد کے از الہ کتاب کہ ایمان نیارہ بر عیسیٰ قبل از مرگ او (عیسیٰ) داشد عیسیٰ گواہ بر ایشان روز قیامت۔

ازین حدیث امور مفصلہ ذیل چون روز شنبہ ثابت شده اندر۔

۱..... مسح موعود حضرت عیسیٰ ﷺ است نہ کسی فرد از افراد امت محمد ﷺ چاکہ در صحیح البخاری کہ اصح الکتب است بعد کتاب اللہ و نیز مسلم شریف در آنہا فصل نزولی عیسیٰ مندرج است اگر کے دیگر غیر عیسیٰ ﷺ مسح موعود شدنی بود بطور نقل و بروز و علی و مثیل درین حالات امام محمد بن الحبیب بخاری تحقیق باب نزول عیسیٰ ﷺ در کتاب خود درج نہیکد چاکہ در شریعت محمدیہ بر غیر نبی لفظ "علیہ السلام" استعمال نہیکد اگر گفتہ شود مرزا ہم نبی اللہ بود۔ و این باطل است چاکہ بعد از حضرت محمد ﷺ کے جدید نبی پیدا نخواهد شد۔

۲..... این امر ثابت شد کہ مسح موعود بادشاہ بود و علمش این است کہ کسر صلیب کند یعنی مذهب صلیبی راتا بود کند۔ مگر یوقت مرزا مذهب صلیبی آنقدر ترقی یافت کہ گاہے نیافتہ بود۔ پرستاران صلیب چنان غائب آمدند کہ در صوبہ تھریں و مقدونیہ و دشمن لک مسلمانان را مل بخوار یہ عذاب جائز سا دادہ بلاک ساختند (اخبار زمیندار مطبوعہ ۸ ستمبر ۱۹۱۳ء) و بخلاف پھرنس مولک مر حصار و غیر مسلمان از ای بزور عیسائی کر وند (رسال انجمن حمایت اسلام ماہ فروردی ۱۹۱۳ء) چون یوقت مرزا بجاے کسر صلیب (حاکم بدہن) کسر اسلام شد ازین ثابت شد کہ مرزا مسح کاذب بود۔

۳..... علامت مسح موعود این بود کہ در وقت او جزیہ معاف شود اما مرزا چون رعیت اہل صلیب بود بجاے معاف کر دن جزیہ (معاملہ زمین خود) او امیکرد و بجاے حاکم شدن مکوم بود و برائے معافی اکم تکس افلام خود ظاہر شمودہ الجای معافی نمود۔

(ضرورت الامام ص ۴۵ خزانہ نج ۱۳ ص ۵۱۶)

۴..... علامت مسح موعود یقینیض المقال بود کہ مال غیمت ایشہ رکبشت بود کہ مسح مال خواہد داد و مردمان قبول نخواهد کرد۔ مگر مرزا بجاے مال دادن خود پول باعانت میکرفت۔ گاہے اعانت تالیف کتب گاہے اعانت تو سیع مکان گاہے اعانت لئکر خانہ۔ گاہے اعانت سکول (مدرسہ) گاہے اعانت منارة اسح گاہے اعانت فیس بیعت۔ گاہے برائے اشاعت دعاوی خود۔ غرض بہر حیله بجاے مال دادن مال میگرفت۔

۵..... علامت مسح موعود این است۔ مسح موعود آنست کہ بحق وے بیہود میکنند کہ اور ابردار کشیدم و خدا تعالیٰ در قرآن شریف تردید یہود کردہ میل ماید کہ مسح نقل شد و نہ بردار کشیدہ شد خدا تعالیٰ اور ایسوئے خود برداشت داد نازل شود و کے از الہ کتاب باشد کہ بر او ایمان نیارہ دو عیسیٰ ﷺ باشد گواہ بر ایشان روز قیامت۔

باوجود این نفس قطعی قرآنی ہر کہ گوید کہ من ہمان مسح هست کہ خبر او رسول اللہ ﷺ وادہ او کذاب اکبر است و مکنیب کنندہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ است و از دائرہ اسلام خارج۔ چاکہ او مکنک صریح قرآن و حدیث و اجماع امت است۔

حدیث دیکھ نقل مکنیم تاکہ ثابت شود کہ حضرت عیسیٰ ﷺ زنده برآ سماں موجود است و در آخر زمان نزول فرماید و بعد نزول فوت شود و در مدینہ منورہ بمقبرہ رسول اللہ ﷺ مدفن شود و لاف و گزارہ مرزا باطل است۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزَلُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَرَوَّجُ وَيُؤْلَدُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمْوَثُ فِي الدُّنْدُنَ مَعِيَ فِي قَبْرٍ فَاقْلُوْمَ آتَاهُ وَعَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاجِدٌ بَيْنَ أَبْنَيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ جَوَزِيَّ نَبِيًّا (کتاب الوفاء ص ۸۳۲ حدیث نمبر ۱۵۷۵ باب فی حیثیت ﷺ)

ابن مریم مع بینا مکلوة ص ۳۸۰ باب نزول سیل (ع) ترجمه. روایت است از عبد الله ابن عمر که فرموده بخیر خدا مکمل
که فرو آید عیسیٰ بن مریم بطرف زمین پس نکاح کند او لاد پیدا کرده شود برائے او و بماند چهل و پنج سال درونی.
بعد از اس بیان دوفن کرده شود تردم من در مقبره من پس استاده شوم من ویسی این مریم از یک مقبره از میان ابوکبر و عمر
روایت کرد ایں حدیث را ابن جوزی در کتاب الوفاء.

ازین حدیث هفت امور ثابت گردیدند.

اول اصلًا نزول حضرت عیسیٰ بن مریم رسول اللہ نبی ناصری صاحب کتاب انجلی نہ که دیگرے از
امت محمدیہ مکمل.

دوم شادی کند چرا که چول مرفوع شد شادی شده بود.

سوم بعد نزول صاحب او لاد شود. مرزا که صاحب او لاد بود هرگز سچ موعود تسلیم کرده نشود.

چهارم مدت سکون وے بعد نزول چهل و پنج سال است. مرزا بعد دعوے چهل و پنج سال زنده نمانده.

پنجم جائے دفن شدن سچ بمحاجه اے حدیث شریف مدینہ منورہ است نہ قادریان.

ششم بروز قیامت برخواستن از میان ابوکبر و عمر.

هفتم نازل شود ز آسمان نہ که زخم مادر پیدا شود. چنانکه مرزا پیدا شد.

مجلہ ایں هفت پیشویها. دو پیشویها حسب فرمان رسول خدا مکمل طلیور آمدند. چنانکه حضرت محترم
صادق رسول اللہ مکمل خبر داده بود یعنی اول حضرت ابو بکر غیفه اول بمقبره رسول اللہ مکمل دفن کرده شد و دم حضرت
عمر غیفه دوم حسب پیشوی ایشان دفن بمقبره رسول اللہ مکمل شد حالانکه ایشان پیشوی آنوقت کرده بود که
رسول اللہ مکمل زنده بودند و بعد آنحضرت مکمل حضرت ابا بکر صدیق غیفه اول مقرر شد دور جنگ و جدال شامل
مسلمانان ماند و در پیچ چک جام شیادت نہ نوشید و حسب فرمان رسول اللہ مکمل در مدینہ منورہ فوت شد و دفن گردید.
همیں طور غیفه هائی حضرت عمر فاتح بیت المقدس وغیره ممالک در پیچ چک شیید نخد دور مدینہ منورہ حسب پیشوی
خبر صادق مکمل دفن گردید.

چون ایں دو واقعات من و عن طلیور آمدند دیگر اخبار هم ضرور بحصہ ظلیور خواهند آمد چنانکه اعتقاد ہر مومن
است و تاویلات مرزا باطل گردید که میگوید من بطریق روحانی وجود پاک رسول اللہ مکمل دفن شده ام.

مرزا غلام احمد صحبتی ایں حدیث را خود تصدیق نموده و در کتاب خود نوشته ترجمه اردو عبارت او این است۔
”برائے تصدیق ایشان پیشوی ایشان مکمل آسمانی محمدی بیگم۔ جناب رسول اللہ مکمل پیش از وقوع پیشوی فرموده
است که پیتروج و پیولڈ لہ یعنی آں سچ زوجہ کند و نیز صاحب او لاد شود۔ و ظاہر است کہ ذکر ایں تراجم او لاد عام
نمیست بلکہ خاص است چرا که ہر کیھادی میکند او لاد پیدا میشود دریں پیچ تعجب نیست بلکہ از تزویج خاص تزویج مراد
است که برائے او پیشوی کرده ام۔“ اخن۔ (حاشیه ضمیر انجام آتم ص ۵۳۷ خزانی ج ۱۱ ص ۳۲۷)

نیز مرزا صحبتی در کتاب خود که نامش میگوین ۱۹۰۶ء است نوشته که من بکہ خواهم مردیا در مدینہ
(نکره ص ۹۱۵ طبع سوم) اخن ازین عبارت مرزا که الہامی است تصدیق ایں حدیث میشود۔

ازین عبارت مرزا اظہر من القوس است که ایں حدیث رسول اللہ است پس بھکس را از مرید انش حق
نمیست که از مغمون ایں حدیث انکار کند و القویم نون بیغض الكتاب و تکفرون بیغض را ممداق گردد۔ چول از

تمام حدیث پایه شیوه رسید که حضرت عیسیٰ ﷺ اصلًا از آسمان پاکیں بطرف زمین آنکند است و ازین سب تا حال زنده است بعد زرول خواهد مرد. چنانچه از حضرت ابن عباس روایت است آن عیسیٰ حین رفع کان ابن النّفیں و قلائیین سَنَةَ وَسْتَةَ أَشْهُرٍ وَكَاتَ نَبْوَةَ قَلَافُونَ شَهْرًا وَأَنَّ اللَّهَ رَفِيقَهُ بِجَسِدِهِ وَأَنَّهُ حَيٌّ الْآنَ وَسَيَرْجعُ إِلَى الدُّنْيَا فَيَكُونُ فِيهَا مَلْكًا ثُمَّ يَمْوَثُ كَمَا يَمْوَثُ النَّاسُ.

(الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۲۵ باب ذکر القرون والسنین اتی میں آدم و محمد علیہم السلام)

یعنی حضرت ابن عباس میغیر ماید کہ فتنگی حضرت عیسیٰ ﷺ برداشت شد عمر وے کی دوسارہ وشش ماہہ بود و نبوت وے کی ماہہ بود پیغمبر اللہ تعالیٰ اور ابراہیم داشت بجسم عضری و او تا حال زنده است و او نیز واپس آنکند است درین دنیا و باادشا شود و باز بکیر و چنانکہ دیگر مردمان سے میرند۔

ازین روایت امور ذیل ثابت شدند۔

اول..... رفع عیسیٰ ﷺ بعد عصری ثابت شد و قیاس مرزا غلط شد کہ رفع روحانی مراد است چرا که رفع روحانی برائے ہر مومن معمود است۔

دوم..... رفع پھر ۳۴۳ سالہ شدہ بود۔ و قیاس مرزا غلط شد کہ ”در کشمیر قبر عیسیٰ است و او عمر یکصد و بست سالہ یافت۔“

سوم..... رفع بحالت زیست ثابت شد۔ و قیاس مرزا غلط شد کہ عیسیٰ ﷺ در آخر زمان واپس بیاید۔ و برائے

چهارم..... نزول جسمانی ثابت شد چرا که لفظ رفع خاہر میکند کہ حضرت عیسیٰ ﷺ در آخر زمان واپس بیاید۔ و برائے رجعت زندگانی لازمی است۔ اگر کسے گوید کہ برآسمان رفتن محال عقلی است و باز آمدن ممکن نیست۔

جو اب شایکہ نازل شدن عیسیٰ ﷺ علامت و نشانے است از علمات قیامت محوائے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلْسَاجِعَةِ یعنی نزول عیسیٰ ﷺ علامت است از علمات قیامت۔ و قیامت ہم از حالات عقلی است کہ مردگان ہزارہا سال و یوسیدہ شدہ استخوانها زنده شوند و خاک شده جسم خاکی باز زنده گرد و حساب و کتاب آخرت گرفته شود۔ و دیگر علمات قیامت ہم از حالات و غیر ممکن است۔ مثلًا طلوع آفتاب از جانب مغرب و خروج دجال و خدا که منافق و راحد است نبوی مذکور شدہ ہے غیر ممکن و محال انہیں خروج یا بوجوہ و ماجوہ و صفات آناب ہم محل و مافق لفہم انداگر فتحے برہنائے محال عقلی انکار کند از روز جزا و سزا و یوم الحساب انکار لازم آید و انہیں انکار از ایمان و اسلام خارج کننده است و انہیں انکار ہم کفار از فتح ایمان محروم مانند و ہمیں فرق است۔ اسلام و کفر۔ پس مومن را نشاید کہ برائی اعتراضات قاسده الثقات کند و از دولت ایمان یومنون بالغیث بے بہرہ ماند چرا کہ برائی مسئلہ اتفاق امت است کہ حضرت عیسیٰ ﷺ در قرب قیامت از آسمان نازل شود۔ و دجال را قتل کند چنانچہ در احادیث ذیل آمد۔

ا)..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ فِي لَهْلَةٍ أَسْرَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَمُهُمُ السَّلَامَ فَعَدَّا كَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهَا فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهَا فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عِيسَى فَقَالَ أَمَا وَجَيَّبَهَا فَلَا يَعْلَمُ بِهَا أَخْدَلَ اللَّهُ وَقِيمَةً عَهْدَهُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الدِّجَاجَ خَارِجٌ قَالَ وَمَعَنِي قَضِيبَانَ فَإِذَا رَأَيْتَ ذَابَ كَمَا يَلْذُبُ الرِّصَاصُ قَالَ فَهُبِّلُكُمُ اللَّهُ.

۲..... سید بدراالدین علامہ یعنی در عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷۵ تو شد آن عیسیٰ یقتل الدجاج بعد آن یُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ یعنی حضرت عیسیٰ ﷺ دجال را قتل کند بعد از نازل شدن از آسمان۔

۳..... قاضی عیاض بر حواشی صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۰۳ حاشیه نوی باب ذکر دجال۔ قال القاضی نَزُولُ عِيسَى وَ قُتْلُ الدِّجَالِ حَقٌّ وَ صَحِيحٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنْنَةِ بِالْأَخَادِيْبِ الصَّحِيْحَةِ .
۴..... قال الحسن قال رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى لِلَّهِ يَهُودُ أَنَّ عِيسَى لَمْ يَمُتْ وَ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۰ تفسیر آل عمران) یعنی رسول اللہ ﷺ یہود را فرمود که تحقیق حضرت عیسیٰ ﷺ نموده و تحقیق آں واپس آئندہ است در میان شاپیش از آمدن روز قیامت .

۵..... چوں رسول اللہ ﷺ بجماعت صحابہ برائے دیدن ابن صیاد بخاری و تشریف فرمادند و چند علامات دجال در ابن صیاد یافته . حضرت عمر از رسول اللہ ﷺ اجازت خواست که اگر حکم شود ابن صیاد را کردجال است قتل کنم . حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمود که قاتل دجال حضرت عیسیٰ ﷺ است که بعد زدن اور قتل کند .

(خلاصه حدیث مکلوٰۃ ص ۲۷۸ باب قصہ ابن صیاد)

۶..... حضرت عائشہ صدیقهؓ بجانب رسالت مآب ﷺ عرض نمود که مراعلم میشود که من بعد از حضور زنده خواهم ماند . پس اجازت فرماید که من بعد از وفات خود به مقبره حضور به پہلوئے جناب دفن کرده شوم حضور ﷺ فرمود که نزد قبر من پیغ جانے قبر نیست بجز قبر ابویکر و عمر و عیسیٰ ﷺ .

(خلاصه حدیث مذکوره حاشیه مدد امام احمد ج ۱ ص ۵۷ باب زنول عیسیٰ ﷺ)

۷..... اخراج البخاری فی تاریخه عن عبد الله ابن سلام قال يُذکُنُ عِيسَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ صَاحِبِهِ (وَأَبِي بَكْرٍ وَ غَمْرَ) فَيَكُونُ قَبْرَهُ رَابِعًا یعنی عبد الله بن سلام گفتہ که دفن خواهد شد عیسیٰ مع رسول اللہ ﷺ و قبرش قبر چهارم شود . (تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۲۳۵)

۸..... اخراج ابن عساکر و اسحاق ابن بشر عن ابن عباسؓ قال فی قوله تعالی عزو جل با عیسیے اتی مُؤْفِنَکَ وَ رَاغِفَکَ إِلَى لَمْ مُؤْفِنَکَ لَمْ مُؤْفِنَکَ فِي اخْرِ الزَّمَانِ یعنی زید حضرت ابن عباسؓ ایں بود که حضرت عیسیٰ ﷺ بعد از زدن فوت شود در آخر زمان . (تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۳۶)

۹..... و فی البخاری قال ابن عباسؓ اتی مُؤْفِنَکَ بَعْدَ إِنْزَالِكَ مِنَ السَّمَاءِ فِي اخْرِ الزَّمَانِ یعنی اے من ترا وفات دہندا ام در آخر زمان بعد از نازل شدن تو از آسان . (تفسیر جلالین ص ۵۰)

۱۰..... او مُمِيتَکَ فِي وَقْتِکَ بَعْدَ النُّزُولِ مِنَ السَّمَاءِ یعنی وفات دہندا تو ام بعد از زدن از آسان بوقت مقررہ . (تفسیر مارک جلد اول ص ۱۲۵)

۱۱..... ان فی الایة تقدیماً و تاخیراً . تقدیرہ اتی رالفعک اتی و مطہرک مِنَ الْدِينِ كَفَرُوا وَ مُؤْفِنَکَ بَعْدَ إِنْزَالِكَ إِلَى الْأَرْضِ یعنی وفات دہندا تو ام بعد زدن از آسان بوقت آخرت بسوئے زمیں . (تفسیر خازن بلڈ اول ص ۲۵۶)

ناظرین کرام . از تر آن شریف و احادیث مذکوره تفاسیر صحابہ کرام اظہر من اقصیں است که حضرت عیسیٰ ﷺ در آخر زمان از آسان فرو دا ید و پیچ کس را از امانت و الجماعت خلاف نیست بلکہ مرزا تقی خود در کتاب برایین احمدیہ که از تصاویف اوست نوشته که چوں حضرت عیسیٰ ﷺ دکربار درین دنیا تشریف آور شود دیں اسلام در جمیع آفاق و اقطار خواهد رساید . (برایین احمدیہ ص ۲۹۹ حاشیه در حاشیه خزان ج ۱ ص ۵۹۳ مصنف مرزا قادیانی حنفی)

گرفتوں کے مرزا ایں ہمہ اقوال بزرگان را وصوص قرآنی و احادیث را بمقابلہ الہام خورد میکنند والہام خود را کہ ظنی است وہم جنت شرعی نیست ترجیح داده دعوے مسیحیت و بنوت میکنند . نقل الہام اوایں است .

الہام میں این مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے۔ (از الہ ادہام حصہ دوم ص ۵۶۱ خزانہ حج ۳۰ ص ۲۰۲)

یعنی میں این مریم رسول اللہ فوت شد، است و تو در رنگ دے رکھیں شدہ آمدہ۔

ایں اصول مسلمہ جمع فرقہ اے اسلام است کہ الہام امتی جنت شرعی نیست چند تو اول بزرگانی دین اتنا
نقش کردہ شوندتا معلوم شود کہ الہام مرزا جنت شرعی نیست و مسلمانان مامور یہ سہر کہ بدروی الہام کے امتی کندہ چاکر
الہام ظرفی است و قرآن و احادیث علم یقینی دکار مسلمان نیست کہ ظن رابر یقین ترجیح و بد عمل کند خود گمراہ شود و دیگر
مسلمانان را گمراہ کند و بنیاد دعاوی خود بر الہام کئی ظرفی است می نہدے۔

..... سیدنا حضرت عزیز بر الہام خود عمل نہ کردے تا وقٹکی تصدیق از قرآن شریف نہدے۔

۲..... حضرت قاضی شاہ اللہ صاحب در ارشاد الطالبین میٹر مانندہ کہ الہام اولیاء موجب علم ظرفی است۔ اگر کشف ولی
والہام او مختلف حدیثے ہوں، اگرچہ ازاد احادیث باشد بلکہ قیاس کہ جامع شرائط قیاس باشد مختلف باشد در اینجا قیاس را ترجیح
باید داد و میکوئند کہ ایں مسئلہ در سلف و خلف تخفیف علیہ است۔

۳..... امام غزالیؒ در احیاء العلوم میٹر مانندہ کہ ابو سلیمان وارانی رحمۃ اللہ علیہ میٹر موند کہ بر الہام عمل باید کر دتا و قٹکی
تصدیق دے از آغاز کردہ نہدہ۔

۴..... حضرت میران میر شیخ عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ در فتوح الشیب میٹر مانید کہ بر کشف والہام عمل باید کرد
بشرطیکہ آں کشف والہام مطابق قرآن شریف و احادیث نبوی و اجماع امت و قیاس صحیح باشد۔

اما ایں کاذب میں نبوت و رسالت پر وجود دعوے مسلمانی و امتی بودن حضرت خاتم النبیین، میں گوید کہ ۔

آنچہ	من	بشوک	زوہی	خدا
بخدا	پاک	دائمی	ر	خطا
بچو	قرآن	منزہ	اش	دائم
از	خطاها	ہمیں	است	الہام

(نہدہ الحج ص ۹۹ خزانہ حج ۱۸ ص ۲۲۷)

و از روئے جارت میگوید کہ حدیث رسول اللہ ﷺ اگر مطابق الہام من باشد من آں حدیث رادر
بدروی می فکرم۔

اجماع امت بر این است کہ بر الہام کہ خلاف قرآن شریف و حدیث نبوی باشد روی است و قابل عمل
نیست اما ایں مدعی کاذب قرآن و حدیث و تعالیٰ صاحب رضی اللہ عنہم و اجماع امت را بمقابلہ الہام خود قابل عمل
نمید اندا دروغ باف چنین است کہ مسلمانا زارے فرمید و میگوید۔

ما	مسلمانیم	از	فضل	خدا
مصطفیٰ	مارا	امام	و	پیشووا

(براج منیر ص ۹۳ خزانہ حج ۱۲ ص ۹۵)

مسلم راحم ایں یوکہ الہام راتابع قرآن و حدیث بکندا لکن مرزا قرآن شریف و احادیث نبوی راتابع
الہام و وساوس خود میکند بیوں ایکہ مرزا را وسوسہ در دل پیدا شد و شیطان اورا بخلاف قرآن شریف و احادیث و
اجماع امت و اولیاء اللہ الہام کر دکہ تو سچ موعود ہستی و حضرت عیسیٰ ﷺ وقات یافتہ است و ہر کہ وفات یا بد و بارہ
دریں دینا گوئی میکند۔ چونکہ حضرت عیسیٰ ﷺ نبی اللہ یو و حضرت خاتم النبیین نہدہ حضرت عیسیٰ این مریم نبی اللہ

فرموده بود مرزا را لازم افتاد که دعوی نبوت هم کند و همه ختم نبوت را بگذرد پس او گفت که من صحیح مسعود استم و خدا تعالیٰ مارا ابن مریم نام نهاده بهذا من تمی اللہ نیز سترم۔ و ندانست که کے جدید تمی بعد از حضرت خاتم النبیین از علمک مادر پیدا نخواهد شد۔ در حدیث است فرموده علیه عن آئی هر قبرہ انَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةُ الْعِلَّاتِ أَمْهَانُهُمْ شَقِّيٌّ وَدِينُهُمْ وَاجِدٌ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِصْمَى أَبِنِ مَرْيَمٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُهُ فَأَغْرِيَهُ رَجُلٌ مَرْبُوَعٌ إِلَى الْحَمْرَةِ وَالْيَاطِيْضِ (رواه مسلم اخرج ص ۳۰۶ وابوداود ح ۱۳۵ باب خروج رجال بمنى) ترجمـ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت میکند که رسول اللہ ﷺ فرموده ہے تغیریں پھوپھو برادران علیٰ مستعد که فردی احکام یشان مختلف اند گردن ایشان کی است یعنی توحید و دعوت الی الحق و من زندگت عصی این مریم سترم چاکر در میان من واو کے تغیرے نیست و پیکن او نازل شونده است۔ شناخت او این است که میانه قد و گندم گون است روایت کرد ایں حدیث را امام احمد و ابو داؤد بمنی صحیح۔

پس چون مهر شیروز ثابت شد که مرزا در دعوی مسیحیت و رسالت و نبوت صادق نبود و مائند فارس بن سعیان که در مصر دعوی صحیح مسعود نبود و شیخ محمد خراسانی که در خراسان ادعای مسیحیت نبوده در دعوی خود کاذب بود۔ بهذا مسلمانان را بازید که از مریدان او احتراز و احتساب کنند۔ و علامت مریدان او این است که بوقت گفتوگو ابتدی از وفات صحیح میکند و از حیات صحیح که بالخصوص قرآنیہ و احادیث نبوی علیه السلام و اجماع امت ثابت است اکار میکند۔

مفهوم بالذات جماعت مسند مرزا یعنی این است که از راه کامل و بخارا سلطنت روس را حاصل نموده برہنودستان حمله کنند و سلطنت هند گیرند تا پیغمبری مرزا غلام احمد تبی صادق آید که او نوشته "من تا القدر برکت خواهیم داد که با دشایان از جمله تو برکت خواهد بود" (الوصیت ص ۳۰۳ خواهی ح ۴۰۳) و دیگر الہام او این است یوقی الملک الظیم (یعنی مرزا را وسیع ملک داده شود) (حیدر الویحی ص ۹۱ خواهی ح ۲۲ ص ۹۲) برخانی این دو الہام میان بشیر الدین محمود خلیفہ قادری خواهی سلطنتی پیدا و مینیزد که حکومت ایں ملک آخر بدست احمدیان خواهد آمد و هر حکومت که در ترقی ایں جماعت سدر را شود و نجیب احمدی را الجای و ماوے پندر اردو بڈاں دے خود را منسوب کردن پسند کند ہلاک کرده شود و نام دے از صفویہ ہستی تابود کرده شود (تفہ شاہزادہ مصنف مرزا محمود خلیفہ خانی ص ۱۱۲) پس ایں جماعت سیاسی پہلووار و بغایت خطرناک است برایے عوام اہل اسلام علی الخصوص برایے رعایا و بادشاہ افغانستان و بخارا از ایں پر بیز باید کرو از گندم نهانی و جو فروشی ایں دشمنان اسلام فریب نباید خورد۔ و ما علینا الا البلاغ۔

فتویٰ علائیہ ہندوستان دربارہ کفار مرزا یان و عدم جواز منا کحت مسلمانان با مرزا یان سوال چہ مفہر مائندہ علائیہ دین و مفہیان شرع مبنیں بحق مرزا یان (مریدان مرزا) کہ جملہ حقاند مرزا غلام احمد قادریانی (دمی نبوت) را تسلیم میکند۔ اور ایسچ مسعود میانند در سالتش را قائل اند حالاتکہ علائیے عرب و عجم در حق ایشان فتویٰ کفرداده اند۔ اگر بحالت بے علی کے مسلمان بایشان منا کحت بکند بعدش معلوم شود کہ شوہر مرزا یان است۔ درین صورت ممکنہ مسلمہ بغیر طلاق مرزا یان (شوہر خود) با مسلمان نکاح کردن ممکون نہیا۔ و نکاح با مرزا یان جائز۔ ہبتوں بالتفصیل جزاً کم اللہ رب الجلیل۔

الجواب نکاح زن سعیہ با مرد مرزا یان جائز نیست۔ والدزن سعیہ را اختیار است که بغیر طلاق از مرد مرزا یان دفتر خود پہ نکاح کے سی بدهد۔ وفرض است که مجرد اطلاع اور از میرزا یان جدا بکند که صحیح با وزنا است۔ و یعنی هماں حکم دارو کہ کے دفتر خود را بلا نکاح بخانہ ہندوئے بغرسند بلکہ ازاں ہم بدتر است کہ آنجا نکاح را عقیدہ حرام میدانی۔ و انجا ہنام نہاد نکاح حرام را حلal یقین میکرد (معاذ اللہ) الحال اور از مرزا یان جدا کنائیدن فرض است باز با

کے سنی کہ بخواہد نکاح جائز است۔ چنانچہ در راجح مختار ج ۳ ص ۳۱۲، ۳۱۳ است قوله حرم نکاح المؤذنیة و لئن
هرج المؤذن و كل من له تكثيره معتقدة و در در مختار است و يبطل منه اتفاقا ما يعتمد لملة وهي
خمس النكاح والذهبية الخ.

كتبه عبدالنبي نواب مرتضى عدنى حنفى بريلوي

مع المذاهب والآراء على علم فقير احمد رضا خان عدنى عن بريلوي

بے شک بلا ترد نکاح بجائے دکر جائز است چراکہ با مرزا کی نکاح باطل مغض است وزناۓ خالص کہ او
مرتد است و نکاح مرتد اصلابا کے عورت جائز نیست و ضرورت طلاق آنجما افتکر نکاح شده باشد نہ در زنا۔ در
فتوائی عالمگیری نوشتہ ولا بجز للمرتد ان یتروج مرتدہ ولا مسلمة ولا کفرة اصلیۃ والله اعلم وعلمه اتم۔

الفقیر محمد ضیاء الدین حرره الفقیر القادری وصی احمد حنفی

عبدالاحد مدرس درست الحديث حنفی بحث

محمد عبدالمقدیر القادری البدایونی

احقر العاد فدوی علی بخش گنہ پندر

محمد شرافت اللہ رام پوری

محمد معز اللہ خان مدرس مدرسہ عالیہ رامپور

خواجه امام الدین صدیقی مدرس پشاوری عدنی عن

نور الحق عدنی عن پشاوری ماسکروی

نور الحسن مجتبی مدرسہ جامع العلوم کانپور

محمد عبدالوهاب عدنی عن پشاوری

احمد علی مدرس مدرسہ عربیہ میرٹھ اندر کوٹ

سردار احمد محمدی رامپوری

خان زمان خان عدنی عن مدرس جامع العلوم کانپور

ابوالحسن حقانی خلف الرشید مولوی عبد الحق حقانی دہلوی

غلام محمد مدرس پوری

نبیردار حکم نمبر ۲۵۵ گ ب ضلع لاکپور

احمد علی مدرس جامع العلوم کانپور

ذیعن احسن مدرس فتحانیہ مدرسہ لاہور

گل محمد خان مدرس مدرسہ عالیہ دیوبند

محمد سہول عدنی عن مدرس دیوبند

نبی بخش حکیم رسول گنری

رشید الرحمن رامپوری حال وارو جاندھر

ہادی رضا خان ریکس لکھنؤ

فقیر سید عبدالرسول عدنی عن جاندھری

حبيب الرحمن مخمن آپادی

في درست الحديث الداراني پہلی بحث

العبد الاشیم محمد ابراهیم احمدی القادری بدایون

محمد عبدالمadjد عدنی عنہ مجتبی مدرسہ شمسیہ بدایون

احقر العاد سید شہاب الدین تقہنندی جاندھری

محمد علی رضا خان عدنی عنہ رامپوری

محمد گلاب خان رامپوری

محمد یوس پشاوری عدنی عنہ

محمد عبدالکیم صواتی پشاوری عدنی عنہ

محمد سیر عالم پشاوری ہزاروی

مفتی عبد الرحیم ولد مفتی عبدالجید مرحوم۔ پشاور

محمد قرالدین عدنی عنہ رامپوری

احمد علی عدنی عنہ لاہوری

محمد یار خطیب مسجد طلائی لاہور

احقر دوست محمد جاندھری

فقیر محمد یوس عدنی عنہ قادری حنفی کشمیری مولدا

محمد عبد العزیز عدنی عنہ مدرس لاہور

هزیر الرحمن عدنی عنہ مدرس عربیہ دیوبند

بندہ اصغر حسین عدنی عنہ دیوبند

شبیر احمد عدنی عنہ دیوبند

محمد منور علی عدنی عنہ رامپوری

محمد ریحان حسین عدنی عنہ

محمد عبدالسلام ثوبانوی حصار

مولوی عبدالرزاق۔ راہوں

بسم الله الرحمن الرحيم

نام کتاب :	فتاویٰ ختم نبوت جلد سوم
ترتیب :	حضرت مولانا مفتی سعید احمد جلال پوری مدظلہ
صفحات :	۲۲۲
طبع اول :	فروری ۲۰۰۶ء
قیمت :	۲۰۰ روپے
مطبع :	اعضو پرنس لایبور
ناشر :	عالیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان
فون:	061-4514122-4583486